

اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

سید احتشام حسین

باقعہ کو نسلی بارہ دفعہ آنکھوں پر زبانی علیہ

اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

سید احتشام حسین



قومی کوسل برائے فروع اردو زبان

وزارت ترقی انسانی و سائل، حکومت ہند
ویسٹ بلک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی-066 110

© قومی کونسل برائے فروع اردو زبان، نئی دہلی

1983 : پہلی اشاعت

2009 : ساتویں طباعت

1100 : تعداد

85/- روپے : قیمت

290 : سلسلہ مطبوعات

Urdu Adab Ki Tanqeedi Tareekh
by S. Ehtisham Hussain

ISBN : 81-7587-164-4

ناشر: ڈائرکٹر، قومی کونسل برائے فروع اردو زبان، ویسٹ بلک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110066

فون نمبر: 26108159، 26179657، 26103381، 26103938، فیکس:

ای-میل: urducouncil@nic.in، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in

طابع: ہائی ٹک گرافس، 167/8، سونا پریا چہرس، جولینا، نئی دہلی - 110025

On 70 GSM TNPL (Tamil Nadu News Print and Papers Ltd.)

پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نقطہ اور شعور کا ہے۔ ان دو خداداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف الخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار اور موز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مختلف عوامل سے آگئی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس غیربروں کے علاوہ، خدا رسیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسار کرنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشكیل و تغیری سے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر و سیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کافن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر چھپائی کافن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقة اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

كتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قوی کنوں برائے فروع اردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انہیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شاکرین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور

پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے سمجھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کوسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تنقیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یہ امر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپنی تفکیل کے بعد قومی کوسل برائے فروع اردو زبان نے مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قارئین نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ کوسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھانپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔

اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گی کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خامی رہ گئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

رُشیٰ چودھری
ڈائرکٹر کرانچارج

فہرست

1	اردو زبان اور ادب کی ابتدا	7
2	اردو دکھن میں	24
3	دلی انحصار ویں صدی میں	48
4	اردو نشر کی ابتدا اور تشكیل	74
5	اووہم کی دنیا نے شاعری	83
6	نظیر اکبر آبادی اور ایک خاص روایت کا ارتقا	112
7	قدیم دلی کی آخری بہار	122
8	اُردو نشر، فورٹ ولیم اور اس کے بعد	138
9	ئئے دور سے پہلے، نظم اور نشر	154
10	نیاشعور اور نیا نشری ادب	177
11	نشاۃ ہائینہ کی اردو شاعری	222
12	نظم میں نئی سمپیس	260
13	نشر کے نئے روپ	295
14	موجودہ ادبی صورت حال	329

پہلا باب

اردو زبان اور ادب کی ابتداء

اردو ادب کی تاریخ اردو زبان کی تاریخ ستر و نع ہوتی ہے، ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا جس میں آہستہ آہستہ تہذیبی خیالات اور ادبی تخلیقات کیلئے جگہ بننی شکری۔ اردو کو تاریخ نے جنم دیا، اس کی نشوونما کے لیے احوال پیدا کیا اور ایک ایسے معیار پر پہنچا دیا کہ انہماروں انسیوں صدی میں متعدد بلکل اور غیر ملکی طلا نے "تہذیبستان" کی شکل میں اسے ملک کی عوامی زبان کا القب عطا کیا۔ اس کیانی کو سمجھنے اور اس کی کٹیلوں کو جوڑنے کے لیے ہزاروں سال پیچے جا پڑو رہی ہے۔ اگر پہر زبانوں میں جو تغیری ہوتا ہے وہ ادب کے مقابلے میں بالعموم کا بہادر ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ تغیری بھی سماجی شعور اور دوسری زبانوں کے ساتھ خلط ملٹا ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ادب جو اثرات آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ زبان انھیں دیر میں قبول کرتی ہے۔ اردو زبان اور ادب کی تاریخ پڑھتے ہوئے یہ سب باتیں سامنے آئیں گی اور تاریخ کی مرد سے سمجھی جائیں گی اور اسکی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گی کہ ن تو اردو زبان مہندستان کے باہر پیدا ہو سکتی تھی اور نہ اس کا ادب۔

لسانیات کے بہت سے ملائف مہندستان کو زبانوں کا "عجائب گھر" کہا ہے۔ مگر یہ سن کے خیال میں یہاں ۹۰، اڑانیں اور ۴۰ بولیاں پائی جاتی ہیں۔ اس تعداد میں بہت سی وہ زبانیں بھی شامل ہیں، جن کے بولنے والے یا تو کسی چھوٹے سے صلاتے میں محدود ہیں یا اتنے کم ہیں کہ ملک کی سانی تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح بخشیر بولیاں ایسی میں جو دوسری زبانوں کی

تابع ہیں اس لیے جب کسی ایسی زبان کی تاریخ سمجھنے کا اہتمام کیا جائے جس نے ملک کی ثقافتی حریق میں موثر حصہ لیا ہے، اس وقت یہاں کی ان سمجھی بڑی زبانوں اور بولیوں کو تظریں رکھنا ہو گا، جس سے تہذیبی اختلاط، ملاؤں کی قرب یا سال تعلق کی بناء پر اس کا رابطہ رہا ہے۔

اردو زبان اور ادب کی تاریخ سمجھتے ہوئے شمالی ہند کی زبانوں کی ترقی و توسعہ کو سامنے رکھنا اس لیے سمجھی ضروری ہے کہ جن معاشری اقتصادی سیاسی اور تاریخی حالات نے اردو زبان کی پیدائش اور اس کے لوب کے ارتقا کو متاثر کیا ہوا ہے دوسری ہندوستانی زبانوں کے بغیر ایسا پیسلنے میں مددگار رہے۔

اردو زبان کی تاریخ ایک طرح سے ہندوستان کے ہزار سالہ دور کی تاریخ ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان کی دوسری جدید زبانوں کی بھی توسعہ ہوئی۔ اس ہزار برس میں ہندوستانی معاشرہ عروج، زوال اور تغیر کے جن ادوار سے گزر اس کا اثر یہاں کی ہر زبان اور ادب پر پڑا، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ، یعنی تاریخی اور ثقافتی صورت حال نے کسی زبان یا بولی کو آگے بڑھا دیا اور کسی کی باڑھ روک دی۔ چنانچہ دسویں صدی کے بعد یہ کچھ ایسی تاریخی صورت حال رونما ہو گئی کہ ہند آریائی زبانوں کے گرد میں اس خُنیٰ زبان نے جنم لیا، جس کو آج اردو کہا جاتا ہے اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی پیدائش اور ابتدائی ترقی کس طرح ہوئی، اسے یہ نئی زبان کس نقطہ نظر سے کہہ سکتے ہیں اور ہندوستان کی ثقافت میں اس کا کیا مقام ہے؟ تفاصیلات میں الجھ بغير اس کی پیدائش کی مختصر و داداں کی ادبی روایات کے سمجھنے میں بہت مددگار ہو گی۔

ہندوستان کی تاریخ دیکھی جانے تو یہ بات واضح طور سے دکھائی پڑتی ہے کہ یہاں کی زبانوں میں اسی وقت کوئی بڑا تغیر و تبدل ہوا جب تک کہ نہ ہمیں یا سیاسی زندگی میں کوئی بڑی تحریک پلی ہے۔ آریائی زبانوں کے ورود سے چیلے یہاں در اور زبان اور ثقافت کا بڑا عروج ہوا جس میں آتشک، در اور دوسری قوموں کی بولیوں اور تہذیبوں کی آمد سے اٹھنے والی لہریں ہی ویسی طے سکتی ہیں۔ غالباً یہ کہنا نصیک ہو گا کہ در اور ثقافت نے سابق ثقافتوں کو بہت کچھ اپنے اندر سیاست لیا تھا، جو کچھ اس سے باہر تھا وہ بہت اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ آریوں کے آنے کے بعد شمالی اور سلطی ہند میں آریائی بولیوں نے چیلے کی زبانوں کی جگہ لے لی۔ یہ ایک انقلاب آفرین و قہقہہ تھا کہ شمالی ہند سے وہ زبان فنا ہو گئی جو کوئی جو دار و اور سڑپاک تہذیب کی خالق تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ علوم مرتقی ہے کہ اپنے ذہنی او تہذیبی اقیازات کے سبب آریہ درا و روف

ہیں پوری طرح مل نہ سکے۔ دراوزوں نے بعد میں آریائی ثقافت سے بھی کچھ لیا یعنی ابتداء میں مکمل ملاحدگی رہی اسی کا پیٹلب نہیں کیا گیا۔^۱ زبان و ثقافت کو دراوز زبان و ثقافت نے متاثر نہیں کیا، مذکورہ صرف مقدار اور نوعیت کا ہے۔ داکٹر سینیتی کا رچپڑی اور دوسرے ملمائے سایا نے ایسے متعدد الفاظ اک طرف اشادہ کیا ہے جو آسٹریک اور دوسری زبانوں سے یہ گئے اور آج بھی رائج ہیں۔ یہاں اس دلچسپ موضوع پر اس سے زیادہ نہیں لکھا جاسکتا۔

آریہ قوم کا اپنی بولیوں کے ساتھ ہندوستان میں آمادا فوجی زبان کے ہرج کے بعد تک گتائی میں دوسری اہم تغیرت ہوا۔ ان کے درود کے بعد دیدک تہذیب نے اہمیت اختیار کر لی جسکی اہمیت سنسکرت زبان میں ہوا لیکن عوام اپنی آن گھر بولیاں استعمال کرتے ہیں جنہیں پراکرت کہا جاتا ہے اس میں تک ہیں کہ آریہ قوم نے ہندوستان سماج کی سطح میں طبقات میں تقیم کر دیا کہ اوپنے طبقہ کی لوگی اور ادنی لوگوں کی بولیوں میں برا فرق پیدا ہو گیا سنسکرت کے قدیم ناٹکوں میں برمبن راجہ اور اس کے وزیر سنسکرت بولتے ہیں تو پست طبقے کے لوگ جن میں عوتیں بھی شامل ہیں پراکرت بولتے دکھلئے گئے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سنسکرت کے ساتھ ساتھ پراکرت بھی موجود تھی۔ برمبن نو از تہذیب مذہبی بندشوں میں ہنسپس کر جتنا اپنے کو اپر اٹھاتی چلی گئی اور اپنی زبان کو پاک بنانے کے خیال سے قواعد اور صحیح تلفظ کی بندشوں میں کستی چلی گئی اتنے ہی پست طبقے کے لوگ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ کہنے کو تو سنسکرت آج بھی اہم ثقافتی مقام رکھتی ہے، نیکن ہندوستان کی پوری تاریخ میں یہ دانشوروں اعلیٰ طبقے کے تعلیم پاافتہ افراد کی زبان رہی کبھی بول چاہو گا اور عامہ استعمال کی زبان نہ بن سکی۔ اس کا عروج صرف مذہب سے والبستہ نہ اسی یہے جب ہندوستان سماج میں مذہبی تغیرات ہوئے تو سنسکرت کو پہنچنے لگا۔ اس پرسب سے بڑی چوٹ اس وقوع نگی جب بدھ اور چین متوں نے جنم لیا اور ہندوستانی زبانوں کی تاریخ میں وہ اہم تغیریوں جس کو ہند آریائی زبانوں کے از من و سلطی کا درکار کہا جاتا ہے اور جس میں سنسکرت کے علاوہ پراکرت کو بھی بڑھنے اور پھیلنے کا موقع ملا۔

بدھ اور چین مذہبوں نے آریہ دھرم کے دھانچے کے اندر رہی ایک ایسے نئے مولیچے کی توسیع کی جو برہنہوں کے اختیارات و حقوق کے خلاف قائم کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مذہب کو صرف مخصوص سنسکاروں اور ظاہری اعمال کا مجموعہ بنار کھاتھا۔ مذہبی میدان میں بدھ مت ایک اہم تری۔²

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، راقم المعرف کی کتاب "ہندوستانی سانیات کا خالک"۔

کا نقیب تھا؛ لیکن ہندوستانی ثقافت کے اجتماعی ارتقا میں اس کو آریانی تہذیب کے خلاف کوئی نیادھار انہیں کہا جاسکتا۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ چھوٹی ذاتوں کو بدھ دھرم سے برازیضاً ملا لیکن طبقات کی وہ نیاد جو بہترین اقتدار کی مظہر پر بنی تھی ایک دم سے نہیں ٹوٹی۔ اس کی نسبت ہمیں، وہ ذاتوں کو چھوڑ کر زبان کے نقطہ نظر سے اس عظیم تحریک کا اندازہ لگانے ہے جو اس خوبی تبدیلی کے بھاؤ میں پیدا ہوئی تھی۔ ہمارا تماگو تم بدھ لے جب اپنے مدرب کی تبلیغ شروع کی اور بہت سے لوگ اس میں زندگی کے نئے نصب اعین کی جگہ دیکھ کر شامل ہونے لگے تو ان کے کئی بڑے شاگردوں نے جو ویدک دھرم، ثقافت اور زبان سے آجی طرح واقع تھے ان سے کہا کہ وہ اب تک پینی تعلیمات کو مقامی بولیوں میں پیش کرتے رہے ہیں، اب وقت آگیا ہے کہ انھیں ملک کی مقدس اور ہندو زبان یعنی سنسکرت میں مدون کر لیا جائے لیکن مہاتما بدھ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر سنتی کی اچھی تحریک کے یہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں:-

..... مگر بدھ نے اسے رد کر دیا، اور عام لوگوں کی بولیوں ہی کو اپنا وسیلہ اjmاء رکھا۔ ان کی یہی فرمائیں رہی کہ سب لوگ ان کے پندرہ نصائح اپنی کادر میں زبان میں ہی حاصل کریں اس سے ان بولیوں کے ادبی استعمال میں بہت مدد ملی۔ جمل میں ذہنی آزادی کے نقطہ نظر سے یہ ایک انقلابی تحریک تھی، جس کی پوری اہمیت لوگ اس وقت نہ سمجھ سکے اور نہ اس سے فائدہ ہی اٹھا سکے۔

اس طرح پر اکرتوں کو پھلنے پھونے کا موقع ملایہ ہندوستان میں سانی نقطہ نظر سے یہ تیری عظیم تبدیلی تھی جو تہذیق م کے آس پاس شروع ہوئی۔ اس دور میں پالی، مانگدھی، اڑام، مانگدھی، شورسینی اور دوسری زبانیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں اپنی جگہ پھیلانے لگیں۔ ابھی یہ دوسرا دو رتام بھی نہیں ہوا تھا کہ آریہ زبانوں میں پھر کچھ تبدیلیاں ہونے لگیں اور پر اکرتوں میں سنسکرت شتم سم کم ہونے لگے اور ان کی جگہ تدبیج الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا گھوکس ہوا۔ سانیات کے ماہر اس کو اپ بھوتشوں کا عہد کہتے ہیں۔ اپ بھوتشوں کو دور تبدیلی کی بگڑی ہوئی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا آغاز آٹھویں صدی ہیسوی میں ہی ہو گیا تھا اور کئی سورپسون تک ان کا بول بالا رہا۔ کچھ ایسا پتہ چلتا

لہ اندو ایرین اینڈ ہندی۔ ڈاکٹر سنتی کی اچھی تحریک

لہ۔ تتم سی یعنی سنسکرت کے خاص انفاظ

لہ۔ تجوییں سنسکرت کے انفاظ سے بدل کر بنائے ہوئے انفاظ

بچ کے جب کبھی ہندوستان کی مذہبی تہذیب میں شکست و رنجیت کے آثار پیدا ہوئے اور مرکزی قوت توٹ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی تو زبان پر سی اس کا اثر پڑا۔ اس وقت تک بدھنے سب کا ذرسمی گھٹ چکا تھا اور بہمنیت فلسفیات استدلال کا سارا لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ماہرین سایاں نے اپنے بھروسوں کو منہد آریائی زبانوں کے درسرے اور تیریے یا ہندوستانی دو ہمہ جدید کوٹانے والی کڑی کہا ہے۔ اپنے بھروسوں کا سلسلہ دیسے تو چودھویں صدی تک ملتا ہے مگر تاریخ کے لگن تک ہندوستان کی جدید زبانوں کی ترقی شروع ہو گئی اور اردو زبان دادب کی تاریخ لکھتے ہوئے ہم کو خصوصیت کے ساتھ یہ ہمد نظر پس رکھنا ہے۔

سایاں کے کئی عالموں کا خیال ہے کہ ہندوستان کی موجودہ آریائی زبانوں کا ڈول اپنے بھروسوں کے اندر ہی پڑا اور اس دفعہ صحیح یہ تبدیلی ایک عظیم تاریخی اور سماجی عمل کے ساتھ ہے ہوئی آریائی زبانوں سے متعلق دو ٹبری ٹبری تبدیلیوں کے ماندستا شکے فریب یہ نیا تغیر در ہمال اس قدر ہوا جب ہندوستان میں مسلمان ٹبری تعداد میں آئے۔ دیسے تو عرب اور مسلمان بہت پہلے سے بیان آجائی ہے تھے، لیکن دسویں صدی کے اوپر سے ان کو تاریخی اور سماجی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس بات کو زبھونا چاہیے کہ اگر اس وقت مسلمان نہ آتے تو بھی زبانوں میں تغیر و تبدل ضرور پوتا مگر اس کی شکل کچھ اور ہوتی مسلمانوں کے آنے سے سانی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہو گئی اور جو بولیاں دہ بولتے ہوئے آئئے تھے ان بولیوں نے بھی تدر تماہیاں کی بولیوں پر اثر ڈالا۔ اس صورت حال کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہندوستان کی سماجی زندگی کو بخوبی سمجھو لینا ضروری ہے۔

جب دملکوں یا قوموں کے لوگ ایک درسرے سے اس طرح گعل مل جاتے ہیں جیسے باہر سے آئے والے مختلف ملکوں کے مسلمان اور ہندوستان کے باشندے تو ان کا اشتراک ایک درسرے پر اتنی لا تعداد صورتوں میں پڑتا ہے جن کو الگ ظاہر کرنایا انجیس پوری طرح سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے بسیار اسی سماجی اور اقتصادی جذبات کو الگ الگ اور ملا جلا کر دیکھنا بہت سی پچیدہ شکلارت پر روشنی دائے گا۔ زبان کو انسانوں کے سماجی اعمال نے ہی حجم دیا ہے اور اس مل کے بدل جانے سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے مسلمانوں کے آنے سے ہندوستان کی دہ سماجی زندگی ایک نئی راہ پر حل پڑی جس میں بہت دنوں سے کوئی زبردست واقعہ بیش نہیں آیا تھا۔ زبان ثقافتی اور سماجی زندگی کے تجزیے میں ٹبری مذکور تھے اور ساتھ ہی ساتھ

اپنے ارتقا کے اسرار بھی کھو لتی جاتی ہے۔ وہ تو غیر آباد جگہ میں پیدا ہوتی ہے نہ ترقی حاصل کرنے
کے سلسلہ کے آنے سے پہلے جوز بانیں ہندوستان میں رائج تھیں ان میں کی کمی زبانوں
میں مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے دیا ہی تغیر ہوا جیسا ہستیقی، مصتوڑی اور تصوف وغیرہ میں
ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سانیات اور مادی حادثات کی باہمی اثر انگیزی کے خیالات بالکل غلط
ہو جاتے۔

پانچویں سے ساتویں صدی تک عرب تا جنوبی ہند میں ملابار کے ساحل پر آتے رہے۔
لیکن ان کی عربی زبان کا اثر وہاں کی زبانوں پر زیادہ نہیں ٹپا۔ اسی طرح عرب کے مسلمان
آٹھویں صدی کی ابتداء میں سندھ میں آئے لیکن انہوں نے بھی ہندوستان کی سامنیاتی زندگی پر
کوئی گہر ان نقش نہیں چھوڑا لیکن اس کے بعد جو مسلمان ایران کی طرف سے دسویں صدی کے آخر
سے یہاں آنے لگے ان کی آمد بارگی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتی ہے جو مسلمان دوسرا برس
سے ایران میں رہتے تھے ان میں کئی شفاقتی دھارے ملتے ہیں۔ ان کا مذہب تو ضرور سماں تھا
لیکن ان کی تہذیب میں زرشتی، بودھی اور سمجھی نداہب کے عناصر بھی دکھائی پڑتے ہیں ان میں اس
سے اکثر کی بول چال یا ادبی اظہار کی زبان فارسی تھی۔ جو خود ایک بڑی باشر اور قدیم آریانی
زبان ہے جب ہم ہندوستان کی اوپر خصوصیت سے پنجاب اور مردھیہ بھارت کی زبانوں کے
ارتقا کا مطالعہ کریں تو ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے نئی ہندوستانی زبانیں جس
عمر میں ٹبرھیں تہذیب یوں کے امتزاج کا وقت بھی دی ہی تھا۔ اگر کوئی شخص سماجی حیثیت سے
زبانوں کا مطالعہ کرنا چاہے تو اسے ہندوستانی سماج کی تبدیلیوں اور تاریخی واقعات کو دیکھنا
پڑے گا۔

ہرش وردھن کے بعد سے ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا اور ایسی حالت
پیدا ہو گئی جب کسی طرح کے سیاسی اتحاد کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اُسی وقت یعنی
شانہ کے گل بھگ پنجاب کے بڑے حصے کو مسلمانوں نے اپنے عبئی میں کر لیا۔ جب تک
محمد غوری نے اپنی سلطنت قائم نہیں کر لی اس وقت تک وہاں غزنوی دودمان راج کرتا
رہا۔ محمد غوری کے زمانے میں سلطنت کی حد پنجاب سے بڑھ کر مردھیہ بھارت تک پہنچ گئی اور
اس کے انتقال کے بعد شانہ میں علام خاندان نے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس وقت
مشرق وسطی میں چنگیز خان نے ایسی بڑی چارکھی تھی کہ بہت سے ایرانی ہندوستان بھاگ

آئے بھر خلیجیوں کی سلطنت قائم ہوئی جس کی سرحد تھوڑی ہی مدت میں مشرق میں بنگال تک اور جنوب میں کینیا کماری تک پھیل گئی۔ ملک کافر کے فاتحانہ مغلوں نے جنوبی اور شمالی ہند کو ایک کرو دیا۔ ظاہری شکل میں سارا ملک ایک مرکز کے زیر اقتدار تھا مگر ایک تغلقوں کے عمد میں ایک یاد رکھنے کے قابل بات یہ ہوئی کہ محمد تغلق نے ۱۳۲۷ء میں اپنا پایہ تخت دہلی سے منتقل کر کے جنوبی ہند میں دیوگری کر دیا اور دہلی کے سب شہر یون کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک کر کے دہلی جائیں اور جب یہ فرمان مناسب نہ ملے مہ ہوا تو سال بھر بعد ہی دلی واپس لوٹنے کا حکم ہوا گیا۔ بہت سے لوگ پلٹ نہ سکے وہیں رہ گئے۔ ابھی آگے چل کے ہم اردو کی پیدائش اور اس کی ابتدائی ترقی کا جائزہ یہ یہ گئے تو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو گا۔ دلی کو مرکز بنا کر ہنل کے بادشاہوں نے ہندوستان پر فرمانروائی کی۔ فوج کے لوگ اور عمال ادھر ادھر آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ سولھویں صدی میں نقل آئے، ایک وفعہ بھر مضمبو طائفہ مدنظر قائم ہوا اور دور کے صوبے جو گردشتر بادشاہوں کو کمزور پا کے خود مختار ہو گئے تھے، بھر مغل سلطنت کے زیر نگین آگئے۔ اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہوئی۔ تقریباً دو سال حکومت کرنے کے بعد جب مغلوں کا زوال ہونے لگتا تو مراثوں سکھوں اور سب سے بڑھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج ہوا۔

اس تاریخی پس منظر میں اردو زبان اور ادب کی پیدائش جنوبی ہماری سمجھ میں آسکے گی۔ پنجاب میں غزنوی شہنشاہوں کے پونے دو سورج رس کے دور حکومت میں اچھا خاصاً تھند یہی لین دین ہوا۔ محمود غزنوی میں چاہے جو خامیاں رہی ہوں مگر وہ بڑا علم دوست تھا اور سنکرت زبان کی اہمیت کو تسلیم کرتا تھا۔ ہندوستان سے اپنا تعلق خلاہ کرنے کے لیے اس نے اپنی بہر میں سنکرت کے الفاظ کو بھی جگہ دی تھی۔ ابیر دنی جو اس وقت کا سب سے مشہور عالم تھا اور جسے ہندوستان کے مذاہب، علم، تہذیب اور سماجی مسائل سے بڑی وجہی تھی اس میں جوں کی سب سے بڑی یادگار ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت سنکرت کی بہت سی کتابوں کے ترجمے عربی اور فارسی میں ہوئے۔ اس عہد کے بڑے بڑے فارسی شعر اکی تخلیقات میں بھی ایک آدم لفظ ہندوستان کی زبانوں کے ملتے ہیں۔ ارباب تاریخ نے خواجہ سعید سلمان کو ہندی کا پہلا شاعر مانا ہے۔ سعید لاہور کا رہنے والا تھا، عربی، فارسی کا مقصد رہا اور شاعر تھا۔

ملہ ابو زیجان، البيرونی (۹۶۰-۹۷۵ھ) بہت بڑا عالم تھا۔ ہندوستان پر اس کی تصنیف کتاب ہند مشہور ہے۔

ستہ اور کے قریب تھیں ف کیا ہوا اس کا کلام موجود ہے۔ اس نے ہندوستانی زبان میں بھی لیا تھا پسیا کری تھی اور مجموعہ بھی تیار کریا تھا اس کی زبان کو امیر خسر و نے ہندوی ہی کہا ہے۔ مگر یہ کہنا شکل ہے کہ اس زبان کی ہدایت کیا تھی۔ اس وقت فارسی زبان میں کسی بھی ہندوستانی زبان کو ہندوی کا کہتے اور لکھتے تھے۔ اس کے ہندوی مجموعے کا ذکر امیر خسر و اور محمد عوفی نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا میل جوں ضائع نہیں جا رہا تھا بلکہ زندگی کے ہر میدان میں بڑی درختی شکل میں ظاہر ہوا تھا، یہاں تک کہ راجپوتوں کی راج بھاؤں کے شاعر نرپتی نلخ او چنڈ بڑی نزدیکی عربی، فارسی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر جب دہلی مسلمانوں کا دارالسلطنت بنی تو میل جوں کی یہ ضرورت اور بُرھگھٹی اور سانی ارتبا طا کام کرنے پنجاب سدی آگیا اور وہاں کی زبانوں میں ملاوٹ شروع ہوئی۔

اس موقع پر سُلْطَنَہ زبان سے بھی پیسے والوں کو یہ بات نہیں سمجھ لئی چاہیے کہ جب کوئی ملک یا قوم کو کسی دوسرے ملک یا قوم پر شاخ مل ہوتی ہے تو غالباً اپنی زبان مفتور ح قوم کے لوگوں پر نہیں لادتا بلکہ اپنی زبان کے کچھ ضروری اور کام دینے والے لفظ اس زبان میں ملا کر خود ہی مقامی زبان بولنے اور اپنے لئے لگانا ہے جو مسلمان یہاں آئے وہ ترکی، عربی، فارسی اور مشرق وسطیٰ کی زبانیں بولتے تھے لیکن ان کے ادبی اور ثقافتی عمل کی زبان فارسی تھی۔ جب یہ لوگ یہاں آئے تو ان کو زیادہ تر آریائی زبانوں سے کام پڑا جس کی شکل بدی ہوئی تھی، مگر مال ایک سی تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی خیالات اُنک اُنک تھے، لیکن تخت شاہی پر بُرھگھٹ کر ہندوستان کے مسلمان بادشاہ مسلمان بننے سے زیادہ بادشاہ بننے کا جذبہ رکھتے تھے اور اپنی سلطنت کے قیام و احکام کے لیے صرف ہندوؤں سے ہی نہیں مسلمانوں سے بھی لڑتے تھے جس نے بھی ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے وہ اسے اپنی طرح جانتا ہے لغزوی کے وقت سے لے کر مغلوں کے آخری دنوں تک یہی ہوتا رہا۔ مسلمان فرمادی دنیا کے اور فرمان رواؤں کی طرح آن بان سے حکومت کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھے تہلیع دین ان کا نصب العین تھا وہ جس سامراجی طبقے اور شاہزادہ روایت سے تعلق رکھتے تھے اس میں کسی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرنا ان کی فطرت تھی۔ نہ ہی رکاوٹوں کو تصور نہیں میں لس بھیں اتنا ہی وقت لگتا تھا۔ جتنا سامراجی یاد و سری رکاوٹوں کے تواریخ میں۔ مسلمان بادشاہ یہیں کے ہو گئے تھے۔ یہیں کی مٹی سے خلق ہوئے اور یہیں کی خاک میں سوئے وہ یہاں کے لوگوں میں

گھل مل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں کے بہت سے رسم و رواج اپنایے تھے اور ہندوستانی زندگی سے لطف انہوں نے لگتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ یہاں سے لیا اور یہاں کی ثقافت کو جو کچھ دیا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ وہ سب کچھ آمیز ہو کر ہندوستانی بن گیا تھا۔

جب لڑائیوں چڑھائیوں، حملوں، معرکہ آراجنگوں سے پیدا ہونے والی نفرت کی لہسر بیشی تو ہندوؤں مسلمانوں کے دلوں میں محبتی کے سوتے پھوٹ پڑے جنہوں نے فن اور زندگی سب کو لپیٹ میں لے لیا اور ان کے جذبات، خیالات اور تصورات کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ تصوف کو ایک مقبول اور اس زمانے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ترقی پسند تحریک بنانے میں، ہندو اور مسلمان دونوں صوفیوں کا ہاتھ ہے جب فکر و عمل کی حدیں اس طرح قریب آگئی ہوں تو ایک ایسی زبان کے حجم یعنی کے امکانات دو رہیں رہ جاتے، جو ملی جلی سماجی زندگی کی علامت ہو۔ ایسی سماجی زندگی کی توسعہ و ترقی کے لیے اس کا سکھر کے اوپر آ جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بات پر تقریباً سبھی ماہرین انسانیات متفق الرائے ہیں کہ موجودہ آریائی زبانیں نہ تنہ کے قریب زبان کی شکل اختیار کرنے لگیں اور ان کے نئے میں خاص کروسطی ہندوستان اور پنجاب کی زبانوں کے نئے میں فارسی زبان اور میل جوں نے بڑی مدد کی۔

ابھی ہم اور دیکھ آئے ہیں کہ پراکرت کے دوسرے دور کے آخر میں اپ بھروس کا آغاز ہو گیا۔ شورستی پراکرت کے علاقے میں شورستی اپ بھروس بولی جانے لگی۔ اس علاقے کی پنجاب، دہلی اور اتر پردش کے مغربی حصے سے حد بندی کی جاسکتی ہے مستقلًا مسلمان پہلے پہل پنجاب ہی میں ہے، اس لیے وہ وہیں کی زبان کام میں لائے ہوں گے اور وہیں فارسی عربی اور ہندوستان کی بولیوں میں میل جوں ہو گا۔ اگر آج خواجہ مسعود سعد مسلمان کی ہندی تخلیقات موجود ہوں تو ہم اس زمانے کے میل جوں کا کچھ اندازہ کر سکتے۔ لیکن دھانی سو بر سو گزرنے کے بعد امیرروز نے حرم لیا، انہوں نے اور دوسرے صوفی بزرگوں نے ہندوستانی بولیوں میں تصوف اور محبت کے پیغام سنائے جس کے کچھ حصے قدیم کتابوں میں اب بھی مل جاتے ہیں۔ اگر ہم سائی نگاہ سے اور دو زبان کی پیداشری کا حال دیکھنا چاہیں تو ہمیں شورستی اپ بھروس کے علاقے میں پیدا ہونے والی جدید آریائی بولیوں کا عیق مطابعہ کرنا ہو گا۔ اس سلسلے میں دہلی اور پنجاب کو بڑی تکمیل حاصل ہے۔ دہلی شاہی ہند کے وسط میں ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں شورستی پراکرت کی کوکھ سے

پیدا ہونے والی کئی بولیاں ہکر لٹتی ہیں۔ یہ بولیاں الگ الگ ہوتے ہوئے سمجھی اپنی اصل میں ایک تھیں۔ دلی کے لیکھ طرف ہر یانی تھی دوسری طرف کھڑی بولی، پچھمیں چخابی کا ہلاقوش روشن ہو جاتا تھا، دکھن پورب میں بزح بجھاشتا کا۔ وہ مین سو سال تک تو ان زیارات میں کرنی قابل ذکر ادب پیدا نہیں ہوا، لیکن ان کی نیو مضمبوط ہوتی رہی پھر کرشن بھگتی کے زور سے بزح بجھاشتا میں شعر نے اپنے فن کا منظاہرہ کیا تقریب ہی راجستھانی اور اس کی بولیوں میں تھوڑا بہت ادب تخلیق کیا جانے لگا لیکن کھڑی بولی صرف بول چال کی ہی زبان بنی رہی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ ادنیجہ طبقے کے لوگ جو سمجھنے پڑھنے سے دلچسپی رکھتے تھے، اپنا کام فاکٹر سے چلاتے تھے اور مرکز میں ایسا ہونا ممکنی بھی تھا۔ کلاسیکل نبانيں اپنے زبردست اثر سے پراکرتوں اور بولیوں کی ترقی میں بہبیثہ مراجم ہوتی ہیں۔ یہی حال فارسی کے ہوتے ہوئے دلی کے آس پاس کب بولیوں کا تھا۔ پھر سبی کھڑی بولی میں، جو دلی کے بازاروں کی زبان تھی، حربی فارسی کے انفاظ داخل ہوتے رہے جس کا استعمال سیاسی اتحاد کے لیے ضروری تھا۔ اس کھڑی بولی میں جو تبدیلی ہوئی اس سے وہ زبان بنی جس کو عام طور سے "ہندوستانی" کہا جاتا ہے۔ اس ہندوستانی کی دو ادبی شکلیں ہیں۔ (۱) اردو، جس میں عربی، فارسی انفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور جسے فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اور (۲) ہندی جس میں شکرتوں انفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور جسے دیوانگری میں لکھتے ہیں۔ یہی نہیں بھونا چاہیے کہ کھڑی بولی کی یہ شکل چیزیں اردو ہی کی صورت میں لکھری اور جس نے بھی ہندوستانی کو ادبی کام میں لانا چاہا اس نے اردو ہی کو اپنا یا۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورسینی اپ بھرپور سے ارتقا پانے والی دوسری زبانوں میں ایک زبان اردو ہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو، چخابی اور ہر یانی کے قواعد میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، آئندہ ہم دیکھیں، مجھ کہ کئی علانے سائیان نے اس اصول کو سمجھنے میں کتنی غلطی کی ہے۔

ستارہ کے بعد سے ہندوستان میں کئی نئی تشکیل پذیر بانیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور ایسا ہونا ضری تحمل و سوہنگہ رجائب کے بعد جو مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوئے ہوں گے اور یہاں کے لوگوں میں گھل مل گئے ہوں گے ان کی ما دری زبان فارسی ترکی یا عربی ہو سکتی تھی۔ مگر نہ ہبی اور ثقافتی اسباب سے فارسی، حربی نظلوں کا استعمال ناگزیر رہا ہو گا اور فعال بادہ جس زبان کے علاقوں میں رہتے ہوں گے اسی علاقے کی زبان کا استعمال کرتے ہوں گے۔ سچ یہ ہے کہ زبان

کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سماجی ضرورتیں اسے راجح کرتی ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی مختلف زبانوں کی تائیں پڑھیں تو ہم معلوم ہو گا کہ زبان سے کام لینے کے متعلق ہندو مسلمان کا فرق نہیں تھا، مسلمانوں نے بزرگ بجا شا اور اودھی ہیں اسی طرح تخلیقات کی ہیں جس طرح ہندوؤں نے سندھستانی ادب کی تائیں میر قطب بن جائی، رس کھان اور رحیم کے نام آسی احترام سے لیے جاتے ہیں جیسے تلشی داس، سور اور تیرا کے۔ آسی لیے اردو ادب کی تاریخ کو اس نظر سے پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کی تفاوتی اہمیت سامنے نہ آ سکے۔ اردو کی پیدائش کی نسبت ہندی اور اردو کے کئی مصنفوں نے بہت علط خالات نظر اپنے کیے ہیں۔ سایا نیات سے ناملد کچھ لوگ اسے فارسی زبان پڑھنی سمجھتے ہیں، یہ مغالطہ اس لیے ہے کہ اردو میں فارسی الفاظ کا استعمال بہت کیا گیا ہے، مگر ایسا کچھ تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے ابتدائی مخفف فارسی فارسی میں جانتے تھے اور دوسرے اس لیے کہ فارسی خود ایک آریائی زبان ہے، اور سکرت کی ارشتہ دار ہونے کی وجہ سے بدلتی ہوئی شکل میں ایسے بہت سے الفاظ کو پشتے اندھے جگہ دیتی ہے جو فارسی میں سمجھی جاتے ہیں مگر یہ بات نظر اپنے کے قواعد کے اعتبار سے اردو کو فارسی سے بہت کم واسطہ ہے۔ کچھ معنف اردو کا ارتقا سندھی میں ڈھونڈھتے ہیں (جیسے مولانا سیلمان ندوی) اپنے دروازہ زبان سے اس کا ارشتہ جوڑنا چاہتے ہیں (رصیبے پاکستان کے سہیل بخاری) کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا (جیسے پاکستان کے شوکت بیزداری) مگر جبے بھی سایا نیات اور ہندوستانیں اسی ارتقا کا تصور ابھت علم ہے دہائی میں سے کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتا ان تمام نظریوں کا تجزیہ یہاں ممکن نہیں ہے مگر اتنا کہنا ضروری ہے کہ اردو نہ تو بدیکی بجا شاہد نہ وہ سندھ میں پیدا ہوئی ہے نہ جنوبی ہند میں نہ پنجاب نے کلی نہ بزرگ بجا شاہد۔ بلکہ جیسا کہ اور پڑھ کر کہا گیا ہے دلی کے چاروں طرف بولی جانے والی کئی بولیوں میں فارسی اوری کے لفظوں سے ملنے اور صفری ہندی کی اس بولی میں اجسے کھڑی بولی کہا جاتا ہے نکھری ہوئی شکل اختیار کرنے سے ایک نئی زبان کا ارتقا ہوا۔ ابتدائیں اس پنجابی کا اثر نبادہ رہا لیکن دھیرے دھیرے کھڑی بولی ہی اردو کی شکل میں واضح ہوئی گئی۔ اتنی بات تھیں سے کوئی جا سکتی ہے کہ اردو تک لئے تقریباً چالیس برس پہلے کئی ادیبوں نے یقیناً اسی انتہا مگر یہ نظر پر خود بدلے اہل ثابت ہو گیا ہے۔

لئے تفصیل بطالہ کے لیے دیکھیے، پنجاب میں اردو، صحفہ محمود شیرازی۔

تھے دیکھیے، آبی جات، صحفہ مولانا محمد حسین آزاد

تھے تفصیل کے لیے دیکھیے ہندوستانی سایا نیات (نحو و لام ازخ زبان اردو (مسعود جیمن خان))

آریائی زبان ہے جو کھڑی بولی، شور سینی اپ بھرش، شور سینی پراکرت کے اندر ہو کر بول چال کی
اس زبان سے رشتہ جوڑتی ہے جو سنکرت کے ساتھ ساتھ بولی جانے والی پراکرت بولیوں کی شکل
میں اب سے ڈھائی ہزار سال پہلے زندہ اور رائج تھی تاریخی اسباب سے اپنی ضروریات کے مطابق
اس نے فارسی، عربی اور سنکرت کے ذخیرہ لغات سے بھی کام لیا۔ اس کی موجودہ نبیاد کھڑی بولی
ہے مگر ایک زندہ زبان ہونے کے باعث ان سبھی زبانوں کے الفاظ آگئے ہیں جن سے اس کا
ربط قبیط رہا۔

اس سے پہلے کہ اردو ادب کے اوپر نقوش کی تلاش کی جائے، یہ بھی
دیکھ لینا چاہیے کہ قدیم تاریخوں میں اردو کے کیا کیا نام ملتے ہیں۔ کیونکہ اس کا
اثر اس کے ادب کی تاریخ پر بھی پڑا ہے۔ شروع میں جن لوگوں نے فارسی
میں ہندوستان کی تاریخیں لکھیں یا ہندوستان کی سیر کرنے آئے اور اپنے حالات سفر
لئے انہوں نے یہاں کی زبانوں کو معموماً 'زبان ہندو ہندی' یا ہندوی لکھا ہے۔ ان لوگوں کی
سانیٰ بیشتر پنجاب، گجرات اور شمالی سندھ تک تھی اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے
بیس کی زبانوں کے لیے ان نقطوں کا استعمال کیا ہوگا۔ امیر خسرو نے جہاں ہندوستان کی
زبانوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں 'ہندی' اور 'ہندوی' کے علاوہ 'زبان دہلی' بھی لکھا ہے۔ محمد تغلق
اور فیروز تغلق کے عہد فرمان روانی میں جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی شمالی ہند کی
بول پیل کی زبان کے لیے ہندوی لکھا گیا ہے۔ چودھویں اور پندرہویں صدیوں میں جنوب تر
اس فُرُز بان 'ہندوستان' یا 'ہندی' یا 'ہندوستان' کہا جاتا تھا۔ کبھی کبھی اسی کو 'دکن' یا 'لکھنؤ'
بھی کہتے تھے۔ سولہویں صدی میں ابو الفضل نے اپنی مشہور تصنیف 'آئین انگری' میں ہر صوبے
کی زبان کا آگز کر کیا ہے اور اس میں بھی لفظ 'ہندوستان' کا استعمال کیا ہے۔ گجرات میں اسے
'ہندی' یا 'ہندوی' اور گجراتی تینوں ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ تقریباً اٹھارہویں صدی
کے غلط تک لفظ اردو، کا استعمال زبان کے مفہوم میں نہیں ملتا، اس کی جگہ رختی، یا ہندی،
دہلی لفظ شاہزادوں کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ رختی، موسیقی کی ایک اصطلاح تھی اس میں
رگ رگنہ اس طائفی جاتی تھیں۔ زیادہ تر یہ لفظ نظم کے لیے کام میں لا یا جاتا تھا بشرط کے لیے
ہندی بولتے اور لکھتے تھے۔ اس طرح اردو کے کئی نام ملتے ہیں جن میں سے کچھ تو کسی خاص
دو بے یا علاقے میں بولے جاتے تھے اور کچھ کسی خاص زمانے میں میغولوں کے عروج کے زمانے

یہ محل اور فوج سے متعلق باز اڑھتے تھے، وہاں ملی جلی بولیاں بولی جاتی تھیں، اس کے لیے کبھی کبھی زبانِ اردو "یاڑیان" ہار دوئے محلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ انیسویں صدی کے آغاز سے کچھ پہلے اردو کا تلفظ بھی زبان کے معنی میں بولا جانے نکلا۔ اسی وقت یورپین مصنفوں نے اسے ہندوستانی کہنا بھی شروع کیا۔

اس بات کی طرف شاہزادی کیا جا چکا ہے کہ بارہویں صدی عیسوی میں خواجہ مسعود سعدیلان نے ہندوستانی تھیں کہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا۔ آجھے بڑھتے ہیں تو بارہویں اور تیرہویں صدی میں کئی صوفی فقیر ملک کے کونے کونے میں پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات بلا مخالف، انی جانشی ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے فارسی اور عربی نہ بولتے ہوں گے بلکہ کسی ایسی زبان سے کام لیتے ہوں گے جو ان کی سمجھ میں آسکے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی بنیانی زبان رائج نہ رہی ہو گی جس میں وہ مذہب اور تصور کے عینی خیالات آسانی سے ظاہر کر سکیں اس طرح کے بہت سے فقرے اور کئی تھیں ملتی ہیں جن میں ہم اُس اردو کی کھوچ کر سکتے ہیں جو بن رہی تھی۔ ہر بارے میں سب سے پہلا نام ابا فرید شکر بخش کا ملتا ہے۔ سانیات کے علمائی دو ہوں کو جوان سے منسوب ہیں ان کا نہیں مانتے لیکن قدیم کتابوں میں ان کے متعدد اقوال اور شعر ملتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حمید الدین ناگوری (وفات ۱۲۷۰ھ)، شیخ شرف الدین بوعلی قلندر (وفات ۱۲۶۵ھ)، امیر خسرو (وفات ۱۳۱۱ھ)، شیخ سراج الدین (وفات ۱۲۵۰ھ)، شیخ شرف الدین (متوفی ۱۲۴۰ھ)، میرزا شمس الدین (متوفی ۱۲۴۰ھ)، مخدوم اشرف چہاگنیسر (وفات ۱۲۵۰ھ)، شیخ عبد الحق ردوی (متوفی ۱۲۴۰ھ)، حضرت گیوس دراز (متوفی ۱۲۴۰ھ)، سید محمد جون پوری (متوفی ۱۲۴۰ھ)، شیخ بہاء الدین باجن (متوفی ۱۲۴۰ھ)، شاہ بامشم علوی (متوفی ۱۲۴۰ھ) وغیرہ کے بول اور دو ہے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ تیرہویں صدی سے فارسی، عربی افذاخ کے میل سے ایک ایسی زبان بن رہی تھی جو عام کی سمجھ میں آسکتی تھی جس کو صوفی فقیر تبلیغ کے کام میں لاتے تھے۔

ان ناموں میں امیر خسرو اور گیوس دراز اردو کی ادبی تاریخ کی نگاہ سے ہم ہیں۔ امیر خسرو نادی کے عظیم مصنف تھے اور ان کی بہت سی تخلیقات ملتی ہیں جو ایران اور ہندوستان دروں میں کیاں قابلِ احترام تھیں جاتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ہندوستان کی بولیوں، یورپیوں، مسیحیوں، ہندووں، ہمچوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں کی آب و ہوا، ہسن اور زندگی کے مختلف جنوبیں

کیستا ایش گئی ہے۔ یہاں کے فنِ سیقی میں وہ کامل ہی نہ تھے بلکہ اپنی طرف سے بھی انحصار نے اسے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ امیر بھی تھے فیض بھی۔ ایک طرف ان کی رسائی راجح دربار تک تھی، وہی طرف وہ عوام سے بالکل قریب تھے، اس لیے فارسی کے علاوہ انھوں نے حواہی زبان میں بہت کی نظریں رکھے ہیں، پسیلیاں اور کرنیاں لکھی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں میں سے سمجھی تخلیقات جو ان سے فسوب ہیں، انکی نہیں ہیں مگر جو کچھ ان کا مانجا تھا ہے آں کامطا العد کیا جائے تو پتھر پڑے گا کہ انھوں نے کھو دی لوی، بر ج بھاشا اور بخلوط کھرمی اور بر ج کا استعمال کیا ہے۔ گیتوں میں البتہ وہ زیادہ تر بر ج ہی سے کام لیتے تھے۔ ان کے نام سے ایک نظم، خالق باری بھی ملتی ہے، جس کے متعلق علا میں اختلاف ہے کہ وہ خسرو کی تصنیف ہے یا بھی یا نہیں۔ لیکن درست یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خالق باری ہم کو کج دستیاب ہوتی ہے اس میں بہت سا حصہ بعد میں دوسروں نے اضافہ کر دیا ہے اور جو کچھ خسرو نے لکھا تھا اسی میں گمراہ ہو گیا ہے۔ خالق باری میں موجود عربی، فارسی الفاظ کے سندھی مراوف نظم کر دیے گئے ہیں۔ وسط ایسا میں چھیڑ خال اور تاتاری لیثروں کے جلوں سے ڈکر بہت سے ایرانی عالم اور تاجر مندرجہ ایسا چھیڑ خال اور بجل چال کے جلے جانے کی ضرورت ہی ہوگی اور مگر ایخیر سرو نے ان کے الفاظ اور بجل چال کے جلے جانے کی ضرورت ہی ہوگی اور مگر ایخیر سرو نے ان کے لیے یہ ایسا لخت تیار کر دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم لوگے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہ کسکے کر خالق باری کا کوئی حصہ بھی ایخیر سرو کی تصنیف نہیں ہے۔ خسرو کے کلام کے کچھ نمونے دیے جاتے ہیں، اس کو کچھ علماء کو انھیں بھی خسرو کی تصنیف مانتے ہیں کلام ہے۔

گوری سودے سچ ہے اور کھو پڑا کے کیں چل خسرو گھر آپنے، رین بھی سب دیں
جب یار دیکھا میں بھر دل کی گھنی چفت اور ایسا نہیں کوئی عجب را کھے اور سے سمجھائیں کہ
یہں تو ہمارا یار ہے، تجھ پر ہمارا یار ہے تجھ دوستی بسیار ہے، اک شب موت م آئے کہ
خسرو کے باقی غصبہ دل میں دل کے کوئی قلب قدت خدا کی ہے عجب جب جو یا مل لئے کہ
 نہال مکیں کمن تناقل بدوار سینا بنا نے قیام
 کرتا بہ جہاں مدار ملے جانش کا ہے لیہوں کا چتیا
 شبان بھر جاں مہار حوزہ لف روز و صلیخ چوں عمر کو
 سکھی پیا کو جو میں دیکھوں تو کیسے ٹالوں ذہری ہیا

چو شمع سوزان چو ذرہ حیران زمہر آں ری بجھتم آخر
ذ غیند نینا خ اگ چنیاں د آپ آؤں پیشہ میر پیٹل
امیر سرو کی پسیلیاں بھی سانیات کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ
پسیلیاں دیکھیے:

بالاتھا جب من کو سجا یا بڑا ہوا کچھ کام نہ کیا
خر کہہ یا وس کا ناؤں بوجھے نہیں تو چھوڑ گا ناں (دواں)

ایک تحالِ موتی سے بھرا، سبک سر پر اونڈا حرا
چاول اور وہ تحال پھرے موتی اوس سے ایکٹ گرے (آسان)
ہم یہ بات تیصین کے ساتھ نہ کہہ سکیں گے کہ خسر نے اس زبان میں کیا کیا لکھا لیکن اس میں بالکل
شبہ نہیں کہ انہوں نے دل کے اس پاس بولی جانے والی بولی اپنی شاعری میں استعمال کی ہے، وہ
ایک فارسی شعر میں لکھتے ہیں:

چو من طو می ہندم، آمد راست پرسی ز من ہند وی پرس تانغز. گویم
امیر سرو نے جس زبان کو ہندوی کہا ہے، سچ یہ ہے کہ ہم اس سے ہندی زبان کی تاریخ
بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ زبان سماجی زندگی کی بنیاد
پر ہتھی ہے اس کا کوئی مندہ سب نہیں ہوتا۔ مخلف زبانیں بولنے والے جب ایک دوسرے کے
قرب آتے ہیں تو تغلقوں کا لین دین ضروری ہو جاتا ہے، جس طرح پرتوی راج راسو میں
چدر برداری نے عربی فارسی لفظوں کا استعمال کیا تھا۔ اس طرح فارسی شعر نے بھی یہاں کے
لفظ لیے۔ چدر برداری نے جو لفظ لیے ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ وہ زیادہ تر دہی
لفظ ہیں جن کی کچھ سماجی اہمیت تھی اور جن کو ربط قبط کے باعث عام لوگ بھی سمجھنے لگتے تھے۔
امیر سرو کا عہد خلبیوں اور تغلقوں کا حمد تھا۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں جو تاریخی کتابیں
فارسی میں لکھی گئیں۔ ان میں نہ جانے کتنے الفاظ ہندوستانی زبانوں سے یہ گئے ہیں جیسے
ٹھنگ۔ لوٹھنگ۔ ٹھڈل۔ ٹھوک۔ منڈھی ہجو دھری۔ راج۔ گھریاں۔ وغیرہ۔ ان باتوں کے
علاوہ معاصر تاریخیوں سے یہ سبی معلوم ہوتا ہے کہ درہوں میں جو فارسی کتابیں پڑھائی جاتی
لئے اس غزل کے لیے بھی شک کا انعام اکیا جاتا ہے کہ بخسر کی نہیں ہے۔

نہیں۔ ان کا مطلب ہندوستانی زبانوں میں سمجھایا جاتا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں مسلمانوں کے میل جوں سے ہندوستان کی خصیٰ اور یادی زبانیں متاثر ہو رہی تھیں اور جس طرح راجستھانی، بندیلی، بڑی، اور دھی وغیرہ کا ارتقا ہوا تھا اسی طرح اردو بھی اپنی جڑوں میں ہندوستان کی سرزمیں اور سماج میں پھیلا رہی تھی۔ شمالی ہند میں یہ زبان بن تو رہی تھی لیکن اس کا استعمال ادب میں نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کے برخلاف جنوبی ہند میں اسے ادب کے کام میں بھی لا یا جا رہا تھا۔ اس کا مفصل ذکر دوسرے باب میں کیا جائے گا۔

اگر ہم اس زبان کے اس تیزی سے بڑھنے پر غور کریں تو اس کا ایک بڑا اور نمایاں سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلی کی فوجوں میں ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہندو بھی ہوتے تھے اور مسلمان بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے تھے، ان میں سے بیشتر سرکاری زبان سے جو فارسی تھی ناواقف تھے اور سنسکرت سے بھی جو یہاں کی خاص علمی زبان تھی نہیں بلکہ تھے۔ اس لیے ان کے ربط باہم کا وسیلہ بول چال کی کوئی ایسی بھی زبان ہو سکتی تھی جس میں ضرورت کے مطابق فارسی عربی اور سنسکرت افاظ کا استعمال بھی ہوتا ہو، لیکن جس کی بنیاد مرکزی علاقے والی بول چال کی زبان ہو۔ یہ زبان دلی کے دارالسلطنت ہونے کے سبب سے کفردی بولی کے سوا ادوکوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پنجابی، ہریانی اور بڑی اثر پڑنا بھی لازمی تھا اور جب ہم آگے بڑھ کر کہنی اردو کا مطالعہ کریں گے تو ان کے اثرات کی تلاش کا موقع بھی ملے گا۔

اردو کے بننے اور پھیلنے کا دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں کی قدیم دینی زندگی اور مالکر اوری کے ضابطوں کو حمواً دیا ہی رہنے دیا۔ کچھ نئے لیکن تو ضرور بڑھا دیے لیکن عوام کی مالی حالت میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم و نسق چلانے اور مالکر اوری وصول کرنے کے لیے انھیں بخاؤں کے تکمیلی اور مقامی کارکنوں پر احصار کرنا پڑتا۔ یہ لوگ دربارشاہی کی فارسی زبان اور مقامی زبانوں کے درمیان ایک کڑی کا کام کرتے تھے اور اگر ایک طرف وہ کبھی کبھی فارسی کے اصطلاحی افاظ سے کام لیتے تھے تو دوسری طرف مقامی افاظ کا استعمال کرنے میں بکھر نہیں کرتے تھے۔ اس طرح وہ سامان ہم پہنچا گیا جو ایک نئی زبان میں طاقت پیدا کرتا ہے اور اس کے حلقوں کو وسیع کر کے اس کا مزارج ایسا بناتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے دوسری زبانوں کے افاظ کے کرانا کام چلائے۔

اس سے پہلے کہ ہم اردو کی ادبی تخلیقات کی تلاش میں دکن اور حجرات کی طرف جائیں،

ہندوستان کی نئی آریائی زبانوں پر ایک نگاہ ڈال لینا مقید ہو گا۔ اردو کے علاقے سے قصہ ب پنجابی تھی جس میں بہت دنوں تک تھوڑی سی کہاوتیں اور دو ہوں کو چھوڑ کر کس طرح کے ادب کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی حال ہریانی زبان کا تھا۔ نا بستھانی بولیوں میں ضرور راجپوت راجاؤ کے دربار میں کافی ادب جمع ہو گیا تھا، لیکن دسری زبانوں کی ترقی کے سامنے وہ دب سا گیا تھا۔ بزرج بھاشل نے سولھویں صدی میں زبردست ترقی کی اور اس کی رانچ کر دہ روایات نے بیسویں صدی کے آغاز تک شرعاً کو متاثر کیا۔ بنی یلی میں کچھ پربندھ کا وہ، یعنی مشنوی سے شابانہ نظیں ملتی ہیں جن کے زمانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اودھی نے بزرج بھاشل ہی کی طرح سولھویں صدی میں غیر معمولی ترقی کی بیکھڑے اور اوریزیا میں بھی اسی زمانے سے ادب ملنے لگتا ہے۔ مراثی میں تیرھویں اور چودھویں صدی میں صوفیوں نے شاعریہ ایک موثر ذخیرہ جمع کر دیا۔ ہندی ادب کے نئے مورخ آپ بھڑشوں کو بھی اپنے دائزے نے شامل کر کے ہندی تخلیقات کا یہ سلسلہ نویں صدی بیسوی ہی سے شروع کر دیتے ہیں لیکن انھیں ہندی کہنا محض جذباتی ہے امتدالی نہیں۔ اس طرح یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جن جدید آریائی زبانوں کی پیدائش گیارھویں صدی میں ہوئی تھی ان میں ادب کی تخلیق اسی وقت شروع ہوئی جب مسلمان یہاں کئی سو ہزار تک رہ چکے تھے۔ ان میں سے کئی زبانوں میں ان کی ایسی تخلیقات ملتی ہیں جن سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ فارسی کے علاوہ مقامی زبانوں میں بھی بحثتے تھے اور اگرچہ وہ مند ہی اور معاشرتی وجہ سے فارسی اور عربی کے جاننے کی کوشش بھی کرتے تھے مگر یہ بات سب کے لیے ممکن نہ تھی۔

اس مطالعے سے خاص نتیجہ نیکھلتا ہے کہ جونٹی زبان اردو کی شکل میں تخلیق ہو رہی تھی وہ اس وقت تک لوگوں کو اپنی طرف کھیپھی نہیں سکی۔ جب تک وہ شمالی ہند میں فارسی کے ٹھہرے اثرات کے نیچے دبی رہی اور اس کی اپنی شخصیت ابھر کر سامنے نہیں آئی۔ وکن کی بات الگ تھی اور اب ہم اردو ادب کے ارتقا کا مطالعہ اُسی علاقے میں کریں گے۔

دوسرے ایاں

اردو دکن میں

تاریخی نظر سے دیکھا جائے تو جنوبی ہند کی حالت شمالی ہند سے کئی حیثیتوں سے مختلف رکھائی رہی ہے۔ زمانہ قدیم سے ایسے کئی دور آئے ہیں جب جنوب تھوڑی مت کے لیے شمال کے زیر اقتدار آگیا ہے لیکن ذرا سا موقع ملتے ہیں اس نے پھر اپنی زندگی کو شمالی ہند کی حکومی سے آزاد کر لیا ہے۔ اور دو ادب کا سطاع العکر نے والوں کو بھی تاریخ کے اس مخصوص پل پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے۔

یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ جنوبی ہند ہمیشہ شمالی ہند سے الگ رہا، اس لیے ان میں مکمل علحدگی پائی جاتی ہے کیونکہ ابتدائی آریہ اشرات کے بعد بدھ مت کا چلن بھی شمال ہی کی طرف سے ہوا اور چھٹی سا توں صدی سے جنوبی ہند کے بڑے حصے میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں ان کی جو دیں بھی شمال ہند ہی میں ملتی ہیں۔ مشہور چالو کیہ خاندان کے حکمران شمال ہی سے وہاں پہنچتے تھے۔ یہی بات یادو خاندان کے لیے بھی کہی جاتی ہے۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی جنوبی ہند کے باشندے شمالی ہند کی بولیوں سے نا آشنا نہ تھے جب جدید آریانی زبانوں کا دو شروع ہوا اس کے دوسو برس کے اندر سی مسلمان اتر سے دکن میں پہنچ گئے اور اس طرح اس پر اپنے تعلق نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔

مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی کی فوجیں جنوبی ہند میں ہنچیں اور رد تی کی مرکزی سلطنت کا علاقہ دکن میں دو تک پھیل گیا۔ یہ تیرہ ہویں صدی تھی مسلمان فوجی، عمال، ہل خلافی فقراء اور شمالی ہند کے لوگ اپنے ساتھ وہ ملی جلی زبان بھی دکن لے گئے جو ابھی اپھی طرح

بن بھی نہیں پانی تھی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا شتر کو چھوڑ کر رجھا لیک آریائی زبان بولی جاتی تھی ہمارے دکن میں دراوڑ زبانیں رائٹھ تھیں۔ ان قدیم زبانوں میں ادب سبھی تھا۔ یہ نہیں آریائی زبان سے اتنی مختلف تھیں کہ ان کے اختلاط سے کوئی نئی زبان جنم نہیں لے سکتی تھی، اس لیے شمالی ہند کے جو فوجی ملازمین ان کے ہلکے خانہ، ان تماجر، صوفی، فقیر و ہال بس گئے تھے، اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا تو کسی د، اور زبان کا استعمال کر سکتے تھے یا اس طی جنی نئی زبان کا جسے وہ دل سے اپنے ساتھ لانے تھے۔ اس زبان میں پنجابی، ہرپاں اور کھڑی بولی کا میل تھا۔ یہ برج بھاشا کے اثرات سے بھی محفوظ نہیں تھی اور رسپس سے بڑی باتیں تھیں کہ اس میں فارسی عربی کے بہت سے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں انہوں نے اسی زبان سے کام چلا یا یہاں تک کہ وہ ترقی کر کے ادب کی زبان بن گئی۔ ادبی مورخوں نے اس کو سمجھی ہے۔ ہند کی سبھی زبان ہندوستانی نہیں ہے اور سبھی دکنی کہہ کر پکارا ہے۔

دوسری اہم واقعہ جس نے جنوبی ہند میں اردو کے پھیلنے میں مدد کی اور جس کی طرف پہلے آئیں اشارہ کیا جا چکا ہے چودھویں صدی میں پیش آیا جب محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد بن کر اپنا دارالسلطنت بنایا اور دلتی سے زیادہ تر باشندوں کو وہاں جانا پڑا۔ یہ اسی نقطہ نظر سے یہ واقعہ جیسا بھی ہو شکیل زبان کی نظر سے یہ اہم بابت ہوا کیونکہ ہمارا شتری اور دراوڑی زبانوں کے درمیان شمالی ہند کی ایک بولی مذہبی سیاسی اور تاریخی اسباب سے ادبی شکل اختیار کر رہی تھی۔ زیادہ حیرت خیز بات یہ ہے کہ اس وقت تک شمالی ہند میں جہاں اس زبان نے حجم یا ہتھا اس کا اپنا قابلِ اقتدار ادب نہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ سمجھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہندوستانی زبان زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے محدود تھی۔ جنوب میں مسلمانوں کے بس جانے سے یہ سمجھی ہوا کہ ہمارا شتر پر فارسی کا گہر اثر پڑا اور وہاں کے سنتوں اور مسلمان صوفیوں کے پریم اور گرجیان میں ایک طرح کا اشتراک دکھائی دینے لگا لیکن دراوڑی بولیاں نہ تو اردو فارسی سے متاثر ہوئیں اور نہ انہوں نے خاص طور سے اس ترقی پر سیرا در دیا دکھنی اور دکھنی تاثر کیا۔ جو اثر بھی ہے وہ اثر زیادہ تر سلفا میں دیکھا جاسکتا ہے، الغص پر یا زبان کے ادبی روپ پر بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ چودھویں صدی کے وسط میں جب تغلق بادشاہ کر زور ہو رہے تھے جنوبی ہند میں پھر جان آئی اور شمال

لہ تہذیبی تاریخ کے نقطہ نظر سے یہ بات سبھی مطابع کے لائق ہے کہ دلبی سے دیوگری بک کے راستے میں آج بھی ایسے بہت سے اہم مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کی قدیم آبادیاں اور صوفیوں کے ماسکن ہیں سفر کی یادداشتیں ہیں۔

نی مرکزوی سلطنت سے الگ ہو گیا اور وہاں بھی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ سلطنت شمالی ہند کی بادشاہیوں کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ مہندوستانی زنگ رکھتی تھی۔ شمالی ہند ایرانی اور عربی ثقافت سے متاثر تھا مگر دکن اس سے بہت کچھ مبترا تھا، اس لیے یہاں ایک مہند آریائی زبان کو ترقی کا اچھا موقع ملا۔ اگر تاریخ فرشتہ کی سند درست مانی جائے تو یہ ماننا پڑے ہے کہ بعض بھمنی بادشاہوں نے نظم و نسق اور راج کاوح کے کاموں میں ہندی زبان کو وسیلہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودھویں صدی ختم ہوتے ہوئے وہاں اردو زبان اپنے پوچکی تھی۔ اس کے پھیلنے کے جہاں اور اسابستھے وہاں ایک بڑا سبب یہی تھا کہ کوئی صوفی فقرانے اپنے خیالات اس زبان میں ظاہر کیے، جس سے کہ ان کے مانتے والے جو عربی اور فارسی سے ناواقف تھے ان کے خیالات کو سمجھ سکیں۔ استبدائی دکنی ادب کی شکل میر اس وقت تک جو کچھ ملا ہے وہ انھیں صوفیوں کی تخلیقات ہیں۔ ان تخلیقات میں نظر ہمیں ہے اور اثر بھی ہے۔

دنی اردو میں ادب کے ارتقا کو بخوبی سمجھنے کے لیے ہم اس کو کہیں ادوادار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دو رجوتاً متر صوفیاً نے ادب پر مشتمل ہے وہ لسانیات کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا زمانہ بھمنی سلطنت کے خاتمے تک پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص مہندوستان کی تھوڑی بہت تاریخ سے بھی آگاہ ہے اسے معلوم ہو گا کہ پندرہویں صدی کا خاتمه ہونے کے پہلے ہی بھمنی سلطنت کو پھوٹ کے ہستوں میں تقیم ہیگئی تھی تخلیق ادب کی نظر سے ان میں بجا پورا اور گول کٹھ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بجا پور میں عادل شاہی ریاست قائم ہوئی اور گول کٹھ میں قتلب شاہی۔ ان دونوں ریاستوں میں ادب اور دوسرے فنون کی بہت ترقی ہوئی۔ بادشاہیوں سے لے کر عام لوگوں تک میں شاعری اور ادب کا ذوق دکھانی دیتا ہے۔ اس طرح ہم بجا پور اور گول کٹھ میں ترقی کرنے والے اردو ادب کو اس کی ترقی کا دوسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ریاستیں جس طرح تقریباً ایک ساتھ قائم ہوئی تھیں اسی طرح ایک ساتھ ہی مغل شہنشاہ اور زنگ زیب کے ہاتھوں سلطنت مغلیہ کا ایک جزو ہو گیا۔ ان تینوں ادوادار کی کمائی اگر تفصیل سے لکھی جائے تو بہت کھلی جائے گی اور اس عنصر تصنیف میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن جو کوئی اس کا مطالعہ کرے گا اسے صرف

اردو ادب کے ارتقا کا اندازہ لگانے ہی میں مدد نہ ملے گی، بلکہ اس بات کا بھی احساس ہو گا کہ ایک زبان میں ثقافتی اثرات کے سبب سے کس طرح تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ زبان کے ابتدائی دو ریس جو سادگی و سولت ہوتی ہے وہ کس طرح دھیرے وھیرے نیت نابود ہو جاتی ہے اور خیال کی پچیدگیاں اسے کیسے دوسرا سے اسانیب سے روشناس کر دیتی ہیں۔ جو اس تبدیلی کو مبصرانہ نظر سے نہیں دیکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا دید و دانستہ کیا گیا ہے مگر پچ یہ ہے کہ سمجھنے والے جن ادنی روایات سے فیضان حاصل کرتے ہیں انھیں کا اثر زبان اور ادب کی صورتوں پر پڑنے لگتا ہے۔

اردو کے یہی بھی ہیں ہوا۔ زبان جب بول چال کی حد سے نکل کر ادب کے میدان میں داخل ہونی تو اسے گرد و پیش کے راست ادبوں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا۔ اس طرح زبان میں تغیر ہوتے ہیں۔ کچھ کے معنی مراد کو واضح کرنے میں ناکام محسوس ہونے لگتے ہیں۔ بیت ہوئی حالت میں نئے انتاظ ادھر ادھر سے یہی جاتے ہیں اور نبنتے بھی ہیں۔ اسی یہی دکنی اردو اور آج کی اردو: یہی بڑا فرق دکھانی دیتا ہے۔ دور ہو کے بھی اس وقت کی اردو، بول چال کی زبان سے نزدیک تھی۔ اس یہی اس میں خواہ ادب کی نظر سے کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز نہ ملے لیکن سانیات کا مطابع کرنے والوں کے یہی اس کا تجزیہ یہ بے حد مفید ہو گا۔

سب سے پہلا نام جس سے دکنی اردو ادب کی ابتدائی جا سکتی ہے خواجہ بنده نواز گیسوردار کا ہے۔ وہ دلی کے مشور صوفی فقیر نظام الدین اولیا کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دلمپی کے سب سے اسم شاگرد اور خلیفہ تھے۔ ان کے مقadem کی تعداد شماں ہند میں بہت تھی، مگر وہ اپنی طریقت کی تبلیغ کے یہے ۱۹۳۶ء کے قریب گلبرگ چلے آئے اور وہیں رہ گئے۔ گیسوردار از بہت بڑے عالم تھے، فارسی اور عربی میں ان کی کئی کتابیں مشہور ہیں۔ دکن میں ان کا بڑا اثر ہوا اور ان کے انسنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی اپنے مریدوں اور عالم لوگوں کے لیے وہ اپنے خیالات اردو میں ظاہر کیا کرتے تھے انھیں کی آسانی کے لیے اس زبان میں انھوں نے کچھ لکھا بھی، لیکن قطعی طور سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منہدی، اردو یادگی میں ان کی کتنی تصنیفات ہیں۔ کوئی پچاس برس پہلے ان کی ایک کتاب جس کا نام معراج العاشقین ہے ملی اور اسے اردو کی پہلی نشری کتاب مان کر شائع کیا گیا۔ کئی علماء کو اس میں شک ہے کہ یہ خود گیسوردار کی تصنیف ہے، بلکہ سیمھا جاتا ہے کہ ان کے خیالات کو کچھ دن کے بعد کسی دوسرے شخص نے

مدون نہ دیا یا کسی اور صوفی کی کتاب ہے جو ان سے منسوب چھوٹی ہے کیونکہ اس کی زبان ہی نہیں معلوم ہے بعد کے مُردوں کے صوفیانہ خیالات سے مشابہ ہیں۔ جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کے اور کمی تعلقی نہیں مل سکتے ہیں جن میں بہت فرق ہے۔ اس کے خلاوہ ان کی دو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور مل گئی ہیں۔ شکار نامہ اور خلاوہ الوجود، ان میں پہلی کتاب شائع بھی ہو چکی ہے۔ تقریباً آنہ کتابیں ان کے نام سے موسم کی جاتی ہیں۔ مگر کسی کی نسبت قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انھیں کی اردو تصنیف ہے۔ گیسو دراز کی کتابوں کی زبان کھڑی بولی ہے جس پر پنجابی اور برج کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ شکار نامہ کا موضوع، بیان اور نظرزادہ اس عصر کے مدارشہری سنتوں سے بھی متاثر معلوم ہوتا ہے۔ ان تصنیفات میں تحقیق اور ترجمہ نظریات کو اسلامی تصوف کی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر معراج اعاشقین کو انھیں کی کتاب مان لیں تو یہ اردو کی پہلی کتاب کہی جائے گی جو ۱۹۲۳ء سے قبل تھی۔ اس چھوٹی سی تصنیف کا موضوع نہ ہب اور تصوف کا ذیقت علم ہے۔ اس یہے اس میں عربی فارسی انفاظ کا بہت استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے اسلوب میں ایک طرح کی فلسفیانہ ثقہ پسندی ہے اسی یہے اس کا بننا بہت آسان نہیں ہے۔ نمونہ یہ ہے:-

”بنی کے تحقیق کے درمیان تے سڑہ ہزار پر دے، اجیالے کے اور انہیا لے کے، اگر

اس میں تے ایک پر دہ اٹھ جائے تو اس کی آپنے تے میں جلوں“

اردو نشری نہیں نظم کی کچھ تصنیفیں بھی ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں مگر قصینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، ہاں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ گیسو دراز کے صلبی اور روحانی خاندان میں کئی ایسے افراد ہوئے جنہوں نے اسی زبان میں اس طرح کی اور تصنیفیں کیں۔ ان کے متعلق گزشتہ رباع صدی میں بہت سی معلومات یک جا ہو گئی ہیں۔

گیسو دراز کے پوتے عبداللہ حسینی، ایک مشہور صوفی تھے۔ انہوں نے مشہور کتابۃ العشق کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اسی زمانے میں نظامی نے ایک عشوی کرمداد پیغم را اٹھکھی۔ اس طرح اردو ادب کی ابتداء تھی مگر اس کی واقعی ترقی بجا پورا اور گوکنڈہ کی ترقی کے ساتھ ہوئی۔ یہ دورہ شمالی ہند میں ملک محمد جالسی، تکبیری تھی اور سور کے حیکنے کا ہے جن کے اطمینان خیال کی زبان اور دھمکی اور بزرع تھی۔ کھڑی بولی اپنے علاقوں نے نکل کر اس وقت کچھ تاریخی حالات کے سازگار ہونے کی وجہ سے جزوی ہند میں اپنے لیے ایک جگہ بنواری تھی۔

دکن میں جس ادب کا فردغ ہو رہا تھا اس میں جس تہذیب کا زنگ جعلکتا تھا اس پر
ہندوستانیت کی گہری چھاپ تھی۔ دہلی کے شعر اکی خلیقات مقامی رنگ سے مالا مال ہیں۔
پسندیدگی سے دور اردو جو ترقی کر رہی تھی اس کی کٹی وجہ معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی
وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دکنی حکومتوں کے فرمانرواء، دلی سے دور رہ کر ایک آزاد و خود منصار
بادشاہی کے قیام کے شتابق نہ تھے، بلکہ فن، ادب معاشرت اور زندگی کے دوسرا شعبہ
میں بھی اپنی الگ راہ بنانا چاہتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مختلف دکنی ریاستوں کے فرمانرواء
بھی ہندوستان کے باہر کی قوموں سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے مغل شہنشاہ اکبر سے
چلے ہی مقامی بندوؤں کے ساتھ آپس میں شادی بیاہ اور رشتے داری سے دوستی کے رابطے
کو مضبوط بنانا چاہا۔ اس کے علاوہ ان فرمانرواؤں کے کئی خاندان قدیم زمانے سے دکن میں
بس جانے کے باعث دہلی کے رہن سہن اور رسم درواج سے کامل واقفینت رکھتے تھے۔ بیلی
کے بادشاہوں کے مقابلے میں یہ بادشاہ عوام کی زندگی سے زیادہ قریب تھے۔ ایک اور سبب
جس کی طرف بادشاہ دکن ناظر و ریس ہے یہ ہے کہ ایک مطلق افغان حکومت میں بہت کچھ بادشاہ
کی رضی پر مخصوص ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے علوم و فتوں کو پسند کرتا ہے، عوام میں اس کا درواج
ہونے لگتا ہے، اس کی ذات خواہشات راج دربار سے تعلق رکھنے والے ملازمین اور شاعروں
پر چل جاتی ہیں۔ دکن کے کئی بادشاہوں نے خود اُردو، بہنج اور تیلگو یہ لمحنا پنے لیے باعث خخر
سمجا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کے شرائے بھی ہندوستان کی زبانوں میں اپنے خیالات ظاہر
کیے۔ بوڑھیں نے یہ وجہ سبی تباہی ہے کہ ہندوستان پر شمال و مغرب سے جو حلی ہوئے تھے ان کا
دیا اور جنوبی ہند تک آتے آتے ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے وہی علم و فن کو ترقی کرنے کے لیے زیادہ
سماجی تھے۔ اس طرح دہلی کے اہل قلم اور فنکار تھوڑا بہت ایرانی اثر سے بھی بچ جاتے تھے
اور اپنے ہی وسائل سے کام لے کر اپنی بھی زبان استعمال کرتے اور اسی میں خلیقات کرتے تھے
یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دلی سے دوری، سرکاری دفتر کا ہندوستانی زبان میں کام کرنا،
ہندو مسلمانوں کے میل جوں امن و سکون، صوفی نقیر و نکی موجودگی اور دوسرے ماباہ سے دکن
میں اردو کو چلنے پھولنے کا مناسب موقع دیا۔

جب جہنی سلطنت کے مکرے ہو گئے تو عادل شاہی خاندان نے شہنشاہی میں اپنی آڑا
سلطنت تمام کر لی جس میں آئندہ بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے کئی انتہائی قابل اور لائق مقفلہ ہاتھ

ہوئے۔ وہ خود علم فضل سے بہرہ درستھے اور لپٹنے دربان کے زبردست علاجی صحبف سے
لطف انداز ہوتے تھے۔ آجی صوفیوں کے اثرات بھی جاری تھے۔ چاچن پدر حوس صدری
میں سب سے پہلا نام شاہ میران جی کا ملتا ہے جو اپنے تصوف اور توابلیت کی بنیاد پر مشتمل تھا
کہ جاتے تھے۔ وہ ۱۷۵۰ء تک زندہ رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی تخلیقات اردو
میں کیں جن کے مطالعے سے اس زمانے کی زبان کے متعلق اہم معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔
ان کی سمجھی تصنیفیں تصوف کے اصول و احوال کے بیان میں ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان کو خود
ہندی کہلائے اور اس کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ میری یہ تصنیفیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو
عربی فارسی نہیں جانتے۔ ان میں شاداۃ الحقيقة، خوش فخر، خوش نامہ اور تصریح
مَرْعُوبُ الْعَلُوبِ مشہور داہم ہیں۔ ان کی آخری تصنیف نظر میں ہے۔ اس میں بھی ملکت عرب
کے گھرے مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی شاعری کا نمونہ یہ ہے:-

تو قادر کر سب جگ سب کو روزی دیے تو بھوں کا دا نابینا، سب جگ تج کو سیو
ایکس ماٹی مولی دیوے ایکس ماٹی باج کیتوں بھیکو منگوادے کیتوں دیوے راج
کیتوں پات پتہ بر دیا کیتوں سر کی لایا کیتوں اوپر دھوپ تلاوے کیتوں اوپر چھایا
کیتے گیاں بھگت بیراگی کیتے مور کو گنوار ایک جن ایک انس کیتا اک پرس اک نار
ان کی تخلیقات میں صرف عشق، تصوف یا مذہب کی باتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ ادبی نظر سے بھی
ان کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

میران جی کے صاحبزادے بربان الدین جامن بھی بہت بڑے صوفیوں میں شمار ہوتے ہیں۔
ان کی وفات ۱۷۹۰ء کے قریب ہوئی۔ انہوں نے اپنی تصنیفات کی زبان کو کسی جگہ پر گھبڑی
(گھبراٹ اردو) کہا ہے اور کہیں دکھنی۔ ان کی زیادہ تر تصنیفات نظم کی شکل میں ملکی ہیں اور سمجھی
تصوف کے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی نظموں کا بہت سا حصہ یورپ اور حیدر آباد
کے کتبخانوں میں مل گیا ہے جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان سهل ہے اور ان
کی نظمیں موضوع کی ثقالت کے باصف شرعی حسن سے بہتر ہیں۔ ان کی کتابوں میں سکھ میلان
دھیت الہادی اور شاد نامہ مشور ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل اشعار دیکھ جاسکتے ہیں:-
یہ دوپ پر محنت اپ چھایا کوئی نہ پایا انت مایا مودہ میں سب جگ باندھیا کیونکہ بھیغ نہ

بعض آنکیں اپنی وجہ معلوم نہیں اوس کی وجہ
ایک جمع سب پھرہ یا بار جوں کے پچ تھے نہ کیا جوان
کا ۲۰ چھانٹا پھل اور پھول شاخ، برگ سب دیکھ اصول
نہ اس خالق مخلوق کوئے جیسا تیسا سمجھا ہونے
برہان الدین جانم ہندی وزن بھی استعمال کرتے تھے اور اپنی بات سمجھانے کے لیے مرد و
ہندو مسلم صوفیاء روایتوں سے کام لیتے تھے ان کی نشری تخلیقیں بھی ملتی ہیں، بن میکلٹیۃ الحنفیۃ
سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے موضوع میں مraig اعاظمین سے مشابہت پائی جاتی
ہے۔

برہان الدین جانم کے صاحبزادے اور جانشین امین الدین اعلیٰ ہیں۔ وہ بھی اپنے
اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور تصویف میں اپنی تصنیفات چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی حیث
حکیمت لعلہ میں ہوئی۔ انھوں نے نظر اور شردونوں میں تصنیفات کی ہیں جن کے مطابعے سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ اور دادا سے بڑے شاعر تھے۔ ان کی نشری تصنیفات بھی
ان کی شاعری کی طرح اہمیت رکھتی ہیں۔ محب نامہ اور روز اسالکین ان کی مشہور کتابیں ہیں
اس بارے میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنی تصنیفیں ہیں پرانے مصنفوں کے نام سے ملتی ہیں
ان کے متعلق یقینی طور سے یہ نہیں کہ جاسکتا کہ وہ انھیں کی ہیں، مگر جہاں تک آج کی تحقیق
پہنچی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ جب کبھی اردو کی کوئی بسوٹا تاریخ
لکھی جائے گی اس وقت ان کی تصنیفات ان کی زبان اور ان کے خیالات پر فضیلی روشنی دالی
جائے گی۔ امین الدین اعلیٰ کی نشری تصنیفات میں گنج تخفی، اور وجود یہ بہت مشہور ہیں۔ ان ہیں بھی
ہندو مسلم صوفیاء خیالات کا ایسا امتزاج ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے نہ ہی اور روحانی خیالات
کو پوری طرح الگ کرنا بہت دشوار ہے۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے صوفی ادیبوں اور شاعروں میں یہ رکب
حمدانہ، شاہ محمد قادری، سید نیران حسین، شاہ مغلم اور دادل اہمیت کے ملکہ ہیں۔ ان میں
سے اکثر کی تخلیقات دستیاب ہو گئی ہیں۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے عادل شاہی بادشاہوں میں کوئی ایک خود اردو میں لکھتے پڑتے تھے۔
ان میں سب سے مشہور ابراہیم عادل شاہ ثانی (۱۵۸۰ - ۱۶۲۶) ہے وہ صرف کہنی زبان اور
اس کی شاعری بھی سے محبت نہیں۔ لکھتا تھا بلکہ نہ بستان کے فن موسیقی میں بھی کامل تھا۔

اس نے گیتوں پر بنی ایک کتاب نورس کے نام سے لکھی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف تو علم سنت کے ناظر سے یہ بے شال تخلیق ہے، دوسری طرف عام دکن اُنہوں سے پچ کر اس میں برج بجا شاہ کا استھان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھنے کا خیال کیا تو شمالی ہند سے ہل عمل کو بلکہ اس زبان کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب تصنیف کی۔ اس کی بزرگی اس ہند کی بحث سے مختلف ہے، کیونکہ اس نے جا بجا امری فارسی انفاظ سے سمجھی کام لیا ہے۔ یہ کتاب سولہویں صدی کے آخر یا سترہویں صدی کے آغاز میں لکھی گئی ہو گی۔ نورس کا دیباچہ فارسی کے مشهور شاعر و مصنف نظوری نے لکھا جو آج سنتر کے نام سے فارسی کی کلاسیکی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس مجموعے کو داکٹر نذیر احمد نے کتاب نورس کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کے مطابق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سولہویں صدی میں ہند مسلم تہذیب کا امتزاج بڑی تیزی سے ہوا تھا۔ ان شاعروں کے یہاں کرشن، مرسوی کا نام ذکر ہوا اسی طرح ہوتا ہے، جیسے مسلمان بُرگوں کا۔ ابراہیم کے دربار شاہی کا سارا بندوبست اُردو میں ہوتا تھا اور بہت سے شاعروں کے دربار سے معاہدہ تھے۔ ابراہیم کے بعد محمد عادل شاہ تخت حکومت پر بیٹھا نہ تاہم اس کی مکمل دنیوں کو شاعروں سے بڑی دلچسپی تھی اور بہت سے شاعروں ان کے چاروں طفیل جمع ہو چکے تھے، جن میں رتی، ملک خوشودا در دلت شاہ عبدال اویسی کے نام پر اور کعنی کے قتلہ ہیں۔ رتی اُردو اور فارسی دونوں میں شرکتا تھا۔ اب اس کی صرف طویل نظم خاد زنار کے قتلہ ہیں۔ رتی اُردو اور فارسی دونوں میں ضمیم بھروسے، جسے اس نے مخفی دیوار ملکتی ہے۔ یہ شنوی کی شکل میں چوبیس نہار اشعار کا ایک ضمیم بھروسے ہے، جسے اس نے مخفی دیوار سال میں پورا کریا تھا۔ اسی دلیل یہ ایک فارسی نظم کا ترجمہ ہے مگر رتی نے اسے اتنے خوبصورت طریقے سے اپنا یا یہ کہ یہ اسی کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ تصنیف اس نے محمد عادل شاہ کی بیوی کی فرماں شر سے کی تھی اس کا زمانہ تصنیف تقریباً ۱۷۳۰ء ہے۔ اس کی زبان آسان اور طرز تحریر بکش ہے۔ اسی طرز کی خوشودا پاچی شنوی ہشت پہنچ کی یہ مشہور ہے۔ یہ نظم ایسے خسر و کی فارسی تصنیف پر بنی ہے۔ اس کی زبان بہت آسان نہیں ہے۔ عبدال کی شنوی ابراہیم جو اس نے بادشاہ کی درج میں لکھی ہے اسی یہ غصوصیت سے ہم تسلیم کی جاتی ہے کہ اس نے ہندوی کے ملادہ دلپوی زبان جانتے کا بھی احتراق کیا ہے اور حصہ اُنہوں کی ایسی تحسیلات فراہم کی ہیں کہ اکثر تھامات پر بیجا پور کی تہذیب کے زخمہ مرتع سائنس آجائی ہیں اور ظسم ماخی اہمیت حاصل کر دیتی ہے۔ میقیمی فارسی شاہر تھا۔ مگر اس نے ایک ہندی لوگ کتاب اچنڈیہ

اور جیا رہے دلکش ادبی اسلوب ہیں لیکن ہے یقیدیم قصے پر بنی ہے لیکن شاعر نے اسے پہاذا بنا لیا ہے
 میں علی عادل شاہ ثانی سری سلطنت پر تسلیم ہوا۔ وہ بھی شاعر تھا اور اسی کے عہد
 میں بیجا پور کے سب سے بڑے شاعر نصرتی کا بول بلا ہوا۔ بادشاہ شاہی کے نام سے لکھتا تھا
 اور اس کا مجموعہ منہدی اور اردودنوں میں کلیات شاہی کے نام سے چھپ چکا ہے۔ نصرتی ایک
 عظیم شاعر ہے مگر اس کے بارے میں ابھی تک زیادہ معلومات نہیں ہو سکی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کا
 نام مجر نصرت تھا اور وہ ایک بہمن گمراہ نے سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن یہ بات درست نہیں معلوم
 ہوتی کیونکہ نصرتی نے اپنے کلام میں محلہ گرگہ کے مشہور صوفی گیسو دراز کا ذکر کیا ہے اور یہ سمجھی
 کہا ہے کہ میری کئی پیشیں ان کا نام جپتی چل آرہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا سلسلہ وابس پہلے
 کسی بہمن خاندان سے مل جاتا ہو۔

نصرتی نے تین کتابیں لکھی ہیں اور سب مثنوی کی ہیئت میں ہیں ان میں سے دو گلشنِ عشق
 اور علی نامہ بہت مشہور ہیں اور شائع ہو چکی ہیں۔ ان مشہور اور منفرد نظموں کے علاوہ
 اس کی تیسرا شعری تصنیف تاریخ سخندری کا پتہ مولا ناجعہد الحنف نے دیا تھا۔ لیکن بعض علماء
 کا خیال ہے کہ یہ نصرتی کی تصنیف نہیں ہے بلکہ گلشنِ عشق میں منوہرا اور مدھوماتی کی محبت کی کہانی
 کہی گئی ہے۔ یہ داتان محبت منہدوستان میں بہت مشہور و مقبول تھی اور کئی مصنفوں
 شاعر اسے فارسی اور منہدی میں بلکہ چکے تھے۔ مگر نصرتی نے اسے جس طرح لکھا ہے اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اس نے اس میں نئی باتوں کا اضافہ کر کے اپنایا ہے۔ یعنی ایران کی کوئی مثنویوں
 کے دھنگ پر کچھی گئی ہے۔ اس کی دوسرا منظوم تصنیف جو پہلی سے بھی زیادہ آسان اور اعلیٰ
 درجے کی ہے علی نامہ ہے۔ اس میں علی عادل شاہ ثانی کی سرگزشت حیات کو ٹبری تفصیل سے
 پیش کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر پڑھوی راج راسو اور ایسی ہی دوسرا سرگزشتون کی طرف دھیا
 جاتا ہے۔ کیونکہ اس طویل نظر میں بھی نصرتی نے چند رہروائی کی طرح پہنچے بادشاہ کی زندگی
 کے بھی پہلوؤں کی تصویر کشی ٹبری خوبصورتی اور روئے سے کی ہے۔ اس زمانے میں جنوبی ہند
 میں مغلوں، مراثیوں، عادل شاہیوں، قطب شاہیوں میں اقتدار کے لیے برابر رکھنی چاہی
 تھی۔ علی نامہ کے مطابعے سے اس کی کشاکش کی جیتی جاگئی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے
 اس سے یہ سمجھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے مذہب کی بنیاد پر تنظیم نہیں
 کی جاتی تھی بلکہ مقامی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کیے جاتے تھے

نصرتی کی یہ تصنیف اردو کی بہترین تخلیقات میں سے ہے ادبی اہمیت کے علاوہ اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ یہ ہلی درجے کی نظم کرنی یعنی قدیم اردو میں ہونے کی وجہ سے وہ مقام حاصل ذکر کی جو اسے لٹنا چاہیے۔ نصرتی میں شاعرانہ مصوری کی غیر معمولی قدرت تھی اور خصوصاً جب وہ لڑائی اور میدان جنگ کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی قوت شرگوئی اور ثبوت جاتی ہے۔ نصرتی کی تیری تصنیف تاریخ سکندری بجا پور کی تباہی یا نصرتی کے اختلال کے باعث دھوپی رہ گئی۔ نصرتی کو زیر یہ اور عشقیہ دونوں طرح کی تنظیم کرنے پر قدرت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اوزنگ زیب نے بجا پور قبضہ کرنے کے بعد نصرتی کو ملک اشعا کا خطاب دیا یہ بات قرآن سے صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی زبان آسان ضرور ہے۔ مگر وہ فارسی ہری نفطوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ دوسرے شرعاً کی طرح وہ بھی اپنی زبان کو مندی ہی کرتا ہے۔ نہ نہ کے یہ گلشن عشق سے کچھ شعر نقل کیے جاتے ہیں:-

او دھرساتھو تھی ماں کے مدھو المتن او هر ماں کے سنگات چھپا وتن
بہت دن کوں جس وقت بچھڑے ٹلے اکراک ٹگاے چنگل کر ٹھلے
او نو گیاں سکیاں چنکی سو سات تھیں انوں کے کبھے بھی او سی دھات تھیں
نصرتی نے قصیدے اور غزلیں بھی کہی ہیں اور کئی نقادوں نے اسے اندو قصیدے کا پہلا
شارمنا ہے۔ مگر پچ یہ ہے کہ اس کی اہمیت شنوی نگاری کی حیثیت سے زیادہ ہے۔
بجا پور کے مشور شرامیں ہاشمی کا نام بھی اہم ہے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں
ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھا اور اس کا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا تھا۔ اس کا انتقال ۷۰۲ء
میں ہوا۔ اس کی مشہور تصنیف یوسف زینجا ہے جس میں کم و بیش بارہ ہزار اشعار ہیں۔ یہ
شوی ملابامی کی مشہور تخلیق ہے۔ یوسفار زینجا کا آزاد ترجمہ ہے۔ ہاشمی ایک اچھا شاعر تھا
اس کی زبان آسان اور طرز دلکش۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاشمی نے ہندی شرعاً کے طرز پر اپنی
کئی نفلوں میں حورتوں کی طرف سے مردوں کے لیے محبت اور سہبر کے جذبات ظاہر کیے ہیں۔
دہستان محبت میں جہاں عورتوں کی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں اس کی
زبان قدرتاً سهل و شیریں ہو گئی ہے۔ کچھ نقادوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ریختی کا موجود ہے
مگر یہ بہت بحث طلب ہے کیونکہ ریختی بعد میں جس ماہول میں پرداں چڑھی وہ دکن کے ماہول
سے مختلف تھا ایکن اس میں شک نہیں کہ اس کی کئی غرتوں میں ریختی کا زنگ جملکتا ہے۔

اس جگہ پر محض چند ہی مشہور شعر کا تذکرہ کیا جاسکا ہے۔ ویسے بیجا پور کی سلطنت اور دربار میں بہت سے شاعر ہیں جن کی تخلیقات ہندوستان اور یورپ کے کتب خانوں میں ملتی ہیں۔ بیجا پور کی طرح گولکنڈہ میں بھی اردو ادب کی بڑی ترقی ہوئی اور اہل فلم کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان نے ۱۷۵۸ء میں ایک خود مختار ریاست قائم کی اور دہل کے فرمائرواؤں نے اسے ایک طاقتو راو ترقی پذیر ریاست بنانے میں بڑا حصہ لیا۔ اردو ادب کی ترقی کے اقتدار سے یہاں کا سولھویں صدی کا آخری زمانہ اہم ہے۔ اس خاندان کے آٹھ بادشاہوں میں سے آخری چار خود اردو کے شاعر اور شاعروں کے سر پرست تھے۔ گولکنڈہ کا پانچواں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ ۱۷۵۸ء میں تخت نشین ہوا۔ وہ اردو ادب کا ایک عظیم شاعر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لاکھ سے زائد اشعار کیے جن میں سے زیادہ تر دہنی اردو میں ہیں۔ کچھ فارسی میں ہیں اور کچھ تیلکو میں۔ اس کی ماں زنگناش کی رہنے والی شخصی اور وہ اس زبان سے بخوبی واقف تھا۔ ڈاکٹر محمد الدین قادری زور کا خیال ہے کہ وہ تیلکو میں ترکمان کے تخلص سے شاعری کرتا تھا اگر ابھی تک اس کی تیلکو شاعری کے وجود یا اس کی خصوصیات کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ وہ اردو کا پہلا شاعر ہے جس کے کلام کے کوئی قلمی نسخہ ہندوستان اور یورپ کے کتب خانوں میں پائے گئے ہیں اسی وجہ سے اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان کہا جاتا ہے۔ اس کا شعری مجموعہ کلیات قلی قطب شاہ حیدر آباد سے شایع بھی ہو چکا ہے۔

محمد قلی ایک بڑا فوجی سپری سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عاشق اور ایک بڑا مصنف بھی تھا۔ اردو کا وہ پہلا شاعر ہے جس کی نسبت قطعی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے ہندوستانی زندگی کے زنجار نگ حسن اور ما حول میں ڈوب کر شاعری کی جس طرح اُسے مسلمانوں کے تیواروں عید، شبرات وغیرہ سے محبت ہے اسی طرح بنت دیوالی اور ہولی کی تفریحات میں بھی وہ پرچوش طریقے سے شریک ہوتا ہے۔ اس کی شاعری متعامی رنگ میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہے کہ اس مجموعے سے اس وقت کے نہ ہی خیالات، رہنم، عیش و نشاط اور زندگی کے دوسرے مسائل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بادہ پیاریوں کی تصحیف میں بہت سی نظریں کی ہیں، ان کے سر پا اور حسن کا بیان ہندی اور سنسکرت کے عشقیہ شاعروں کی یاد دلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہونے سے پہلے جوانی میں

اسے بھاگ مت نہیں ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ تخت شاہی پر مشیختے کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی اور حیدر محل نقشبندیہ اس کے نام پر حیدر آباد بنا لیا۔ اس کی نظلوں میں بھاگ مت سے اس کی بے پایاں محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی زندگی کے تمام سوانح اسکی شاعری میں جگہ پاتے ہیں۔ اس کی تخلیقات میں ملک کے رسم و رواج، پھلوں پھولوں کا بیان دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی ہند میں ہندوستانی ثقافت کی تشكیل کتنے دلکش انداز سے ہو رہی تھی اور صرف عام لوگ ہمیں بادشاہ اور امرابھی اس سے متاثر تھے۔

علی قطب شاہ نے غزل، قصیدہ، شعری، مرثیہ، نظم ہر صنف پر اپنے نقش چھوڑے ہیں۔ اس کی تخلیقات کے موضوع بھی تنوع ہیں۔ عصر حیدر کے شرعاً کی طرح اس نے الگ الگ موضوعات پر بھی نظلوں لکھی ہیں جن کے مطابع سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی جنہاً اور خیالات کو فارسی صنائع و بدائع سے سجا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس طرح اس کے موضوعات اور طرز فکر میں ہندوستانیت ملتی ہے۔ اسی طرح اس کی زبان اس ہندوستانی سے قریب ہے جو ہندی بھی ہے اور اردو بھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شاعری ہندی کا مطابع کیا تھا یا نہیں مگر ہندی تشبیہات، صنائع بدائع دغیرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے ناواقف نہ تھا۔ اس کی شاعری کا زمانہ تقریباً وہی ہے جو تسلی دکس، میرا بانی اور سورد اس کا تھا۔ اردو کے اس پہلے بڑے شاعر کی تخلیقات فطری حسن کوئی ہیں۔ اس کی زبان سہل ہے اور سانیات کے نقطہ نظر سے اس کا مطابع بہت منفرد ہے۔ شاعر کی نیئے حسب ذیل اشعار کافی ہوں گے۔

پیا باج پیالہ پیا جائے ۱۰۰	پیا باج آک تل جیا جائے ۱۰۰
نہیں عشق جس کو بڑا کور ہے	کہھیں اوس سے ملیں جائے ۱۰۰
قطب شہزادے مجھ دوائے کو پنڈ	دوائے کو کچھ پنڈ دیا جائے ۱۰۰
ہے عشق ہر کو دھات ہر کو دل میں پیارا	میخ عشق پیارے کا لہے جیو کا ادھارا
بھی میر تمن ساری کلمیاں سو کھو رہی ہیں	مک آکے کرو گشت چن جی اوٹھے سارا
لکھ جوت ہے ہر ٹھوڑے ایک دھن ہے	کس شماریں دستا نہیں ہر شمار ہے بھر پور
و بھین کو سکت کاں اوسے بس ایک نین ہے	

بنج عشق گری آگ کا اک چینگی ہے سورج اس آگ کے شعلے کا دھوان سات گلن ہے
محمد قلی کے خاندان میں گول کنڈہ مکتے مین آخری بادشاہ بھی اچھے شاعر ہوئے ہیں۔ اس کا
بیتیجا محمد قطب شاہ خود ایک بڑا شاعر اور شاعروں کا سر پرست تھا۔ اس کا دیوان بھی دستیاب
ہو گیا ہے جس کے مطابع سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے چاک طرح ہر قسم کی نظمیں سمجھ سکتا تھا۔
اس کی زبان میں وہی مزہ شیرینی اور روانی پائی جاتی ہے، جو قلی قطب شاہ کے بیان ملتی ہے۔
اس کا کلام بھی مقامی زنگ اور شبیہوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاعری میں اس کا تخلص نظر اللہ
تھا۔ کئی بڑے بڑے شاعر اس کے دربار کی زینت بڑھاتے تھے۔ سال ۱۶۲۴ء میں وہ تخت نشین
ہوا تھا اور سال ۱۶۳۷ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

پھر محمد قطب شاہ کا بیٹا عبد اللہ قطب شاہ گردی پر بیٹھا۔ وہ بھی شاعر تھا اور اس کا
مجموعہ کلام بھی موجود ہے۔ اس کی تصنیفیں اتنی اہم نہیں ہیں جتنی اس کے پیشروں کی تھیں مگر
اس سے قطب شاہی سلطنت کے کئی مشہور شاعروں کی سر پرستی حاصل رہی۔ اس کے درباری شعراء
میں غواصی، قطبی، ابن نشاطی، طبعی، جنیدی اور آمین خاص ہیں۔ اس خاندان کا آخری سلطان
ابوالحسن قطب شاہ اسکی زیادہ وقت مغل فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرنا۔ بیان تک کہ سال ۱۶۵۸ء
میں اور نگ زیب کے ہاتھوں گوکنڈہ کی بادشاہیت کا خاتمه ہو گیا۔ گوکنڈہ کا آخری بادشاہ
ابوالحسن قطب شاہ معروف بے نانا شاہ بھی شاعر تھا، مگر اس کا مجموعہ کلام نہیں ملتا۔ اس کا
سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آخری عمر مغل قید خان میں گزری اور مجموعہ مرتب نہیں ہو رہا
گزرشہ صفات کے مطابع سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ گوکنڈہ میں اردو شاعری کا بڑا
عروج ہوا۔ بادشاہ خود اردو میں لکھتے اور اردو لکھنے والوں کی بہت افزائی کرتے تھے۔
نظم و نثر کے کوئی اصناف میں بڑی ترقی ہوئی اور بعض تخلیقات تو ایسی وجود میں آگئیں جن کو
اردو کی مختصر سے مختصر تاریخ میں بھی ایک بلند مقام دیا جائے گا۔

محمد قلی قطب شاہ کے بعد حکومت میں وہی نہایت معزز شاعر اور نشرنگار گزر را ہے
وہ فارسی کا بھی بڑا شاعر تھا اور اس کا فارسی کلیات دستیاب ہو گیا ہے۔ بدقتی سے اس کی
زندگی کے متعلق معلومات کی بہت کمی ہے۔ بیان تک کہ اس کے سارے اردو کلام کا بھی پتہ
نہیں چلتا۔ اس کی اہم شعری تخلیق قطب مشتری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس مثنوی میں
بادشاہ کے عہد جوانی کی داستان مجت نظم کی ہے۔ بادشاہ نے بڑی فراخدی سے اسے اپنے

عہد کا سب سے بڑا شاعر سمجھ کر اپنا دوست بنایا۔ قطب مشری ایک بُری و لچپِ ثنوی ہے جو کا
ہیر و تخلیقی تقلی قطب شاہ ہے جو شقیہ شاہ مری کی حلاوت میں دوپی ہوئی یہ داستان جب و جھی
کی ایک عہد آفرین تخلیق ہے۔ یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ یہ ساری کی ساری ثنوی بادشاہ کی زندگی
کے واقعات پر مبنی ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ و جھی نے اپنی طبعہ اد کہانی کے پرے
میں بادشاہ کی شجاعت، فراحدی فیاضی اور جذبہ محبت کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ دکن
کے متاز شعری کارناموں میں اس کا ایک بلند مقام ہے۔ یہ کہانی دکن اور بُنگال کے پنج گھوٹی
ہے اور اس وقت کی داستانوں کی طرح ناممکنات سے پُر ہے۔ اس کی زبان بہت آسان نہیں
ہی جاسکتی اس میں جماں فارسی عربی کے انفاظ ہیں وہیں سنسکرت کے تتر سم اور تدبیح
غفلوں کی کمی نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں و جھی نے زبان کے متعلق بُری آزادی سے کام
لے کر فارسی، عربی اور سنسکرت الفاظ کو اردو تو احمد کے مطابق استعمال کیا ہے اگر اسے محفوظ
خصوصیات کے بخاطر سے پڑھا جائے تو بھی اس کا مطابعہ مفید ہو گا۔ شاعر از نقطہ نظر سے
بھی یہ دکن کی چند اہم ثنویوں میں شمار کی جاسکتی ہے۔ زبان کا نمونہ یہ ہے:

چھپی رات اجالا ہوا دیس کا لگا جگ کرن سیو پر میں کا ۔

جو آیا جھلکتا سرخ داث کر اندر ہیر اجو تھا سو گیا نھاٹ کر

سرخ یوں ہے رنگ آسمانی یہے کو کھلیا کمل پھول پانی لئے

و جھی نے نثر میں سب بُس کے نام سے ایک لا جواب ادنیٰ تعینف چھوڑی ہے اس
میں تصوف کے پر معنی اور عجیق خیالات تمثیلوں اور علامتوں کی صورت میں پیش کیے گئے
ہیں۔ اس کا بیان نثری ارتقا کی تاریخ کے سلسلے میں آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ و جھی اس
دور کا سب سے اہم شاعر اور نثر نگار ما نا جاتا ہے۔ اُسے نظم و نثر دونوں میں مکمل قدرت
حاصل تھی۔ و جھی کے سوانح حیات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ مگر یہ معلوم ہے کہ قطب مشری
و نثر اور سب رسائلہ ۱۶۳۷ء میں تکمیل ہوئی۔

اس عہد کا دوسرا بڑا شاعر غواصی تھا، قطب شاہی دربار میں اس کی حیثیت ملک الشرا
کی تھی مگر اس کے عالات کا ٹھیک سے پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مشہور تصنیفات سیف الملوك و
بدیع الجمال اور طوطی نامہ ہیں۔ دونوں میں کہیں کہیں اس نے اپنے متعلق بھی تھوڑا بہت
لکھا ہے مگر اس سے اس کی زندگی کی پوری کہانی نہیں بتی۔ بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ شرف

میں بُری وقت سے زندگی بُرکرتا تھا مگر جب شاہی دربار میں سُنچ گیا تو اس کا اعزاز و الحمد لله
بہت شرحد گیا اور وہ اپنے عہد کا سب سے بُشا شاعر خمار ہونے لگا۔ سیف الملوك ۱۶۲۳ء میں
تکمیلی گئی اور طویل نامہ ۱۶۲۴ء میں پہلی شنوی لایک داستان محبت ہے جو الفیلہ سے لی
گئی ہے اور دوسرا تصنیف ہتوپیش کے فارسی ترجمہ پر بنی ہے۔ غواصی اپنی نظموں میں پی
تعریف آپ کرتا ہے مگر اس کی یہ تعریف کچھ نامناسب نہیں ہے کیونکہ درحقیقت اس کی نظیں
کیف، جذباتیت حسن اور بازمز، اشارات سے بریز ہیں۔ اس کی زبان میں فارسی عربی کے
نظم ملتے ہیں، طرز بیان میں سادگی اور روانی بہت ہے سیف الملوك مہندی اور اردو
دونوں رسم الخط میں شائع ہو چکی ہے۔ طویل نامہ بھی نک صرف اردو میں ہے۔

قطب شاہی عہد کا تیرابڑا شاعر ابن نشاطی تھا، اس کی مشور شنوی پھول بن ہے جو
دکن اردو کے خرزینہ ادب کا ایک انمول رتن کبھی جاتی ہے۔ ابن نشاطی کے حالات زندگی
بھی اچھی طرح معلوم نہیں ہیں کچھ پرانے مصنفوں نے جن میں گارساں تماں کا نام بھی
یا جا سکتا ہے، لکھا ہے کہ اس نے بھی طویل نامہ کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، مگر یہ آن کی
بھول ہے۔ اسی طرح پھول بن کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہی گئی ہیں جو تھیں نہیں ہیں۔
اب پھول بن شائع ہو چکی ہے اور اس کے مطابع سے صحیح اطلاع حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے
پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن نشاطی فارسی زبان میں کامل تھا اور فن شاعری سے بخوبی
واقف تھا۔ وہ پھول بن کے ابتدائی حصے میں اپنی اپنی نظر کی ستایش کرتا ہے اور کتنا
ہے کہ اس نے نظر میں کبھی کبھی تصنیفیں کی ہیں اب ان میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں ہے۔

اسے زبان و الفاظ کے استعمال پر پوری قدرت تھی۔ وہ جس کامیابی سے جذبات کی تصویر کریں
کرتا ہے اسی طرح سماجی حالات بھی بیان کر سکتا ہے۔ پھول بن ایک داستان محبت ہے جس
کا پس منظر ہندستان ہے۔ اس میں زندگی کی ایسی تصویر سیکھنے کرنی ہیں، جن کے دیکھنے
سے اس عہد کی سماجی صورت حال طریقہ معاشرت، رسم و رواج کے سمجھنے میں بُری مدد ملتی
ہے۔ پھول بن فارسی تصنیف باتیں پر بنی ہے لیکن شاعر کی غلیقی صلاحیت نے اس داستان
کی پچھدہ کہانی کو اپنا بنا لیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا اور باری سر پرستی اور عام مقبولیت کی وجہ
سے بیجا پورا درگو لکھنڈہ میں بہت سے شاعر پیدا ہو گئے تھے جن میں سے یہاں صرف چند کا
ذکر کر کیا جاسکا مگر اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ وہی اُردو جو اس وقت کی کھڑی بولی

کے ادبی اظہار کا آرٹسی ہندوستانی زبانوں کے خواستے میں بہت کم اضافہ کر جکی سکتی ۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے ادب پر فارسی کا بھی اثر تھا لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ قومیت کی جو لہر مغلوں کے مٹانے میں شایدی ہند سے اٹھ ری تھی اس کی ترقی ادبی شکل میں جزوی ہند میں ہو رہی تھی ۔ اس کے علاوہ ایک طرف پر یہ اگر پر چلنے والے بھگت شاہر اسلامی تصوف کو اپنا موضوع بنائیں تو نظر دنوں میں تخلیق کے جو ہر دکھانے میں معروف تھے اور دوسری طرف امام حسینؑ سے اظہار عقیدت کرنے والے شاعر کر بلاکی شادت گاہ اشارہ کی پر درد عکاسی مرتضیوں اور دوسری مذہبی نظموں میں کر رہے تھے اس طرح کی نظموں کی ابتداء بجا پوچھ کے اشرف نامی شامر سے ہوتی ہے جس نے تو سر بر تصنیف کر کے کر بلاکے عظیم حادثے کو اپنے ذہنگ میں پیش کیا ۔ یہ نظم ۲۵۶ء میں بھی تھی اس کے بعد قلنی قطب شاہ، وجہی ملی عادل شاہ، نصرتی، غوصی سبھی نے مرثیے لکھے ان میں کچھ شاہر تو ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی بھر محض مرثیہ نگاری ہی کرتے رہے کیونکہ وہ اسے مقدس سمجھ کر دوسرے موضوعات سے اپنی قوت تخلیق کو آؤ دہ نہیں کرنا چاہتے تھے ۔ اس مختصر کتاب میں ان کا ذکر ممکن نہیں ہے ۔

یہ بات قابل غور ہے کہ اس عہد میں اسی تصنیفوں اور کتابوں کی بھی کمی نہیں جن میں ہندوستان کی زندگی اور سماج کا عکس ملتا ہے ہندوستان کی قدیم داستانوں پر مبنی بھانیاں بھی نہیں جن میں منو بہر مٹوما لتی ۔ پداوت، چدر بدن حیار اور طوہی نامہ خاص طور سے پڑھنے کے قابل ہیں جختصر ایکہا جاسکتا ہے کہ اس عہد کی نظموں میں مقامی زنگ بہت بھرا ہے، زبان میں فارسی عربی کی بھرا رہیں ہے ۔ شاعری پر دربار شاہی کا اثر ہے تو ضرور دیگر معلوم ہوتا ہے کہ شعرا بادشاہوں کی درج سرانی پر مجبور نہ تھے ۔ اس کے علاوہ ان میں زندہ اور تصوف سے پیدا ہونے والی آزادی بھی طاقت و رخی ۔ اس میں شک نہیں کہ اس عہد میں جو کچھ لکھا گیا اس کا ایک بڑا حصہ آج کوئی ادبی اہمیت نہیں رکھتا مگر جن کتابوں اور نظموں کا پہلے ذکر کیا گیا، ان کی صرف تاریخی اہمیت نہیں بلکہ زہان اور ادب کے لحاظ سے اردو ادب کی تاریخ میں انھیں بلند مقام حاصل ہے کیونکہ ان میں زندگی کی عکاسی بھی ہے اور شاعرانہ حسن بھی ۔

اسی سترھوں صدی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا کہ اردو زبان گجرات، ارکاش، مہاس، اور

میسور کے کچھ حصوں میں پنج گھنی۔ گجرات میں اردو پربت کپڑہ لکھا گیا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ کچھ مصنفوں اور شاعروں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پندرہویں صدی میں گجرات میں کئی بڑے بڑے صوفی شاعر پیدا ہوئے، وہ اپنی زبان کو کبھی مندی کرتے تھے اور کبھی گوجری۔ ان میں پہلانا م بھار الدین باجن کا ہے جن کے بھت سے دوسرے اور شعر قدیم کتابوں میں ملتے ہیں۔ سولھویں صدی میں شاہ ولی جیونگام دھنی نے ایک بڑی اہم صوفیانہ نظم جو ہر اسرار اللہ لکھی۔ لیکن ادبی نقطہ نظر سے سب بڑا نام خوب محمد پشتی کا ہے، جو فارسی میں کئی تصنیفیں کر چکے تھے مگر اپنے مرشد کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کیے بول چال کی زبان کو کبھی کام میں لائے اور ایک مشنوی خوب ترجمہ کے نام سے لکھی۔ یہ مشنوی اتنی شکل معلوم ہوئی کہ انھوں نے خود اس کی شرح فارسی میں اسوانح خوبی کے نام سے لکھی تاکہ مطالب واضح ہو سکیں۔ یہ نظم فرانسیسی میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ سترہویں صدی میں این گھر اتنی ایک بڑا شاعر ہوا ہے جس نے یوسف زلینغا لکھی۔ اسی طرح مدراس میں اردو اور میسور میں اردو پر بھی تحقیقی کام ہو چکے ہیں۔ علاقائی حیثیت سے بھار اور پنجاب کے ان شہرا پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جنھوں نے دور قدیم میں اردو کو کسی نہ کسی شکل میں اظہار بخیال کے لیے اختصار کیا۔

دن ہیں تو یہ حال تھا اور شمالی سندھ میں بول چال کی زبان کی حیثیت سے اردو دن و نی رات چو گھنی ترقی کرتی جا رہی تھی مگر ادب بہت کم پیدا ہو رہا تھا جنوبی مندی میں اردو ادب کے جو سوتے پھوٹ بہت تھے اور جو ادبی روایات قائم ہو گئیں تھیں۔ یجاپور اور گونگڑہ کے مغل سلطنت میں ملا دیے جانے سے ان میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ زبان اور ادب کا تعلق صرف ایوان شاہی سے ہیں تھا بلکہ عوام بھی اُسے اپنی زندگی سے قریب پاتے تھے اس لیے ۱۷۸۶ء کے بعد سے کہی اردو کے شعرا کے یہاں انھیں روایات کی بنیاد پر بڑی آزادی کے ساتھ ارتقا ہوتا ہوا منتظر آتا ہے جید ر آباد میں نئی آصفی حکومت ۱۷۹۲ء میں قائم ہوئی سو رہیاں کے چالیس برسوں میں دکن نے اردو کے کئی انمول ترن پیدا کیے جن میں ولی بھری اور سڑاج توصیف اول کے شعرا میں محبوب ہوتے ہیں۔ مگر ان کے علاوہ وجہی ولی ولیوری، داؤد، عزیز اور عاجز بھی مشہور ہیں اول الذکر تینوں شعرا کے مجموعہ کلام اہتمام سے شائع ہو چکے ہیں، ان پر تحقیقی مضامین بھی لکھ جا چکے ہیں اس لیے

ان کا تذکرہ قدرے تفصیل سے خود ری ہے کیونکہ ان میں سے وہی ایک اقتدار سے تاریخی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔

وہی کو ایک زمانے تک اور دو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے۔ یہ بات تاریخی نقطہ نظر سے تو درست نہیں کہ وہی کو اندوکا پلا شاعر مانا جائے مگر اس نقطہ نظر سے یہ خیال صحیح ہے کہ وہ دکھنے کے سب سے بڑے شاعر تھے اور انھیں کے چراغ فن سے شمال ہند میں بھی اور دو شاعری کے چراغ چلے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک وہی کے بارے میں بھی بہت تھوڑی ہی معلومات ملتی تھیں مگر اب جو تحقیقی کام ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے نام جانے پیدا ہیں، وفات وغیرہ کی نسبت کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں حالانکہ ان کے دکھنے یا گھر اتی ہونے کی بحث اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔

وہی کا نام ولی محمد تھا۔ علیہ و ناش ماحصل کرنے کا شوق انھیں اپنے مولد احمد آباد سے نکال کر اور نگ آباد، سورت اور دل رے گیا جہاں انھوں نے عالموں، صوفیوں اور شاعروں سے مل کر اپنی پیاس بھانے کی کوشش کی۔ انھیں تصوف سے طلبی لگتا تو تھا۔ اس کا اندازہ ان کی شاعری سے لگایا جاسکتا ہے۔ تصوف نے انھیں حسن پرست بنا دیا تھا اور یہ فرمائی تھی نے مسائل حیات کی واقفیت بھم پوچھائی تھی۔ غالباً انھیں حسن پرست بنا دیا تھا اور یہ فرمائی تھی ہوا اور شمال ہند بھی پوچھے جب وہ وہی گئے تو ان کے مشور صوفی اور شاعر سعد اللہ گھشن سے ملے جو اس سے پہلے بھی ان کے مرشد کی چیخت رکھتے تھے۔ یہ بات دلے نہیں ہے کہ وہ دلی ایک بار گئے، یادو بار۔ ان کی وفات ۱۷۰۴ء میں احمد آباد میں ہوئی۔

وہی کا دیوان متعدد بار شائع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مشور فرانسیسی حامل گارسان ذمای نے بھی ان کا دیوان فرانس سے شائع کیا تھا۔ وہی نے غزل، شنوی، قصیدہ وغیرہ بہر طرح کی تقطیعیں لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان سے پہلے وہی پوچھ گھیا تھا، اور ان کی غزلیں دہان کی گلیوں اور بازاروں میں گھانی جائی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنزوں اور شمال ہند میں ادبی روابط قائم ہو رہے تھے اور وہی کے شعر کو اور دو کے یہ منور نے نئے اور تقابلی تعلیم معلوم ہو رہے تھے چنانچہ جب وہ وہی پوچھے تو ان کی بڑی آذ بجلکت ہوئی اس وقت وہی کے زیادہ تر شرافاتی میں لکھتے تھے انھیں شاعری کی حسین دیوی کو بول چال کیں جان کا معمولی لباس پہنا کے سامنے لانا اہانت آ میز معلوم ہوتا تھا۔ مگر وہی کی

شاعری کے مطابع سے اُن کو احساس ہوا کہ اپنی زبان میں شاعری دلچسپ اور کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔

وَّلی نے اپنی غزلوں میں زیادہ تر محبت کے جذبات کا بیان مختلف صورتوں سے کیا ہے۔ یہ جذبہ محبت و سوت اختیار کر کے ملکِ تصوف کا عشق بن گیا۔ اردو شاعری میں ابتداء سے ہی تصوف کے خیالات جادی و ساری رہے ہیں۔ وَّلی نے بھی ان خیالات کو ٹری خوبصورتی، دلوں اور قوت کے ساتھ پیش کیا ہے غزلوں کی ایک ٹری خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں عام قلبی جذبات کو آپ بیتی کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ تصوف بھی باطینیت اور داخلیت کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ولی کی غزل میرا اثر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق کے حقیقی خیالات پیش کرتی ہے۔ وَّلی کی شاعری کا تجزیہ کرنے سے ایک بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر فارسی شاعروں کا گہرہ اثر تھا۔ ان کے خیالات بھی کہیں کہیں ان سے ملتے جلتے ہیں مگر ان میں اتنی صداقت پائی جاتی ہے کہ وہ باہر سے مانگے ہوئے خیال نہیں معلوم ہوتے۔ بندہ وستانی زندگی کی تصویریں بھی وَّلی کے یہاں کم نہیں ہیں۔ گنجاجنا، کرشن، رام، مرسوی، سیتا، لکشمی بھی کے نام ان کے کلام میں بار بار آتے ہیں اور تہذیبی وحدت کی جانب بڑھتے ہوئے تصورات کا اشارہ یہ ہیں۔

وَّلی کی زبان خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے۔ ان کی زبان شروع میں قدیم دکنی شاعروں سے متأثراً رکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ دکن سے بکل کر منہدوستان کے او حصو میں بھی گئے، یہاں تک کہ اردو زبان کے اس مرکز میں بھی پہنچے جہاں اس نے جنم لیا تھا اس لیے ان کی زبان دکنی اوردو سے تھوڑا بہت مختلف بھی ہے۔ اس کے او کئی اسیاب ہو سکتے ہیں۔ ولی احمد آباد اور نگ آباد میں رہتے تھے۔ اور نگ آباد بہت دنوں سے وَّلی کے زیر اثر تھا سے ماں کی بولی پر وَّلی کی اردو کا اثر بھی پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ دکن کے دی کی سلطنت میں مل جانے کے باعث دو نوں میں رسول و رسائل کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا اس لیے ان کی بعد کی شاعری میں وَّلی کی کھڑی بولی کا رنگ زیادہ دکھانی پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ متولد میں وَّلی گئے تو شاہ گلشن نے ان سے کہا کہ تم فارسی کے موضوع اور خیالات کو اپنی زبان میں کیوں نہیں منتقل کرنے؟ ہو سکتا ہے کہ وَّلی نے ان کے کہنے کے

مطابق اپنی تخلیقات میں فارسی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو، مگر یہ بات سبی یا درکمی چاہیے کہ جہاں کہیں انہوں نے آسان اور ظالع اردو کا استعمال کیا ہے، وہ بول چال کی زبان سے بہت قریب پنج گھنی ہے۔ مثال کے لیے یہ شعر دیکھیے:-

جسے عشق کا تیر کاری گلے	او سے زندگی کیوں نہ بھاری گلے
نہ ہوئے اوسے جگ میں ہر گز قرار	جسے عشق کی بے قراری گلے
رقیبوں کے دل میں کثاری گلے	وکی کوں کھے توں اگر اک پچن

فارسی آمیز اردو کا منونہ یہ ہے۔ ۱۔

دبروں کا حسن جس سند کا پانداز ہے
حسن کا سند نہیں وہ دلبر متاز ہے
غیر حیرت ہے خبراً وس آئینہ روکی کے
راز کے پردے میں جس کی خامشی آؤ ہے
یاد سے کس رشک گلزارِ ارم کے ائی
رنگ کوں میرے سدا جیوں بوئے گل پڑا ہے
جیا کہ کھاگیا توی اردو کے پلے اہم شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شعر گوئی سے نہیں
بڑھ کے ان کے اس اثر کی اہمیت ہے جو شاعری اردو شاعری اور زبان کی روایتوں
کو وسیع بنانے کا ذریعہ بنا۔ اس کا ذکر آئینہ اور اراق میں تفصیل سے کیا جائے گا۔

اس دور کے دوسرے بڑے شاعر قاضی محمود بھری تھے۔ وہ بھی ایک بڑے صوفی شاعر
مانے جاتے ہیں۔ ان کی ایک مشنوی جس کا موضوع مسلم صوفیا کے اسرار کا بیان ہے، ملنگ
کے نام سے کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ بلکہ اب ان کی غربلوں کا مجموعہ بھی جو دستیاب نہیں
تماشائی ہو گیا ہے۔ بھری بجاپور کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور جب بجاپور مغلیہ
سلطنت میں مل گیا تو وہ حیدر آباد چلے آئے ان کی زبان قیدِ دکنی شاہروں سے ملتی جلتی ہے
اگرچہ ان کے عصر کے اور شعرا کی زبان کچھ بدل چکی تھی۔ ملنگن کے کئی بار شائع ہونے سے
پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم بہت مقبول تھی۔ لیکن اس میں تصوف کے ایسے سمجھدہ اور عصیق
خیالات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان کا سمجھنا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کہ
بھری نے خود اس کی شرح فارسی زبان میں عروس عرفان کے نام سے لکھی اور ان کے ایک
شاگرد نے اس کو نشر میں آرت من گن کے نام سے پیش کیا۔ ملنگن کو دیکھتے ہوئے ان کی
غربلوں کی زبان آسان اور فطری معلوم ہوتی ہے۔ نمونہ یہ ہے:

سورج کھکہ کی مثال نین پچ ہے لال تجھ لب سے لال نیں سچ ہے

دھن تیرے مد متے نین کے تم پر تگاٹی کالاں نیں سچ ہے
 اب خوشامد توں بس کراے بھری مجھے پر اوس کا خیال نین سچ ہے
 سر آج اور نگ آبادی اس دور کے تیرے بڑے شاہر تھے۔ ان کا مولد اور نگ آباد تھا۔
 پچھن سے ہی ان کا مزاج حن پستی کی طرف مائل تھا۔ ابھی پوری طرح سن شباب کو بھی اُ
 نہ پہنچتے کہ ان پر ایک طرح کی مجد و بانہ کیفیت چھاگھی سات برس گزرنے کے بعد
 جب یہ کیفیت ختم ہو گئی تو صوفیوں اور فقراء کے ساتھ رہنے لگے اور ساری زندگی آئی طرح
 بسر ہو گئی جس وقت ان پر مجد و بیت کا یہ غلبہ تھا انہوں نے فارسی میں بہت کچھ کہا
 مگر وہ ضائع ہو گیا۔ اس کا کچھ حد تھے ان کے مجموعے میں شامل ہے جو شائع ہو چکا ہے۔
 اردو کے صوفی شعرا میں سر آج کو بہت اہم مقام دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور تخلیقات
 میں گھرا تعلق ملتا ہے بلکہ دونوں میں ایک طرح کی بے قراری اور جوش کا پتہ چلتا ہے۔
 ان کے مجموعے میں سہ رصنف کی نظریں ملتی ہیں مگر سچ یہ ہے کہ وہ اپنی مشنوی بوستان خیال
 و راپی غزلوں کی وجہ سے مشور ہیں۔ ان کی متعدد مشنویوں میں بوستان خیال سب سے
 یادہ اہم ہے۔ اس میں تقریباً ۱۵۰ سو سالہ شعر ہیں۔ مگر یہ سر آج کی صرف دو دن کی
 ریاضت کا نتیجہ ہیں۔ اس کی کہانی بہت آسان اور سیدھی ہے اور آپ بیتی کے انداز
 میں لکھی گئی ہے۔ ایک شاعر اور عاشق کی زندگی کی ایسی حقیقی اور حسین عکاسی کسی معنوی
 شاعر کے بس کی بات نہیں۔ احساس کی واقعیت اور خیالات کی جدت کے اعتبار سے بھی
 یہ مشنوی اردو کی خاص تصنیفات میں شمار ہوتی ہے۔ سر آج کی غزل میں بھی بڑی دلکش
 ہیں اور پڑاڑ ہیں غزل میں انہوں نے وہی کامیابی کیا ہے اور اپنی نظموں میں ان کا نام؟
 بڑی عقیدت سے لیا ہے۔ سر آج کی زبان بھی جنوبی سندھ کی اردو کے مقابلے میں شمالی سندھ
 کی اردو سے زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہے۔ سر آج کا انتقال ۱۹۲۴ء میں ہوا۔ ان کے دوستوں
 اور شاگردوں نے ان کے نام کو ایک شاعر کی ہی صورت میں نہیں بلکہ ایک صوفی کی شکل میں
 بھی زندہ رکھنے کے لیے ان کا مقبرہ بنوادیا جواب بھی اور نگ آباد میں موجود ہے۔ نمونے
 کے لیے سر آج کے کچھ شعر ذیل میں دیے جاتے ہیں:

سب جگت ڈھونڈ پڑا پیو کونہ پایا ہرگز دل کے گوشے میں مکان تھا مجھے معلوم نہ تھا
 خبر تھی پر عشق سن نہ جنزوں رہا نہ تو میں سما جو ری سو بے خبری رہی

چلی سمت غیرے وہ ہو اکہ چین سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نہال غم جبے دل کیسی سعی ہری رہی
مبت سے گم ہوا دل بیجا نہ سرائج شاید کہ جانگل کا ہے کسی آشنا کے ہاتھ
اس وقت تک شمالی ہند میں اور دوشاہری کی روایات کافی آگے بڑھ چکی تھیں، مگر منابع
ہو گا کہ اس کا ذکر کرنے سے پہلے دکن میں اردو کی ادبی میرگریوں کا مطالعہ کر لیا جائے۔ پندرہویں
صدی سے انہار ہوئیں صدی کے آغاز تک دکنی اور دوزیادہ تر شمالی ہند سے آزاد ترقی کرتی
تھی۔ ابتداء میں تو صرف صوفی شعر اور مصنفین نے اس زبان کو اپنایا جو شمالی ہند سے دراوڑ اور
ہمارا شہری زبانوں کے درمیان آپنی تھی۔ مگر تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اس نے
یہاں جزو پکڑ لی اور ہر طرح کی ضرورتیں اس سے پوری ہونے لگیں اگرچہ اس وقت تک
یہ زبان زیادہ تر مسلمانوں میں رائج تھی مگر یہ کہنا زیادہ موزوں اور مناسب ہو گا کہ وہ ایک
ایسی ہندوستانی زبان تھی جو ہندوستانیوں اور دوسرے فرقوں کے اس میں جول کی علاقاً
تھی جس کا امتزاج ادب و ثقافت کے مختلف شعبوں میں ہو چکا تھا۔

اس موقع پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کئی خیر اردو ادبیوں نے
وئی پریہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اور دوشاہری کا رخ ہندوستان کی طرف سے پھیل کر
ایران کی طرف کر دیا اور جو ہندوستانیت دکنی اردو میں پائی جاتی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ مگر
یہ بات وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے شمالی ہند کی زبانوں کے ارتقا کے اسباب کو نہیں
سمیح کیا ہے۔ جس وقت مغل سلطنت کا نوال شروع ہوا اسی وقت سے اور جو بجا
نے ادبی شکل میں ترقی کرنا کم کر دیا تھا۔ اب کوئی بکری، جالسی، رحیم، سورداد، میر آبائی،
تلسی دا اس پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اہل علم نے چاہیے وہ ہندو ہوں
یا مسلمان، جاگیر وارانہ اقتدار کے زیر اثر فارسی کو اپنانے کی کوشش کی تھی اگرچہ بول چال
کے لیے مقامی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی ادبی طاقت
کا کچھ شہیک سے اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ اس یہے جب وئی نے دلی پہنچ کر ایک ترقی پذیر
زبان دیکھی جوان کی دکنی اردو سے ماثلت رکھتے ہوئے کبھی علمیہ شکل رکھتی تھی تو انہوں نے
اسے اپنے خیالات و احساسات کے اظہار کے لیے قبول کر لیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے
شمالی ہند کے شعر کو اپنی زبان میں شاعری کی ترغیب دی اور اس کے عوض میں ایک زیادہ
احمی اور ترقی پذیر اردو پنے ساتھ دکن لے گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی، دونوں ایک ہی

زبان کی دشکلیں تھیں جن کا ارتقا انگ لگ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک کی مدد سے دوسری کو پراٹر اور رخچتہ کار بنانے کی سسی کی اور جنوب کوشمال سے ملانا چاہا۔ انہوں نے جان بوجہ کر انپ زبان کو فارسی آمیز یا مشکل نہیں بنا یا بلکہ دکھنی اردو کو اس کے مولد کی اردو سے قریب بلائے کی کوشش کی۔ شماں ہند سے ناطہ ہونے کے باہر دکھنی اردو کی باڑھ رکی ہوئی تھی اب دونوں کے سوتے پھر مل گئے اور آگے چل کر ان میں اشتراک پیدا ہو گیا۔ سانی اعتبار سے جیسے جیسے اردو معیاری اور ادبی بنتی گئی شماں اور جنوب کا فرقہ بہت کم ہوتا گیا حالانکہ بہت دنوں تک جنوب نے شماں کو اور شماں نے جنوب کو ممتاز کیا۔

تیسرا باب

دلی اٹھارویں صدی میں

یہ تجھب کی بات ہے کہ اردو دہلی کے علاقے کے قریب ہی پیدا ہوئی، مگر وہاں وہ بہت دنوں تک ادب کے برگ و بار سے محروم رہی (یہ بھی ممکن ہے کہ قدیم تخلیقات ضائع ہو گئی ہوں) اس کے عکس دکن میں جہاں وہ ایک سماں کی حیثیت سے گئی تھی خوب حلی پھولی۔ اس کے کچھ اسباب گذشتہ باب میں بیان کیے جا چکے ہیں اور اس مختصر تاب میں زیادہ تفصیل سے لکھنا محاں ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شمالی ہند میں پیدا ہونے والی اردو زبان ایک بول چال کی شکل میں ترقی کر رہی تھی، مگر ثقافتی حلقوں میں فارسی اس طرح چھائی ہوتی تھی کہ لوگ بول چال کی زبان کو شاعری میں استعمال کرتے ہوتے تھے تکف کرتے تھے۔ شہنشاہیت اور جاگیرداری کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ طبقہ جس زمان کو مذہب قرار دے دیتا ہے، اس کے سامنے دوسری زبانیں حقیر اور معمولی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے بہت دنوں تک یہی رواج رکھ کر بول چال کی زبان کچھ اور تھی اور شاعری کی کچھ اور۔ نہیں تو، یہ بات ظاہر ہے کہ جب کمال فن کے دوسرے شعبوں میں میل جوں کے باعث نئے نئے ہلوپ جنم لے رہے تھے، اس وقت خیالات کو گویا یا دینے کی صلاحیت رکھنے والی زبان پنے جہاگیر مزاح کے باوجود کیسے صرف بول چال کی منزل میں رہ سکتی تھی؟ اگر ہم ملک کی حالت کو نظر میں رکھ کر حضن مغلوں ہی کے مدد کی سماجی کیفیت کو دیکھیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ بہت سے دجوہ میں فارسی ہی سے کام لینا اس وقت ممکن تھا۔

ایک طاقتور سلطنت صورت حال کے بدل جانے سے جس طرح کمزور ہوتی جا رہی تھی، اسی طرح فارسی بھی اپنا اثر کم کرتی جا رہی تھی۔ یہ عجیب طرح کی حالت تھی کہ جن لوگوں کی مادری زبان سندھستانی تھی وہ فارسی سی میں لکھنے پڑھنے کو تہذیب کا نشان سمجھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ فن اور علم دنوں کا تعلق جس طبقے کے لوگوں سے تھا، ان کی سماجی اور ثقافتی روایات نے فارسی کے نسل عاطفت میں ترقی کی تھی، مگر ملک کی زبان اردو کی شکل میں عوام اور متوسط طبقے کے لوگوں میں پرورش پارہی تھی۔ جہاں زبان موجود ہوا ہاں اس کے ادب کے پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بس ایک لطیف و نازک اشارہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولی کی آمد نے یہ شرط پوری کر دی اور شاعروں کے دل سے یہ اندریشہ رفع ہو گیا کہ بول چال کی زبان میں نازک جذبات کی عکاسی نہیں ہو سکتی۔

اردو کے بعض علا کا خیال ہے کہ شمالی ہند میں اردو کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں جائی۔ قطبین، تکریر، میرا اور ملی داس کی تخلیقات کے کچھ حصوں کو اردو کا ہی ابتدائی روپ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تک زبانیں اپنے دو تغیریں تھیں اور اردو کمی اور ہی برع یا پوربی سے اتنی ہی قریب یاد در تھی جتنی کھڑی بولی پرمبنی ہندی۔ مگر اس مختصر تاریخ میں اس بحث کو جھپٹیزنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مذکورہ شعرا کے بارے میں جسے واقفیت ہائل کرنی ہوگی وہ ہندی ادب کی تاریخ میں ان کی حیات اور کارناموں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ ہاں اردو ادب کی مبوط تاریخ میں ان کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔

اس مقام پر صرف انھیں ادیبوں اور شاعروں کا ذکر کرنا مناسب ہو گا جن سے واقفیت اردو ادب کی ترقی اور توسعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو اردو شعرا کے نام ستر ہویں صدی کے اوپر سے مسلسل ملنے لگتے ہیں۔

مشلاً افضل پانچ سوئی نو بارہ ماہ سے کی روایت میں ایک ٹبری پراثر شزوی بکٹ کہانی کے نام سے لکھی جو شائع ہو چکی ہے۔ یہ نزدی ۱۷۲۹ء سے پہلے کی تخلیق ہے اور شمالی ہند کی بان کا بہت اچھا منہ نہ کہی جاسکتی ہے۔ افضل کے علاوہ جعفر زمی اور اہل کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بشیر نظر بیانہ اور کمیں کمیں فخش ہونے کے باوجود ذمی کے کلیات سے اس زمانے کی تاریخی، سماجی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں ٹبری واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے اور ادب کا مراجع بھی پہچانا جاسکتا ہے۔

کہ مجاہقا ہے کہ وتنی کے اثر سے شالی ہند میں اردو شاعری کے بیچے ایک نیا احوال بن گیا۔ بہاں تک کہ اٹھار ویں صدی کی دوسری دہائی میں وتنی کے وہ شاعری کبھی کبھی اپنے خیالات اردو میں پیش کرنے لگے جو محض فارسی ہی میں انہما رخیال کرتے تھے۔ فطرت، آمید، بیدل ندیم اور خان آرزو، جو سب کے سب فارسی کے عالم اور شاعر تھے، کبھی کبھی اپنے تلامذہ کی فرمائیں پر ایک آدم شعر اردو کے بھی کہہ لیا کرتے تھے۔ ان میں خان آرزو، سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ ان کی سرپرستی میں کئی اردو شاعروں نے شالی ہند میں اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان ہی نہیں یورپی علا میں بھی وہ پہلے عالم ہیں جس نے فارسی اور سنسکرت کے باہمی سافی تعلق پر انہما رخیال کیا اور اردو کو معياری بنانے میں مددی۔ اس زمانے تک کچھ شاعر جو شاعری کرتے تھے، اس میں بھی ایک مصروع اردو کا ہوتا تو ایک فارسی کا اور کبھی ایک ہی مصروع کا آدھا حصہ فارسی ہوتا اور آدھا اردو کبھی کبھی تو خیال تک فارسی کے سوتے۔ مگر اٹھار ویں صدی کے آغاز ہی سے ہم کو اردو شاعری کے صاف تحریرے نہونے ملنے لگتے ہیں۔ راج کاج کی زبان فارسی رہی مگر شاعروں نے عوام کی بولی سے کام لیا۔ اعلیٰ طبقے میں فارسی کا جادو چلتا رہا اور عوام کے درمیان ہندوستانی جرد پھر دتی رہی۔ وتنی کی ادبی فضای میں جو تمدیلی ہوئی اسے ہم اس طور سے پیش کر سکتے ہیں کہ پہلے فارسی کے شعر اسے ایک آدم شعر فارسی میں لے کر، پھر دھیرے دھیرے ایسے شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے شعر گوئی تو فارسی میں شروع کی مگر تھوڑے ہی دنوں بعد فارسی چھوڑ کر یا فارسی کے علاوہ اردو میں بھی لکھنے لگئے اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی تعلیم فارسی میں ہوئی تھی، فارسی شاموی ان کے ذہن و قلب میں بسی ہوئی تھی، بمشیز فارسی ہی کے نہونے ان کے سامنے تھے اور وہ فارسی ہی کے نقادوں کے تباٹے ہوئے ہواستے پر چل بھی سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی شاعری کے لیے جس ہیئت اور اسلوب کا انتخاب کیا وہ فارسی ہی میں ریا وہ رائج تھے۔ مگر ان بالوں کے تاریخی اسباب اتنے نمایاں ہیں کہ ان کا بیان فضول ہو گا۔ یہ بات ضرور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان کے خیالات میں کسی طرح کی مذہبی تنگ نظری نہ تھی۔ اگر وہ کبھی ایسے انفال کا استعمال کرتے بھی تھے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہی ہوتا تھا۔

اردو ادب کے مورخوں نے شالی ہند میں شعری ادب کا پہلا دوسری بادشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت سے شروع کیا ہے جو ۱۹۰۷ء میں تخت نشین ہوا تھا۔ وہ پہلا مغل بادشاہ

تھا جس کا اردو کلام تھا ہے۔ مگر قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے کتنا کہا۔ دنیا بہت بدل چکی تھی۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دربار میں ابو الفضل، فیضی، عرفی، نظری صاحب، قدسی اور رکیم رونق افروز ہوتے تھے اور اب اردو شعر اکی باری تھی جن میں سے کچھ راج دربار سے وابستہ تھے اور کچھ اس کے باہر تھے۔ شروع میں تو اردو شاعری کا دلی کے شاہی دربار سے کوئی ہجر تعلق دتھا، مگر اس بات کو نہیں بھول جانا چاہیے کہ لگڑپ یہ چاگیر دار اند نظام کے زوال کا عہد تھا لیکن کچھ نہ ہونے پر بھی ادب اور فن کی قیادت با درشاہ اور اس کے امیروں ہی کے ہاتھ میں تھی اور شاعری پر انھیں کے اثرات نمایاں طور پر پڑ رہے تھے۔

محشاہ کے عہد حکومت میں جود و سب سے بڑے واقعات ہوئے اُن میں سے ایک تو نما درشاہ کا حملہ تھا اور اردو شاعری کا قدم دلی میں جنم جانا۔ ان دونوں واقعات سے مغل راج کے تنزل کا پتہ چلتا ہے۔ اگر سلطنت طاقتور ہوتی تو نما درشاہ دلی کو لوٹتا اور مذکور فارسی کو دبا کر عوام کی زبان اہم زبان کی شکل اختیار کرتی۔ فائز، آبرد، ناجی، حاتم یک زنگ، منظر جان جانا، ہنضمون، فناں، تاباں اور بہت سے دوسرے شاعر اس عہد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اُردو ادب کی تاریخ میں ان کا مقام اس لیے بہت بلند ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو عالم کیا۔ ان کی زبان آسان ہندوستانی تھی۔ یہ گوگ فارسی کے عالم ہونے کی وجہ سے اس سے قطعی طور پر تاثر ہوتے تھے۔ مگر ان کے جذبات و فیالات میں ہندوستانیت بھری ہوئی ہے جس اردو کا استعمال یہاں کی شاعری میں ہوتا تھا اسے اس وقت رنجیت کرتے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ رنجیت کا مطلب ہے، طاجلا، مگر اپڑا، اگچ کی طرح مفبیوط۔ اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ملی جلی زبان تھی جس کا استعمال شاعری میں کیا جا رہا تھا۔

جن شعر اکے نام او پر مذکور ہوئے ان میں سے کہی کے بارے میں ہماری واقفیت ابھی بہت کم ہے۔ اس زمانے کے شعرا کے جو تذکرے لکھے جاتے تھے ان میں شعر اکے سوانح تفصیل سے لکھنے کے بجائے ایک معمولی تعارف کر ائینے کو ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے تذکرے دیکھنے کے بعد بھی ان کے نورے عالات زندگی سامنے نہیں آتے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے متعلق اطلاعات جدید تحقیقی کوششوں سے سامنے آگئی ہیں اور ان کے

کارنا میں بھی دستیاب ہو گئے ہیں گر ابھی سبت کام ہونے کو باقی ہے بختیر طریقے سے یہاں ان کا ذکر کیا جائے گا اور ان کے کچھ اشعار بنو نے کے طور پر پیش کیے جائیں گے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ اس وقت دلی میں اردو شاعری کی کیا صورت تھی، کس قسم کے خیالات پر زور دیا جاتا تھا اور کون سے اسالیب پسندیدہ تھے۔

شاہ مبارک آبرو کا نام سخن الدین تھا اور تخلص آبرو۔ وہ گوایار کے ایک مشہور صوفی خاندان سے متعلق تھے اور خان آرزو کے شاگرد تھے۔ ان کی وفات ۲۳۷۰ھ کے لگبھگ ہوئی۔ انہوں نے اپنے کلام کا مجموع مرتب کر لیا تھا مگر ابھی کچھ دن پہلے تک ان کے کچھ اشعار ہی تذکروں میں ملتے تھے۔ اب ان کے دیوان کے کمی نہیں با تھر آگئے ہیں اور اسے شایع بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر غزلیں ہی کہتے تھے ویسے انہوں نے ایک مشنوی بھی کمی تھی جس میں سراپا کے انداز میں محبوب کے حسن و جمال اور لباس کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض اشعار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صنائع کے استعمال کا بہت شوق تھا۔ اس لیے کہیں کہیں ان کی شاہری بے مزہ بھی لگتی ہے مگر دلی کی بول چال کا مزہ ان کے شعروں میں مل جاتا ہے جیسے:

پھرتے تھے دشت دشت دوانے کدھر تھے

دلے عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے

افسوس ہے کہ مجھ کو وہ یار بھول جاوے دہ شوق، وہ محبت، وہ پیار بھول جاوے
قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس سکھی ہو گر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا
اُنہوں چیت کیوں جنوں ستی خاطر نہیں کی آئی بہار تجھ کو خبر ہے بنت کی؟
ناجی کا نام سید محمد شاکر تھا۔ یہ نواب امیر خاں کے یہاں سپاہیوں میں تھے۔ ان کی طبیعت کا رجحان نظرافت اور مزاح کی طرف بہت تھا اور کہا جاتا ہے ہر وقت سنہی کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جن سے روتے ہوئے لوگ سنہیں پڑتے تھے مگر وہ خود نہ سنبھلتے تھے۔ تقریباً سکھی میں ان کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر ابھی زیادہ نہ تھی۔

ناجی نے نادر شاہ کے حلقے اور دلی کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس تباہ حالی کو ایک بہت ہی غم انگیز نظم کی شکل میں پیش کیا تھا۔ ان کا دیوان اب دستیاب ہو کر شائع کر دیا گیا ہے جس کے مطابع سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اسلوب شاعری بھی وہی تھا

جو اس وقت رائج تھا یعنی وہ بھی صنائع کا استعمال کرتے تھے اور زیادہ تر غزل ہی کی شکل میں اپنے انکار پڑھ کرتے تھے۔ دراصل وہ دلّی کے دورِ ایہام گوئی کے نمایاں شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے اور اس زنگ پر فخر کرتے تھے۔ کچھ شعر ہیں:

آج تو ناجی سجن سے کرتوا پنا عرصن حال مر نے جینے کا نہ کر وساں، ہوتی ہے سو ہجہ

نمکین حن دیکھ کر پی کا رنگ گل کا مجھے لگا پھیکا

کیا فرد اکا وعدہ سر و قدیمے قیامت کا جو دن سنتے تھے کب ہے
اس دور کے مشہور شعرا میں حاتم کو بے حد اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ محض ایک بڑے شاعر ہی نہ تھے، کئی بڑے شاعروں کے اتساد بھی تھے لیکن عمر پانے کی وجہ سے انہوں نے زبان کی بہت سی تبدیلیوں کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور اپنی شاعری میں زبان کی بدقیقی ہوئی صورتوں کو جگہ بھی دی تھی حاتم کا نام شفیع طور الدین تھا۔ وہ دلّی میں ۱۶۹۹ء میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنے عنقولان شباب ہی میں شاعری کی دلیوی کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس وقت دلّی میں وکی کا اثر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، حاتم نے بھی کامیابی کے ساتھ اس کا اتباع کیا۔ انہوں نے اپنا پلا دیوان تیار کر لیا تھا جس میں پرانے طرز کی شاعری کی سمجھی خصوصیتیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن جب رنگ بدلا، تو انہوں نے پرانا ذہنگ چھوڑ کر اس زبان میں شاعری شروع کی، جو زیادہ پڑا اثر اور ماہر ان تھی۔
پچھے اپنے پرانے دیوان سے کر اور کچھ نئی تخلیقات سے انہوں نے ایک دوسرا مجموعہ تیار کیا، جس کا نام ”دیوان زادہ“ رکھا۔ اس مجموعے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک دیباچہ لکھا ہے جس میں اپنی زبان اور شاعری کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں۔ علمی نقطہ نظر سے یہ دیباچہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں وقت کی بدلتی ہوئی پسند اور اسی ارتقا کی جھلک ملتی ہے۔ تنگ دستی اور پریشان حالت میں یک عمر بس کرنے کے بعد ان کی وفات ۱۶۸۱ء یا ۱۶۹۷ء میں ہوئی۔ حاتم کی شاعری کے مطابع سے تھوڑی بہت ان کی زندگی پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ان کے یہاں بھی اس دور کے دوسرے شعرا کی طرح زیادہ تر عشق و تصوف کے مطالب ملتے ہیں۔ اپنے دیوان کے آخر میں انہوں نے اپنے تلامذہ کے نام بھی گنائے ہیں۔

اُن میں سبے اہم نام مرزا محمد رفیع سوداکا ہے، جن کا ذکر آئیندہ اور اُن میں کیا جائے گا۔ حاتم نے فارسی میں بھی نظریں لکھی ہیں، لیکن وہ آج ایک اردو شاعر کی حیثیت سے ہی معروف ہیں۔ اُن کے بارے میں بہت تحقیق ہو چکی ہے اور دیوان زادہ کی ترتیب بھی مکمل ہے لیکن ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے۔ بنونے کے لیے یہ شعر دیکھئے:

جس کو دیکھا سو یاں دشمن جان ہے اپنا دل کو جانے تھے ہم اپنا، سو کماں ہے اپنا

کھپ گئی ہے دل میں حاتم کے تری بانکی نگاہ چلتے چلتے تک بتاتا جا، ترا کیا نام ہے

زندگی در در سر ہوئی حاتم کب ملے گا مجھے پیا میرا

پیری میں حاتم اب نہ جوانی کی یاد کر سوکھے درخت بھی کہیں ہوتے ہیں بھرے
مرزا منظہر جان جاناں (صیحیج جان جان، معروف جان جاناں) نے اردو میں بہت کم
غزلیں لکھی ہیں، مگر ایک بہت بڑے صوفی اور عالم ہونے کے باعث انہیں بہت اہم سمجھا جاتا
ہے۔ انہوں نے اردو میں جو کچھ لکھا۔ اس کا کچھ حصہ تذکروں میں مل جاتا ہے۔ انہوں نے
زبان کو درست کرنے اور شاعری کو اُن صنائع سے بچانے کی سعی کی جو شاعری کو محض الفاظ
کا ایک گور کھدھندا بنادیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ایسا گوئی کی مخالفت کی۔ فارسی
کے عالم ہونے کی وجہ سے ان کی زبان میں فارسی تراکیب کا استعمال بہت ملتا ہے ۱۹۷۴ء
کے لئے بھل آئی برس کی عمر میں کسی دشمن کے ہاتھوں ان کی جان گھٹی۔ اردو کے اس وقت
کے مشہور شعراء میں کئی اُن کے شاگرد تھے، جن میں یقین شہور ہیں۔ اُن کے کچھ شعر یہ ہیں:

چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹاکر کارواں اپنا
دچھوڑا ہائے بلبل نے چمن میں کچھ نشاں اپنا
یہ حسرت رہ گئی کیا کیا امزے سے زندگی کرتے
اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغیاں اپنا

ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے لیک جن کھل جاتا ہے، جب سنتے ہیں تو ہی بہار

اس دور کے چند خاص شعر ایں مضمون، ایک رنگ اور آجام بھی ہیں مگر اس مختصر تاریخ میں بعض ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، البتہ ایک اور شاعر کا ذکر ضروری ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے کہ شمالی ہند کے ایک اور قدیم شاعر کے بارے میں کچھ سپتہ چلا ہو۔ ان کا تخلص فائزہ اور نام صدر الدین محمد تھا۔ وہ دل کے رہنے والے تھے اور دل کے دربار شاہی میں ان کو بلند منصب حاصل تھا صاحبِ ملک مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے عالم بھی تھے اور فارسی میں ان کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔ پروفیسر سعید حسن فضولی نے ان کا اردو دیوان اپنے بیش قیمت مقدمے اور تحقیقی فوٹ کے ساتھ شایع کر دیا ہے ان کا خیال ہے کہ فائزہ شمالی ہند کے پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا۔ اس دیوان کے مطالعے سے صرف اس وقت کی شاعری اور افکار بھی کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مارکی سایہ و واقعات کا حال بھی معلوم ہوتا ہے انہوں نے چند تذکریں بھی لکھی ہیں جن میں حسن اور حجد بات انسانی کا گہرا مشاہدہ دلوں با تیں پائی جاتی ہیں۔ فائزہ کی شاعری میں مقامی رنگ گھرا ہے۔ وہ ہند و دھرم کے خاص تیواروں اور بزرگوں کا ذکر بھی بڑے دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ ان کی تشبیہات میں بھی ہندی شاعری کا رنگ جملکتا ہے۔ اس وقت کے میلوں اور تیواروں کا بیان ان کے یہاں بڑے عدہ طریقے سے آیا ہے۔ دل کے ایک گھاٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،

ہے اندر کی مانوس بھا جلوہ گر
کہ ہزاروستی ہے زمہان سے ذر
لے جاتی ہے جیوں اپر اجی کو محل
کر دیکھ اون کوپانی میں ل جائے جل
ہر اک نار سورج سی شو بھا دھر
کھڑی ہو سرچ کی تپیا کرے

یک غزل کے کچھ شعر دیکھیے:-

گلی تیری مجھ دل کو پیاری گئے	دعایمیری تجھ من میں بھاری گئے
نہیں تجھ سا اور شوخ اے من ہرن	تیری بات دل کو نیاری گئے
بھوائیں تیری شمشیر زلفاں کمند	پلک تیری جیسے کٹا ری گئے

اس طرح شاہی ہند میں دلی کو اردو شاعری کام کرنے بننے کی خوش نصیبی حاصل ہو گئی اور جیسے جیسے وقت گز رہا تھا گیا، رکن کا ادبی اثر ماند پڑتا گیا۔ مغل راجہ بڑی شدت کے ساتھ زوال کی طرف پیش قدی کر رہا تھا اور اس کی سیاسی طاقت گھشتی جا رہی تھی، مگر ایک طرح سے عظیم اور جاندار روایت رکھنے کے باعث اس میں برقرار رہنے کی صلاحیت ابھی باقی تھی۔ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں دربار شاہی سازشوں کا اڈہ بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی ساری طاقت بڑے بڑے امیروں کو سونپ دی تھی اور خود عیش و عشرت کو زندگی کا حاصل بنایا کہر طرح کی ذمہ داری سے انگ رہنا چاہتا تھا۔ دلی کی رونق اتنی بڑھ گئی تھی کہ اعلیٰ عہدہ دار دلی سے دور رہنا ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ زیادہ تر بادشاہ کے ساتھ زنگ ریاں منانے کے لیے دلی میں رہتے تھے۔ امیروں کے آپس کے جھگڑے اور ننی قتوں کے حاصل کر لینے کی وجہ سے بدیسی حملہ آؤ زنا دشمن کو اس کا موقع مل گیا کہ وہ دلی پر چڑھ آئے۔ اس طرح ۱۷۴۳ء میں وہ ایک طوفان غضب ناک کی طرح پنجاب کو روندتا ہوا دلی کے دروازے پر آپنچا۔ مغل بادشاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور دلی خون میں ڈوب گئی۔ بہت سے شعراء اور تاریخیں مگاروں نے اس تباہی کی عبرت ناک تصویر کیتی ہے۔ نادر شاہ دلی کی پوری دولت لوٹ کر چلا گیا۔ اگرچہ یہ گھاٹ تھوڑے دنوں میں بھر گیا، لیکن جو نئی قوتیں جنم لے چکی تھیں، ان کو دبانا اور سلطنت کے مختلف حصوں کو انگ ہونے سے بچانا بھی بادشاہ کی طاقت سے باہر تھا۔ دھیرے دھیرے یہی چیزیں تباہ کرنا بابت ہوئی۔

ہندوستان کی ثقافتی اور سماجی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب نہ تو مصوری کی ترقی ہو رہی تھی اور نہ فن تعمیر کی۔ ہندی بولیوں میں بھی اب کوئی تلسی داس جائی، سور، اور کتبہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، فارسی زبان جو اعلیٰ طبقے کی ثقافتی اور کاروباری زبان تھی، ہندوستان میں اس کی جگہیں بھی سوکھ رہی تھیں۔ اس لیے زندگی اور سماجی شعور کے اثر سے اردو زبان ترقی کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ادب میں وہ طاقت نہیں دکھائی پڑتی تھی، جو ایک آگے بڑھتی ہوئی قوم اور ترقی کرتے ہوئے عوام کے ادب میں ملتی ہے۔ سامنست شاہی دور میں ادبی ترقی راجہ دربار کی سرپرستی اور ہمدردی پر منحصر ہوتی ہے اور مغل راجہ ایسا کمزور ہوا تھا کہ وہ اردو ادب کی ترقی میں کسی طرح مدگار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی ادب اور فن کے سوتے سوکھے نہیں تھے۔ محمد شاہ کے

در بار میں ہندوستان کافن مولیقی زندہ تھا اور کسی سوارے کے بغیر اردو زبان عام زندگی میں اپنی جڑیں پھیلائی تھی۔

وقت وہ تھا کہ سکھ، جاث، مراث نے سبھی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، دور دور کے مغل صوبے خود اختار ہو رہے تھے، ایسے انڈیا کمپنی ایک امریل کی طرح زندگی پر چھانی جا رہی تھی۔ اتحاد نہ ہونے کے باعث شمالی مغربی ہندوستان کسی وقت بھی بدیسی حلے کا نشانہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے دس برس بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ مرکز میں بڑے بڑے جاگیردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی توپیاں بنائے ہوئے تھے بادشاہ ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ان سب باتوں کا انجام یہ ہوا کہ ملک کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی اور عوامِ مجبوری کی حالت میں جاگیرداروں کے استھان اور دربار شاہی کے عمال کی بوٹ کا شکار ہونے لگے۔ شاہ عالم (۱۶۷۰ء تا ۱۶۸۰ء) جب تخت نشین ہوئے تو ایسے انڈیا کمپنی اور مرانھوں کی طاقت بہت بڑھ کی تھی اور جاؤں نے آگرہ کے آس پاس بوٹ چاکر عوام کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ روہیل کھنڈ میں روہیلے پٹھانوں کا ذور بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر زمگریز کمپنی کی پیاہ چاہی اور دیوانی کا سوار اکام انھیں سونپ کر الہ آباد میں ان کے ایک سیاسی و نظیفہ خوار کی طرح رہنے لگا۔ دس سال بعد جب وہ مرانھوں کی مدد سے پھر دل کی بساط شاہی پر مشیھی، تو روہیلے پٹھانوں نے شاہی محل پر حملہ کر کے بادشاہ کی آنکھیں بھاٹاک لیں اور قید خانے میں ڈال دیا۔ دلی پر ایک طرح سے مرانھوں کا اقتدار تھا اور ابھی شاہ عالم کا دور حکومت تمام بھی نہ ہوا تھا کہ ۱۶۸۰ء میں لارڈ لیک نے دلی پر اپنا سلطنت قائم کر لیا۔ اس طرح مغل سلطنت برائے نام رہ گئی اور واقعی حاکم زمگریز ہو گئے۔

یہاں سے دلی کی کمائی کچھ غیر معمولی حالات کے درمیان سے گزرتی ہے مگر اور پر جو کہا گیا ہے اس سے اس صورت حال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس میں اردو ادب شمالی ہند میں جنم لے کر آگے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اقتصادی اور سیاسی حالات کا اثر زندگی پر جو کچھ ٹپتا ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مغل اُج ایک بحثتے چڑھ کی طرح رات کے آخری اندر ہیرے سے لڑ رہا تھا۔ لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہاں کسی طرح کا نور پھیلا سکتا۔ اس دور کے سبھی بڑے شاعروں کے یہاں دلی کی اس بگرہی

ہوئی حالت کی تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں کہ جب لوگوں کی معاشری حالت خراب ہوچکی تھی، بادشاہ کے ہاتھ کمر در تھے اور زندگی لا معلوم کے خوف سے خیر معلوم ہونے لگی تھی، ایک طرح کا اخلاقی زوال بھی شروع ہوا۔ کچھ وقت پہلے اگر کچھ نہیں تھا تو مذہب پر گہرے عقیدے کے باعث لوگ زندگی کی مشکلوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ اب ایک طرح کی مایوسی و بے اعتمادی کا ظہور ہوا جس نے زندگی کو بے حقیقت کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ سندھ وستان کے عوام جن طبقات میں صدیوں سے تقسیم تھے اس میں کوئی بڑا تغیر نہیں ہوا تھا، ملک کی پیداوار کا طریقہ بدلا نہیں تھا، وہی زندگی میں جو ایک طرح کی اجتماعی یگانگت تھی وہ کمزور موجہ تھی جسی طرح کی سائنسی و اقتصادی ہونے سے ذرائع پیداوار اور انداز زندگی میں ایسی یکساںیت جوڑ پکڑ گئی تھی جو آگے بڑھنے سے روکتی تھی۔ بادشاہ خود کم زور و عیش پسند تھے اُن کے جاگیر دار بھی اُسی زندگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فوج کے پاس نہ لڑائی کے سامان تھے نہ دولہ نہ ضبط و نظم سپاہیوں کو تشوہاہ بھی ٹھیک سے نہ ملتی تھی، اس لیے وہ عوام پر ظلم کر کے پیٹ پال لئے تھے۔ ایک بنتے ہوئے سماج اور زوال آمادہ بادشاہیت میں جو برائیاں جنم لے سکتی ہیں، وہ سب کی سب اس وقت کے بھارت میں موجود تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جاگیر داری نظام میں گھنگھن چکا تھا، اب حکومت محض اپنی روایات کے سہارے زندہ تھی عوام کی اجتماعی طاقت جو بڑے سے بڑا انقلاب لاسکتی ہے، ہوئی ہوئی پڑی تھی۔ کیونکہ بہت دنوں کی مجبوری نے انھیں شکست خورده کر دیا تھا اور ابھی تک اُن میں اس شعور کا ظہور نہیں ہوا تھا جو ان کو اپنی حالت بدلتے پر مجبور کرتا۔ یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں تھی بلکہ جاگیر داری کے زوال کا یہ عمد صدیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اگرچہ اس درمیان کسی طرح کی صفتی ترقی نہیں ہو، رہی تھی پھر بھی تجارت کے ذریعہ کہیں کہیں ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہیں متوسط طبقے میگن جاسکنا۔ اس بات کو بھولنا نہ پہیے کہ انھمار صوبی صدمی میں سندھ وستان کے کئی حصوں میں انگریزی کپسی نے اپنی نیو مضبوط کر لی تھی اور وہ زندگی کے جو سامان اپنے ساتھ لائی تھی اس کا اثر بھی نہ کمال، مدرس اور سبی کے علاقوں پر پڑ رہا تھا۔

جنماں تک اردو ادب کا تعلق ہے اس نے بھی اس اثر کو قبول کیا مگر مند و مسلم تہذیب کی پرانی صورت حال کا اثر اتنا گہرا تھا کہ یہاں خطے خیالات کی توسعہ تیرزی سے

ہمیں ہو سکی۔ یہ بات صاف ہے کہ جب پیداوار کے ذراثت میں تبدیلی ہوتی ہے تو ثقافتی حلقوں میں بھی اُن کا نامایاں ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے مگر ایسا کسی یکساں تناسب سے نہیں ہوتا۔ ادبی تخلیق کے قاصدے ایک بار پیدا ہو کر اپنی راہ آپ بنانے لیتے ہیں اور عام طور سے بہت جلد جلد نہیں بدلتے۔ اس کے اسواس وقت زندگی کے اصل اقتضادی ذراثت سے بھی یکساں طریقہ سے حل رہے تھے۔ اس لیے ادب میں کسی طرح کی جدت پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اُردو ادب پیدا ہو رہا تھا اس میں زندگی کی مصوری اور مسائل کی تعبیر ضروری ہے مگر زندگی کو آگے بڑھانے والی قوت کی کمی ہے اس کا سبب بھی ہے کہ اس زمانے کے شرعاً عام سے کوئی گھر ا تعلق نہیں رکھتے تھے اور زیادہ تر شہزادی میں رہنے کی وجہ سے ان حائل سے نا آشناستھے جو کسی گروہ کی زندگی میں بے صینی پیدا کرنے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے کی اُردو شاعری زندگی سے الگ تھلک تھی یا صرف خواب و خیال پر بہنی تھی بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے شاعر شعوری حیثیت سے زندگی کی جذبہ کو جابندار بن کر نہیں دیکھتے تھے۔ طبقاتی سماج میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں رہنا پڑتا ہے اور اس کا انداز فکر اسی طبقے سے مواد و موضوع حاصل کرتا ہے۔ مگر جب طبقات کی تقیم بہت واضح نہ ہو اور پیداواری ذریعے بالکل اولین حالت میں ہوں اس وقت ہر شاعر کامل طریقہ سے اپنے طبقے کے مقاصد کا مبلغ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دور میں ایسے شاعر بھی ملتے ہیں جو ہموماً انسانی زندگی کے حسن اور انسانیت کے افتخار کا ذکر ایسی سچائی سے کرتے ہیں کہ انھیں صرف اعلیٰ طبقے کے خیالات کا ترجمان کسی طرح نہیں کہا جاسکتا۔

انہار ہوئی عمدی کے اردو مصنفوں اور شاعروں کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ کچھ کا تذکرہ اور پہچکا ہے آئینہ اور اراق میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے گا جو اردو ادب کو ترقی کے معراج کمال تک لے گئے۔ مگر ان کے ذکر سے چلے یہ بھی دیکھ لیں اُن ضروری ہے کہ اس وقت تک شمالی ہند میں اردو ادب کی خصوصیتیں کیا کیا تھیں۔ یہ سے پہلی بات تو یہ دکھائی دیتی ہے کہ ابھی نشرگی ترقی بہت کم ہوئی تھی اور نظر میں سب سے زیادہ عروج غزل کا بواستھا۔ اگرچہ شنویہ مرثیہ اور دوسری اصناف سخن میں تخلیق ہو رہی

تھی مگر ان کی رفتار ترقی بہت سُست تھی۔ ابھی تک شاعری راج دربار سے دور تھی لہذا باوشا ہوں اور امیروں کی تائش میں قصیدے نہیں لٹتے۔ جہاں تک خیالات و موضوع کا تعلق ہے ان کے بیان زیادہ ترمیح و تصوف، اخلاق وغیرہ کا ذکر ہے۔ اگرچہ مک پر اسرازی ثقاافت اور فارسی زبان کا گھر اثر پر رہا تھا پھر بھی بزخ بجا شا اور دکھنی اردو کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس وقت کے شعرا کو صنایع میں اسیام اور رعایت لفظی سے بہت لچکی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ رنگ ہندی شاعری سے لیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں فارسی ادب کا اخطا طہ ہوا تو فارسی شاعری صرف نقوشوں کا کھیل ہو کر رہ گئی اس بے صنائع سے بہت کام لیا جانے لگا۔ قواعد اور فنِ حصہ صیات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی تھی، اگرچہ شاہ عالم اور مرزا منظہر نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے جن شعرا کا دور آتا ہے انہوں نے اسی بنیاد پر ایک عظیم عمارت تیار کر دی اور شعری ادب سلسلہ اور کیفیت ہیں بھی تخلیقی حسن کی طرف بہت آگئے بڑھ گیا۔

اب حسین عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں سیکڑوں شاعروں کے نام لٹتے ہیں۔ مگر یہاں صرف ان کا ذکر کیا جائے گا جن کی اہمیت مسلم ہو چکی ہے جیسے فیض، تابان، درود، سودا، سوز، نیر، قائم اور نقیم۔ اس سلسلے میں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وقت مسلسل عمل ہے اور ادب کی نارتھ کو اس طرح تقیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک عہد اور سرے عہد سے لوری طرح انگ ہو جائے جس وقت کچھ قلم کاروں کی ضعیفی ہوتی ہے تو کچھ کل جوانی، کبھی کبھی انھیں ایک ہی عہد میں شمار کر لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنی عمر کی بنیاد پر تقیم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے آگے چل کر جب کچھ اور شعرا کا ذکر بھی ہو گا تو یہ تجھنا چاہیے کہ شاعری کے مزاج میں کوئی بُرَّ تغیر ہو گیا تھا بلکہ اپنی آسانی کے لیے وقت کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے انھیں ادوا میں تقیم کر دیا گیا ہے۔

اوپر کہا جا چکا ہے کہ شاہ عالم کے عہد حکومت میں دلی کو طرح طرح سے حالات کی ستم ظرفیاں برداشت کرنا پڑیں اور بادشاہ کو الہ آباد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک قیدی کی حیثیت سے کم و بیش دس برس تک رہنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فن اور ادب کے حلقوں میں بُرَّی قبضہ طبیعت پھیل گئی اور شعرا نے جب یہ دیکھا کہ دلی میں خوردگوش کی سولت نہیں رہی، ان کا اعزاز داکرام کرنے والے بادشاہ اور امراء بھی نہیں رہ گئے۔

تو انہوں نے دوسرے راج درباروں کی راہ لی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے پہلے جس نے گھر چھوڑ کر اودھ اور عظیم آباد (پٹیہ) بیس پناہ لی وہ فغاں تھے۔ ان کا نام اشرف علی خاں تھا، ندیم کے شاگرد تھے، احمد شاہ بادشاہ کی وودھ ملائی کے بیٹے تھے اور مننا ہنسانا ان کا کام تھا۔ مگر جب ولی میں کوئی سہارا نہ رہا تو اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے دربار میں آئے اور بیان سے پٹیہ چلے گئے۔ ان کا انتقال ۱۷۲۸ء میں ہوا۔ پٹیہ میں ہمارا حب شتاب رائے نے ان کی ٹبری تو قیر و تنظیم کی اور اپنے پکس سے کہیں جانے نہیں دیا۔ ان کی زبان بہت صاف، شیرسی اور آسان ہے ان کا ایک فارسی اور ایک اردو دیوان ملتا ہے۔ اردو دیوان شائع ہو گیا ہے۔ کچھ شعر یہ ہیں:

زخم دل تو سیا نہیں جاتا بن بیسی بھی جیا نہیں جاتا
اے فغاں دیکھنا سمجھ لینا دے کے دل پھر لیا نہیں جاتا

اوہ کے وصال و ہجر میں یوں ہی گزر گئی دیکھا تو نہیں دیا جونہ دیکھا تو رہ دیا
میر عبدالمحیٰ جن کا تخلص تا باب تھادی کے رہنے والے تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ خود انھیں دیکھنے کے لیے اس راستے سے گزرے جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے تا باب اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعروں میں شمار ہوتے تھے۔ شراب بہت پتیے تھے اور اسی کی وجہ سے عالم جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا دیوان شائع ہو چکا ہو جس کے مطابع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان آسان اور مزے دار تھی اور غزل کے لیے جس طرح کے نازک اور جنبیات آمیز خیالات کی ضرورت ہوتی وہ ان کے بیان پائے جاتے ہیں۔ میر قرقی میر نے ان کی نسبت بہت تھیک کہا ہے کہ اگرچہ ان کی شاعری کے موضوع بہت محدود تھے مگر انہوں نے ٹبری زبانی کے ساتھ انھیں پیش کیا ہے۔ ویسے تو انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں مگر ان کی غربوں کو اردو ادب کی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے۔ نمونہ کلام یہ ہے:-

نہیں کوئی دوست اپنا، یار اپنا ہبہ بیان اپنا
شاؤں کس کو غم اپنا، الہم اپنا، بیان اپنا
ذرا قلت ہے اشارے کی نہ کہنے کی نہ سننے کی

کوں کیا میں سنوں کیا میں بتاؤں کیا بیکانپا
بہت چاہے کہ آؤے یار یا اس دل کو صبر کرئے
دیار اپنا نہ صبرا پنا، دیا میں جی ندان اپنا

سودے میں گزر تی ہے کیا خوب طرح تماں
دو چار گھنٹی روزا۔ دو چار گھنٹی باتیں

جن شاعروں نے اردو غزل کو غزل بنایا ان میں درود، سو دا اور تمیر ب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اس وقت کی زندگی کی بے چینی اور بلے قراری کو ٹرے خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرتا ہے۔ ان کے خیال میں شاعری کا زندگی کی نسبت جو فرض تھا وہ شعوری طریقے سے ہس زمانے کے اقتصادی اور سماجی مسائل کو پیش کرنا نہیں تھا بلکہ اس فضائی مصوری کرنا اور اس طرح اس کا بیان کرنا تھا کہ جتنی آپ بیتی کی شکل اختیار کر کے یا زندگی کے عام جذبات کسی خاص تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیے بغیر سامنے آ جائیں۔ یہی ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ غزل کی شاعری میں انھیں اس کا موقع نہ ملتا تھا کہ وہ خصوصی واقعات کا ذکر کر سکیں مگر جو بھی ان کے دیوان کا گہر امطالعہ کرے گا اُسے یہ جانتے میں کچھ وقت نہ ہوگی کہ وہ زندگی کے سچے مصور تھے۔ اس جگہ ان کے کلام کا تفصیلی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کی ایسی خصوصیتوں کا ذکر ضروری ہے جس سے ان کی قوت شعر گوئی کا اندازہ لگایا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو اٹھارویں صدی کی دوسری اور سندھ و سستان میں سامنی اخطاط کے باعث جنم لینے والی کیفیت کو بخوبی سمجھنا چاہتا ہے وہ ان شاعروں کی تخلیقات اور تصویرات میں اس کا عکس واضح طور سے دیکھ سکتا ہے۔

خواجہ میر درجو اردو کے اہم صوفی شاعر تھے ۱۷^ء میں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان میں بہت دنوں سے سپری مریدی چلی آتی تھی۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر عندیب ایک مشہور صوفی اور شاعر تھے۔ درود تے بھی عنفوان شباب ہی سے ملک تصوف کو اپنایا اور علم کی دیوی کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا۔ وہ ٹرے عالم اور دین شخص تھے تصوف تو ان کا اور حنفی بچھونا تھا جس کے بارے میں انھوں نے فالی میں تکمیل کتابیں

لکھی تھیں اس کے علاوہ وہ فن موسیقی سے بھی بخوبی واقف تھے اور شاعری میں تو کامل شمار ہوتے ہی تھے۔ جب دلی کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ہمی اسے چپوڑ کر باہر جانے لگے اس وقت بھی درود نے اپنی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ ان کا ایک چھوٹا سا دیوان ملنا ہے جس میں اردو اور فارسی کی غزلیں ہیں۔ انہوں نے دلی میں ۸۷ء کے میں انتقال کیا اور وہیں دفن کیے گئے۔

درود کا زیادہ تر کلام غزل کی شکل میں ملتا ہے جس میں تصوف کے عمیق اصول صاف ستری اور آسان زبان میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا تخلص درود ہے تو ان کی شاعری میں ویسے ہی پُر درد اور پُر اثر جذبات بھی ملتے ہیں۔ ان کی زبان لوجدار، طامُ اور رواں ہے۔ دلی کی بول چال کی وہ زبان جو بہت آسان اور مشینی تھی، تمیر کے بعد درد ہمی کی شاعری میں ملتی ہے۔ اس وقت کے سمجھی شعرا اور مصنفوں نے درد کو اعلیٰ درجے کا شاعرana ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان کا احترام صرف ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک بڑے خدار پرست اور صوفی فیقر ہونے کی وجہ سے ہزاروں انسان ان سے وابستہ تھے۔ وہ بھی راجح دربار میں نہیں جاتے تھے پھر بھی دربار سے ان کی خانقاہ کی امداد ہوتی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی میر محمد آثر بھی شاعر تھے جو شاعری میں ان کے شاگرد تھے۔ اردو کے اچھے خادروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا دیوان بھی شائع ہو چکا ہے اور ایک مشنوی خواب و خیال، سہت مشہور ہے۔ ان کا اندراز شاعری میر درود سے ملتا جلتا ہے درد کے چھوٹے سے دیوان میں زیادہ تر غزلیں چھپوئی ہیں مگر وہ اتنی موثر ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ تلواروں کی آبداری نشرتوں میں بھروسے ہیں۔ ان کے کچھ شعر یہ ہیں:-

جگ میں اگر ادھر اودھر دیکھا	دہی آیا نظر جدھر دیکھا
جان سے ہو گئے بدن خالی	جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا
آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا	مالا فریاد، آہ اور زاری
اوں بیوں نے نہ کی میسا نی	ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا

تو بن کے گھر سے کل گھیا تھا اپنا بھی توجی نکل گھیا تھا

اب دل کو سنبھانा ہے مشکل اگلے دنوں کچھ سنبھل گھا تھا
میں سامنے سے جو مسکرا یا ہونٹ اوس کا بھی ذر دل گیا تھا

اہل زمانہ آگے بھی تھے اور زمانہ تھا
پر اب جو کچھ ہے یہ تو کسی نے نہ تھا

وہ دن کدھر گئے کہ ہمیں بھی فرانغ تھا
یعنی کبھو تو ہم میں بھی دل تھا داعنغ تھا
گزر اپوں جس خرابے میں کستے ہیں اور کئے لوگ
ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھائیہ باعث تھا

آخری تین شعروں میں دلی کی تباہی اور زندگی کے بے روح ہو جانے کی کتنی اچھی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اس سے ہماحول پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں ایک مشتی ہوئی تہذیب اپنا دکھ در دن ظاہر کرتی ہے اور مستقبل سے لاعلم ہونے کے بسب نا امید موجاتی ہے۔

کس وقت کے ایک اور عظیم شاعر مرا زا محمد رفیع سودا تھے۔ ان کی ولادت ۱۸۰۶ء میں ہوئی، والد ایک تاجر کی حیثیت سے ایران سے دلی آئے اور پھر یہیں کے ہو گئے۔ سودا افتادِ مزاج سے ہی ایک امیرانہ اور سنبھنے مہنانے والا دل، کھتے تھے دبارشاہی تک ان کی رسائی تھی بڑے بڑے اجر سے ان کے تعلقات تھے شاہ حاتم کے شاگرد ضرور تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ انھیں اپنے زمانے کے دوسرے اہل علم سے بھی فیضان ملا تھا جب احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حلوں سے دلی کی حالت خراب ہو گئی تو سودا بھی باہر نکلے۔ سب سے پہلے وہ فرغ آباد کے نواب مہربان خاں زند کے بیان گئے اور وہاں سے اودھ چلے گئے۔ تو ایخے میں ہے کہ شجاع الدولہ نے ان کو خط نکھ کے بلا یا تھا لیکن نہیں مجھے مگر جب آصف الدولہ نے اپنا پایہ تخت نکھنٹو بنا یا تو سودا بھی بھٹو چلے آئے، بیان انھوں نے بڑی مسلط زندگی بسر کی کیونکہ انھیں حکومت اودھ سے چھپنے کا روتے سالانہ ملتے تھے اسکے میں لکھنی بیس ان کا انتقال ہوا۔

سودا کے لکھنؤ آنے سے یہاں کی دنیا شاعری میں ایک نئی لہر دو گئی۔ آصف الولہ خود اردو کے اچھے شاعر تھے اس لیے یہاں پڑے بڑے شاعرے ہوتے رہتے تھے جن میں نواب اور امراء شریک ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف سے فن اور شاعری کے سوتے پھوٹ پڑے ہیں۔ شاعروں میں آپس میں چوئیں بھی چلتی تھیں اور اس طرح مقابلے کے بہب سے ادب کی ترقی ہو رہی تھی۔ سودا اکثر درباروں سے وابستہ رہے اس لیے ان کی شاعری میں قصیدے بہت ملتے ہیں۔ کچھ قصیدے تو انہوں نے ذہبی پیشواؤں اور ملادیوں کی مدد میں کئے ہیں اور کچھ بادشاہوں اور نوازوں کی تعریف میں۔ وہ اردو کے اہم ترین قصیدہ گو مانتے جاتے ہیں۔ فارسی میں قصیدہ گوئی کی جو راست تھی سودا نے اس کا پورا تیقی کیا اور ایک ایسی زبان میں جو ابھی بہت ترقی یافتہ نہیں کہی جاسکتی تھی اس میں بلند، لطیف اور نازک خیالات بڑی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ قصیدے کے علاوہ انہوں نے غزل، شنوی، رباعی، داسوخت مرثیہ اور جو سبھی طرح کی چیزیں تھیں ہیں۔ سودا کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ نثر میں بھی انہوں نے کچھ لکھا تھا مگر اب وہ نامیاب ہے۔

سودا کو خاص کر ایک قصیدہ گو سمجھا جاتا ہے اور ان کی زندگی ہی میں یہ بات مانی جانے لگی تھی کہ وہ جس پائے کے قصیدے کے کہتے ہیں وہی فرول نہیں کہہ پاتے، اس طرف انہوں نے خود اپنے کلام میں اشارہ بھی کیا ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب

ان کی خدمت میں لیے میں یغزل جاؤں گا

یہ بات آج بھی تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ اردو ادب کی پوری تاریخ میں سب سے بڑے قصیدہ گو تھے۔ ان کی غزلیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، جوان کی استادانہ غلطت کو سلم کر دیتی ہیں مگر ان میں وہ مزا اور جذبات کا وہ جوش نہیں ملتا جو اسی دور کے بعض دوسرے خرمل گویوں کے یہاں ملتا ہے۔ غزل میں بھی ان کی زبان قصیدے کی سخت اور فارسی آمیز زبان کے قریب رہتی ہے، اس لیے اس میں وہ نرمی اور رسادگی نہیں ملتی جو غزل کی جان ہے۔ قصیدے کے بعد انہیں سب سے زیادہ کامیابی ہے جو مختاری میں میسر ہوئی ہے جس طرح قصیدے میں ان کے قلم سے گلباری ہوتی تھی اسی طرح ہجوم کرتے

وقت وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بھالیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں بخلنے لگتی تھیں ان کی زیادہ تر ہجوس افراد سے تعلق رکھتی تھیں مگر کچھ ایسی بھی تھیں جن میں اس زمانے میں اخطاط اور سماجی حالت کا تذکرہ بڑے فن کار انداز میں کیا گیا ہے۔ ایسی نظموں سے صرف اُس عہد کی گری ہوئی حالت کی تصویری سامنے نہیں آتی بلکہ ایک پر درود جذبے کا ظہور بھی ہوتا ہے جو سانستی دور کے زوال پر ان لوگوں کے دل میں پیدا ہو رہا تھا جو اس سے وابستہ تھے۔ سواد کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ سبھی صفاتی سے کھینچا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مشہور نظیں اکثر طنزیہ ہیں جن میں سے ایک میں انہوں نے بہت ہی لاغر گھوڑے کو علامت بنائے اس عہد کی کمزوری کی مصتوڑی کی ہے۔ ایک دوسری نظم میں بادشاہ سے لے کر موام الناس تک میں جو برائیاں پیدا ہوئی تھیں، ان کی شدید تنقید کی گئی ہے۔ کہیں نہیں کی اوت میں آنسو ہیں اور کہیں طنز کے پردا میں زندگی کی شہزادوری کا تذکرہ۔ سواد اسکی یہے ایک عظیم شاعر کے جاتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی نظمیں باتھر لگایا ہے اس میں عظمت پیدا کر دی ہے۔ ان کا تذکرہ ناکمل رہے گا اگر ان کی مرشیہ بخاری کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے مرشیہ گوئی کو ایک مکمل ہوئی رسمی شاعری کے دائرے سے بکال کرنے بنادیا۔ یقیناً ان کی توجہ نے مرشیہ کو اداروں میں ایک اہم صنف سخن کا مرتبہ بختا اور وہ راہ ہوا رکر دی جس پر مرشیہ گوئی میرضیٰ تک پہنچی۔

سواد کے وقت تک اردو زبان و کن کے اثر سے دور ہو چکی تھی اور فارسی الفاظ کا استعمال بڑھ رہا تھا۔ قصیدے کی زبان ہمیشہ سخت ہوتی ہے اس لیے سواد بھی فارسی ہی نہیں مہدوستانی تخلیل اور مہندوستانی زندگی سے تعلق رکھنے والی تاریخی اور مذہبی چیزوں کو بھی کام میں لاتے تھے۔ آجنب، هرشن، اندر اور زادھا کے نام بھی ان کی نظموں میں آتے ہیں۔ فارسی اور ہندی الفاظ کا میل انہوں نے جس طرح کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ زبان میں کس طرح ترقی ہو رہی تھی۔ جو شخص سواد کی اردو فارسی تصنیفات کا گہرا مطالعہ کرے گا وہ اسے ضرور تسلیم کرے گا کہ وہ محض

ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک بڑے عالم بھی تھے، اسی وجہ سے ان کی شاعری کو پڑھنے سے زبان کے ساتھ ساتھ زندگی کی بہت سے سائل کی طرف بھی نکاہ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بعد اردو شاعری پر جو اثرات چھوڑے ہیں وہ بہت وسیع اور عمیق ہیں ۔
غزلوں کے چند شعر منوہ کے طور پر دیکھیے :

بومذکور اُس سے گرتا ہے کوئی غمنوار فتنے کا
تو کہتا ہے کچپ رہا ہے اسے آزار دنے کا
میں اپنے حال پر منہتا ہوں درد ہر گھر میں ظالم
محبت میں تری سامان کیا تیار رونے کا
کبھو میں بات بن روئے نہیں کی اس سے پرانے
نہ پوچھا یوں سبب کیا ہے ترے ہر بار فتنے کا

جب نظر ان کی آن پڑتی ہے زندگی تباہ دھیان پڑتی ہے
ایک کے منہ سے جس گھر میں بدلے پھر تو سوکی زبان پڑتی ہے
کبھو اس کے بھی کان پڑتی ہے لیکن اتنا کے کوئی مجھ سے

میں حال کبوں کس سے ترے عمد میں اپنا
روتے ہیں کہیں دل کو کہیں جی کی پڑی ہے

جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے
یہ یاد رہتے ہم کو بہت یاد کرو گے
اس دور کے ایک اوپر مشہور شاعر سوَز تھے، ان کا نام سید محمد میر تھا۔ پہلے تخلص
میر کھا تھا مگر جب میر کا نام سندھستان کے فلاک شاعری پر چھا گیا تو انہوں
نے اپنا تخلص میر سے بدل کر سوَز کر لیا۔ وہی میں معنوی زندگی بس کرتے تھے مگر جب وہاں
رسہنا دشوار ہو گیا تو فرخ آباد چلے گئے، دہل سے لکھنؤ ہوتے ہوئے مرشد آباد کی راہ
لی اور جب دہل بھی کامیابی میسر نہ ہوئی تو پھر لکھنؤ لوٹ آئے۔ اب کی بار نواب

اً صف الدولہ نے ان کو اپنا استاد مقرر کر لیا، مگر ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ^{۱۹۸}
 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سو ز شاعری کے علاوہ شہسواری اور تراندازی میں بھی کامل
 تھے۔ فن سیقی اچھی طرح جانتے تھے اور ستار بیجانے کا بھی کمال رکھتے تھے۔ ان کا
 دیوان مختصر ہے جس میں زیادہ تر غزلیں ہیں اُن کی زبان بہت سہل اور بول چال کے
 نزدیک ہے، اسی لیے اس میں بہت شہاس پائی جاتی ہے۔ غزل کے لیے جس طرح کے
 جذبات کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے اظہار کے لیے جسی آسان و لطیف زبان چائیے
 وہ دونوں چیزوں میں توز کے بیان ملتی ہیں۔ ان کے کچھ شعر دیکھئے!
 لے پھرزا میں کماں دل کو نہ لگا، لے گیا جاں دل کو

جب تک آنکھیں کھلیں تھیں دکھ پہ دکھ دیکھا کیے
 منڈنگیں جب آنکھ یاں تب توز سب آندھے

رات کو نیند ہے، مدن کو چین ایسے جینے سے اے خدا گزرا

کتاب نہ تھا میں اے دل، اس کام سے تو بازاً
 دیکھا مزانہ تو نے نادان عاشقی کا
 اس دور کے سب سے مشہور اور سب سے افضل شاعر میر قی تیرتھے۔ انہوں نے
 اپنے حالات زندگی آپ بیتی کی شکل میں فارسی میں لکھے ہیں جو ذکر میر کے نام سے مشہور
 ہے۔ اس کا ترجمہ اور دو کے علاوہ ہندی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس سے نہ صرف
 قیر کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں بلکہ اس وقت کے سماجی و سیاسی حالات
 کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اکبر آباد آگرہ میں تقریباً ۲۵۰۰ء میں پیدا ہوئے تھے۔ ان
 کے والد ایک صوفی فیقر تھے۔ بچپن سے ہی تیریدن رات صوفیوں اور عالمیں کے ساتھ
 اشتعتھ بیتھتے، ان کی باتیں سنتے اور مادہ زندگی لبر کرتے تھے۔ ابھی وہ صرف دس سو
 کے تھے کہ والد را ہی عدم ہوتے۔ میر نے اپنی آپ بیتی میں اپنے والد کا ذکر بڑے دکش
 اور جذباتی انداز میں کیا ہے۔ والد کے بعد سوتیلے بجا یوں نے ان کو اتنی بکھیف ہنچاں

کہ آئی حالت میں انھیں آگرہ چھوڑنا پڑا۔ دلی آگرہ اپنے سوتیلے اموں خان آرزو کے بیان شہرے، جیسا کہ سلے ذکر کیا جا چکا ہے خان آرزو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور کئی شرائے اُستاد تھے، اس لیے یہ بات ماننے میں تاکہ نہیں ہو سکتا کہ تیرنے بھی ان سے فیض اٹھایا ہو گا مگر اس بات کو تدقیقی طور سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تیر کی ان سے بننے نہ تھی۔ دلی پہنچ کر تیرنے بہت سے امیروں کے بیان طرز میں کیس۔ کہیں رہا کوں کو پڑھاتے تھے، کہیں مصاہب کرتے تھے۔ مگر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس میں آن کو چین ملا ہو۔ جیسی دکھ بھری حالت دلی کی تھی ویسی ہی زندگی تیر کی تھی۔ اگر کوئی آس نوال آمادہ سماج کو شاعرانہ روپ میں اس کی ساری پروردگاریوں کے ساتھ دیکھنا چاہے تو وہ اسے اس وقت کی تاریخ میں نہیں بلکہ تیر کے کلام میں صاف طور سے دکھائی پڑے گا۔ انہوں نے خود کہا ہے۔

بہتی ماں کی ہے ساری میرے دیوان میں

سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا

دلی کی حالت روز بروز گرتی جاتی تھی۔ بہت سے شعرا دوسرے شہروں کی طرف چل پڑے تھے۔ سو دا، سو ز اور کئی دوسرے شاعر لکھنوجا چکے تھے۔ تیر نے بھی جب دشواریاں بڑھتی دیکھیں تو لکھنوج کی راہ پکڑ دی اور ۱۸۷۸ء میں دہلی پہنچ گئے۔ نواب آصف الدولہ نے ان کا خیر تقدم کیا اور تین سور و پیہ ماہو اور نظیفہ مقفر کر دیا۔ میر اپنے افتاد مزاج سے بہت ناذک دل تھے، خودداری بہت تھی اور اپنی غربت و توقیر کی خفا کے لیے بڑی سے بڑی آفت برداشت کرنے کو مستعد رہتے تھے۔ مجتبی یہ ہوا کہ نواب سے آن کا نباه نہ ہو سکا اور انہوں نے دربار جانا چھوڑ دیا۔ پھر بھی آصف الدولہ نے آن کا نظیف جاری رکھا۔ ۱۸۷۹ء میں لکھنوجی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ دیوانوں کے علاوہ تیر کی اور بھی کئی کتابیں ملتی ہیں ہیں۔ ذکر میر، نکات لاثر، فیض میر (جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے کچھ صرف فقر اکی کہانی بیان کی ہے) فارسی نثر میں ہیں اور بڑی تاریخی اور ادبی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک فارسی مجموعہ کلام بھی ملتا ہے۔ تیر نے اپنی زندگی تکلیف اور بدحالی میں گرداری تھی اس لیے انھیں اجرہ بھی ہوئی اُن کی علامت کہنا فلسط نہ ہو گا۔ صوفی ملش باپ نے انھیں سکھایا تھا کہ دنیا میں مجسے کے

علاوہ کچھ نہیں، یہی زندگی ہے اور اس کے لوازم قناعت، بردباری، خودداری اور غم تو شہ ہیں۔ یہ باتیں ان کے اندر رس بس گئی تھیں اور انھیں نے ان کی شاعری میں زندگی کی آگ پیدا کر دی تھی۔ جب مصائب نے انھیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور بدحالی آخری حد کو چھوٹے گلی تو تیرن صیحت میں ایک حیرت انگیر قسم کا بالکپن او حسن پیدا ہو گیا۔ انھوں نے کسی کے سامنے با تھہ پھیلانے کو اسانی تو ہیں سے تعبیر کیا اور خدا سے بھی ناز سے پیش آئے۔ اس ذہن کے ساتھ نگاہِ محبت کا ذخم بھی نگاہ جس نے شاعری کو آتش نوازی میں تبدیل کر دیا اور آپ بیتی سبی نوع انسان کے دکھ درد کی ترجمانی کرنے لگی۔

تمیر نے ایک ایسے عالم کی اپنے دل میں تخلیق کی تھی جس میں زندگی کی ساری رعنائیاں ان کے لیے معدوم ہو چکی تھیں۔ ان کے چین میں اگر بھول کھلتے تھے تو اس لیے کہ مر جا بائیں یہی دنیا ان کے باہر بھی تھی۔ یکونکہ مغل سلطنت اس طرح سے تباہ ہو رہی تھی کہ اب اس کے سنبھلنے کی امید نہیں کی جاسکتی تھی تمیر کی شاعری میں اس زندگی کی دلدوڑ اور دلچسپ تصوریاں ملتی ہیں۔ کہیں کہیں تو اس وقت کے واقعات کی طرف صاف اشارے بھی دکھانی پڑتے ہیں مگر زیادہ تر اس ماحول کی عکاسی کی گئی ہے جو سماجی اخطاٹ کے نتیجے میں پیدا ہو رہا تھا۔ تمیر آج تک غزل کے رب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کے شعر تیر کی طرح دل میں اُتر جاتے ہیں۔ سیدھی سادی بول چال کی زبان میں اتنا مزا اور اتنی مشہاں اتنا زبردرا تلقنی دلی جذبات کی اتنی نازک مصوری اور جذبات کا اتنا طوفانی جوش تخلیق شعر کا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے پڑا شمرتی بھی کہے ہیں مگر ان میں غزوں کی المناک فضنا نہیں ہے۔ اسی طرح انھوں نے شویاں بھی لکھی ہیں جن میں ان کا میuar محبت واضح ہوا ہے۔ مگر بادشاہ وہ غزل ہی کے ہیں کچھ نہ نوئے پیش کیے جاتے ہیں:

ہستی اپنی حباب کی سی ہے	یہ نمایش سراب کی سی ہے
ناز کی اس کے لب کی سیا کینے	پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے
بار بار اس کے درپہ جا تاہوں	حالت اک اضطراب کی سی ہے
میراں نیم باز آنکھوں میں	ساری مستی شراب کی سی ہے

دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے
پختا دُگے سنو ہوا یہ سنت اجڑ کے

تمیر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو
قصہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا

فقیر ام آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے
جو تم بن نہ جینے کی کہتے تھے ہم سو اس عمد کو اب وفا کر چلے

ذمل میر، اب کے امیروں سے تو ہوئے ہیں فقیر اُن کی دولت ہم

کچھ نہ دیکھا پھر بجزیک شعلہ پُر پیچ قتاب
شمع تک ہم نے تو دیکھا تھا کہ پرداز گیا

ابتدائے عشق ہے ردما ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا

ترے فراق میں جیسے خیال مفاس کا
محیٰ ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری

قامتِ خمیدہ، رنگِ شکستہ، بدنبزار
تیرا تو تمیر غم میں عجب حال ہو گیا

کیا ان اشعار میں تمیر کے دل کا حال دتی کے درد و کرب سے ہم آہنگ نہیں معلوم ہوتا؛
اس موقع پر ایک اور بات کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اُردو زبان
اور ادب کی تشكیل و ترقی میں سمجھی مذاہب اور طبقات کے لوگوں نے حصہ لیا، اس کا مطلب
یہ ہے کہ جب تک سیاست نے ثقافت اور زبان پسند ہب کی چھاپ نہیں لگائی تھی اُن تھوڑے

تک ہندو اور مسلمان دونوں اردو میں لکھتے تھے اور اس میں انھیں کوئی تائل نہیں ہوتا تھا۔ دونوں کا احترام ہوتا تھا اور دونوں شاعروں میں ساتھ ساتھ شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ جس دور کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں آئندہ رام مخلص، نیک چند بہار، بند رابن راقم، بھکاری لال عزیز، متاب رائے تاباں، بالکل حضور، بغل سین انصف یا بالکل کوئی مل وارستہ، بند رابن لال خوشگو، خوب چند توکا، رائے سرب سکھ دیوانہ وغیرہ جو فارسی کے بہت بڑے فاضلوں میں شمار ہوتے تھے، کبھی کبھی اردو میں بھی لکھتے تھے اور اپنے فن میں کامل مانے جاتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن کی نظریں بے اقتدار فن عدہ ہونے کے ساتھ ہی بے اقتدار لغت بہت اہم ہیں۔ ان میں سے مخلص، بہار، خوشگوار دارستہ ایرانی علماء کی برابری کرتے تھے۔ سرب سکھ دیوانہ زیادہ تر پسند میں رہے، وہ فارسی اور اردو دونوں کے بڑے شاعر تھے۔ ان کے ایک اردو اور چار فارسی دواوین کا پتہ ہلتا ہے۔ اردو شاعروں میں دو مشہور شاعر میر حیدر علی حیران اور حبیف علی حسرت ان کے شاگرد تھے۔ یہ حسرت وہی ہیں جنہوں نے غزل میں نیازنگ پیدا کیا اور جسے ان کے مشهور شاگرد حجرات نے لکھنؤ پوچھ کر خوب پہکایا۔ اس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ انہاروں صدری کے آخر اور انہیوں صدی کی ابتداء میں پسند، او وح اور حیدر آباد میں بھی ایسے ہی علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے فارسی کے علاوہ اردو میں بھی نظریں لکھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا آرہا ہے۔ اس باب میں صرف دل کے اشعار ہوں یہ صدی کے شاعروں کے نام یہ گئے ہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں زیادہ جانتا چاہے تو اس وقت کی تالیخوں، شعری مجموعوں اور تذکروں میں بہت کچھ ملے گا۔ قدیم شعرا میں حیر، مصفف، قائم، شفیق اور میر حسن نے اپنے اپنے تذکروں میں ان کے نام بڑی عزت سے لیے ہیں۔

اردو شاعری کا یہ دور صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ اس نے درد، سودا اور میر کو پیدا کیا، بلکہ اس دو میں اردو ادب کی جگہ بیس پوری طرح زندگی میں چھیلیں اور عظیم شاعروں نے اس مشتعل ہوئی ثقافت کی تصویر کشی کر کے تاریخی اہمیت کا کام انجام دیا۔ اگرچہ یہ شعر انداں آمادہ دور کی تلفی اور قزوطیت کی علامت تھے مگر نوع بشر کے افتخار و اعزاز کا پتہ بھی ان کے کلام سے چلتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ہار جانے کے بعد

بھی وہ زندگی کی ستائش اور حسن کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ انہار حوسی صدی پہنچوستان کی تاریخ میں عجیب و غریب مسئلہ نہیں۔ مگر شیعر اجنب کا ذکر ہوا ان سے واقف نہ تھے، انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سماںتی ثقافت اپنے دن پورے کر جی ہے اور اسی کی کوکم سے ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ تہذیبوں کے میل جوں سے جو زندگی وجود میں آئی تھی وہ مت رہی تھی مگر اس کی مشقی ہوئی بیار میں ایک طرح کا حسن تھا، بیار جسم کا حسن جو کبھی کبھی بڑا جاذب ہوتا ہے۔ یہی باتیں تمیر اور درد کے کلام کے لیے کہی جاسکتی ہیں۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ شرعاً پہنچوستان میں پیدا ہوئے تھے اور یہی سبب ہے کہ وہ اپنی شاعری میں ملک کے داخلی و خارجی مسائل سے دور نہیں رہتے تھے۔ ہولی، دیوالی، پنگھٹ اشنان، مالن، ہوجون وغیرہ پران کی نظیں ملتی ہیں، سماںی اقتصادی اور سیاسی پس منظر ملتی ہے۔ مگر وہ سماجی شعور نہیں ہے جو انھیں بہتر راستہ دکھا سکتا۔ وہ لوگ منکر خدا نہیں تھے مگر ان کی آزادی خیال ان کو تنگ نظری و فرقہ پرستی کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ ان کا زندہ کامفہوم تھا باطنی پاکیزگی اور انسانی محبت جو تصوف اور اخلاق کے مطالعہ سے انھیں ہاتھ لگا تھا۔ خلاصہ یہ کہ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس زندگی کی سب اچھائیوں اور برائیوں کی تصویر کشی کرتے ہیں جسے انہوں نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کا تجربہ بھی کیا تھا۔

چونجاپا

اردو نشر کی ابتداء اور تکمیل

اُردو زبان اور شاعری کے ابتدائی نقوش کا مطالعہ کر لینے کے بعد یہ اندازہ لگا نا دشوار نہ ہو گما کہ دنیا کی اکثر زبانوں کی طرح اُردو میں بھی نشر کا آغاز اور نشری ادب کا ارتقا شاعری کے مقلوبے میں تا خیر سے ہوا۔ جہاں تک مندوستان کا تعلق ہے اس کے اسباب ہیں سماجی تعطل، معاشری حالات میں جبود کی کیفیت، بنی بنائی را ہوں پر چلتے رہنے میں؛ ہمیں عافیت اور حیالات کے لیے دن کے ذرائع کی کمی۔ فکر و خیال کی سطح پر دو قدمیں جو ٹھہراؤ تھا اس میں نشر کا ارتقا مشکل تھا پھر بھی اُردو کے ابتدائی دور تکمیل میں سے صوفیوں سے جو سمارا ملا اس نے نشر نگاری کی داغ بیل ڈال دی۔ اگرچہ دھمی اُردو کی تخلیقات میں بھی شعری ادب ہی کو برتری حاصل رہی مگر نشر کا خاکہ بھی بتارہ جس کا ذکر گر بستہ اوراق میں آچکا ہے۔ اب اسے کسی قدر تفصیل سے پشی کیا جاتا ہے۔

دھمی ادب میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دفاتر ^{۱۹۲۳ء} کی کئی نشری تصانیف کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں خصوصیت سے معراج العاشقین، شکا زنامہ اور تلاوۃ الوجود کو انھیں کی نشری تخلیق قرار دیا جاتا ہے۔ گذشتہ صفات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ان کا وجود تو ہے لیکن ان کا انتساب گیسو دراز سے شکوک ہے۔ ان کا مطالعہ ادبی تصنیف کی حیثیت سے کرنے کے بجائے اس وقت کی مبتنی ہوئی اُردو زبان

اور منہدہ مسلم طرز فکر کے امتزاج کی حیثیت سے کرنا چاہیے۔ ان کے لئے یا مرتب کرنے کی تحریر ادبی نہیں تھی بلکہ اپنے نہ بھی اور صوفیانہ نیز الات کو اپنے پیروؤں تک پہونچانے کی خواہش سے پیدا ہوئی تھی۔ یہی بات پند رحمویں اور سولھویں صدی کے اکثر صوفی از فلم کے بارے میں کہی جاسکتی ہے جن عالموں اور مورخوں نے اس عہد کے ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان تخلیقات کو اس زمانے کی قرار دینے میں دشواریاں ہیں کیوں کہ ان کے قلمی مسودے بعد کے ہیں، ان کے کاتبوں نے وقتاً فوقتاً لفظوں اور آن کے تلفظ میں تبدیلیاں کر دی ہیں معياری رسم خط نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی تصنیف کی مختلف نقلوں میں فرق پایا جاتا ہے، نقل کرنے والوں نے اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق ان میں کات چھانٹ بھی کی ہے، غرض کہا رے پاس اس کے تیقینی ثبوت نہیں کی مرجع القاع کو گیسو دراز ہی کی تصنیف فراہ دیا جائے گیسو دراز کا مشہور نام محمد حسینی بھی دشواری پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نام کے اور بزرگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تاہم ابھی تک عام طور سے معراج العاشقین اور شکار نامہ گیسو دراز ہی کی تصنیف تسلیم کی جاتی ہے۔ ان دونوں رسالوں کی زبان قدرے مشکل اور صوفیانہ پُر رمز افکار سے بھرے ہوئے خیالات کی وجہ سے چھپی ہے۔ ان میں ہندی صوفیانہ خیالات کی آمینہ شریں بھی ہے اور اس وقت کے مہاراشرٹی بھگتوں اور سنتوں کے خیالوں سے محاٹلت بھی نظر آتی ہے۔ معراج العاشقین کے جو نسخے ملتے ہیں اُن میں خاص اختلاف ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سولھویں صدی میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔

بعض شہادتوں کے مطابق گیسو دراز کے بیٹے اکبر حسینی نے بھی اردو میں تعزوف سے متعلق کچھ رسائل تصنیف کیے لیکن یہ بات بھی تیقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی۔ جو بات تیقینی ہے وہ یہ کہ اسی طرز فکر کے حامل ایک صوفی سلسے میں کئی عملانے نظر ذہن کی متعدد کتابیں اپنی یادگار جھپوڑی ہیں۔ یہ ہیں میران جی شمس العشق، ان کے فرزند برہان المدین جانم اور جانم کے بیٹے ایمن الدین اعلیٰ۔ ان بزرگوں نے دکنی نظم و شریں جو ابھم کا ہے کیے وہ نہ صرف اپنے فلسفیات خیالات کی بناء پر بلکہ ادبی اعتبار سے بھی تاریخ ادب میں جگہ پانے کے لائق ہیں۔ سچھلے صفات میں ان کی شاعری کا تذکرہ آچکھا ہے، یہاں مختصرًا ان کی نثری تصنیف کا تعارف مقصود ہے۔

میران حبی شمس العثاق مکہ مغفلہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً چوتھیس سال عرب و حجاز میں گذار کر ہندوستان آئے اور بیجا پور کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا۔ یہی ان کی زندگی اور کالات کا مرکز تھا اور بہیں سے انھوں نے اپنا تسلیفی کام پھیلایا۔ اپنے پرو مرشد کمال بیابانی کے حکم سے انھوں نے اپنے صوفیا نہ خیالات عامہ ہندوستانی بول چال میں پیش کئے۔ نظر میں ان سے کئی رسائل نسب ہیں لیکن اہمیت شرح مرغوب القلوب کو حاصل ہے۔ شمس العثاق نے اپنی زبان کو مہندی کیا ہے اور اسی میں عربی سے ترجیب کیا ہے۔

ان کے صاحبزادے برہان الدین جامن نے باپ کے کام کو آگے ٹھڑھایا اور ارادت کے حلقة کو بہت وسیع کر دیا۔ اپنی طویل عمر میں انھوں نے ارشاد و ہدایت کے سلسلے میں نظم و نثر کو ذریعہ اپنے کے طور پر استعمال کیا۔ نظر میں کلمۃ الحقائق، ہشت مسائل اور زانی اہم ہیں۔ انھوں نے اپنی زبان کو کمیں گو جری اور کمیں مہندی کیا ہے۔ اس وقت تک کلمۃ الحقائق ہی شائع ہوئی ہے۔ اس کے مطالب بہت کچھ معراج العاشقین سے متأثر رکھتے ہیں۔ اس میں بھی ہندوستانی صوفیا نہ خیالات کی آمیزش ہے۔

اس روایت کو ان کے بنیے اور خلیفہ امین الدین اعلیٰ نے اور وسیع کیا جامن اور اعلیٰ کے شاگردوں نے جنوبی ہند میں خانقاہیں قائم کر کے اور عام بول چال کی زبان میں اظہار خیال کر کے صوفیا نہ خیالات کی اشاعت بڑے پیمانے پر کی۔ امین الدین اعلیٰ اپنے باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے اور ان کے شاگردوں اور مریدوں کے درمیان پروان چڑھے۔ ان کی مشہور تصنیف گنج مخفی ہے جس میں کلمۃ الحقائق کے خیالات کی بازگشت ہے۔ انھوں نے بھی اپنی زبان کو دکھنی اور مہندی کیا ہے۔ نظم و نثر دونوں میں ان کی زبان اپنے بزرگوں کے مقابلے میں زیادہ رواں اور صاف ہے اور ایسا ہونا فطری بھی تھا۔ ان کے شاگردوں میں میران حبی خدامنا، محمد قادری نور دریا، میران حبیبی۔ شاہ مظہم بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے نظم و نثر کی کتابیں نسب ہیں جو جنوبی ہند کے مختلف کتابخانوں میں پائی جاتی ہیں۔

یہ تھا نیف ادبی نقطہ نظر سے اہم نہیں ہیں لیکن ان کی اہمیت تہذیبی تاریخ میں بہت ہے۔ ادب اور تہذیب کا کوئی مورخ ان کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا

کیونکہ انھیں کی بنیادوں پر بعد کی عمارت کھڑی ہوئی۔ جنوبی ہند میں اور دو زبان کو فرنگ تو حاصل ہوا، اتنا لیکن ستر ہویں صدی کو اس کا عمدہ زریں کہہ سکتے ہیں۔ ملا وجہی جن کا دو کر شاعر کی حیثیت سے کہنی ادب کی تاریخ میں ہو چکا ہے نظر بخاری میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے جو لالہ میں انہوں نے اپنی زندہ جاوید تصنیف سب رس مکمل کی۔ عظیم کتاب ایک فارسی تصنیف پر بنی ہوتے ہوئے بھی بالکل نئی اور تخلیقی چیز کہی جاسکتی ہے کیونکہ وجہی نے چمپیرہ اور ہمیشہ فلسفیات مسائل کو اس نو خیز زبان میں اس ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس میں تخلیقی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا اسلوب متفقی ہونے کے باوجود سادہ اور پُر کار ہے۔ اعلیٰ پاپے کی تیشیلی تصانیف کی طرح اس میں بھی حسن اور عشق، عقل اور دل، قلب اور نظر کو علامتی باباں پنکر زندگی کے بہت سے اخلاقی مسائل پر اسرار داستان کی شکل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ بظاہر یہ ایک صوفیاتی تصنیف ہے جس میں اس وقت کے عام مسائل اخلاق بیان کیے گئے ہیں لیکن اس کا مطالعہ سافی اور ادبی نقطہ نظر سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ کسی زادویہ نگاہ سے دیکھا جائے یہ اور دو کی اول درجہ کی تخلیق قرار دی جائے گی۔ وجہی نے کہیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ دہ فارسی کی ایک کتاب کو اگر دو کے قالب میں ڈھال رہا ہے بلکہ اس کے برعکس لکھتا ہے، "آج ٹکن کوئی اس جہاں میں، ہندوستان میں، ہندی زبان میں، اس لفظ"

اس چند داں سوں، نظم ہو زیر ملاکر، ٹھلاکر یوں نین بولیا۔ اس بات کوں اس
نبات کوں یوں کوئی آب چیات میں نیں گھویا، یوں غیب کا علم نیں کھویا؟

یہ وجہی کی تخلیقی تصنیف نہ ہے، اس کا یہ دعویٰ غلط نہیں کہ اس سے چلے اردو یا ہندی نثر میں کوئی کتاب اس پاپے کی نہیں لکھی گئی تھی اس کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نہ صرف مواد کے اعتبار سے بلکہ خیالات، اسلوب اور ادبی فن کاری کے لحاظ سے بھی یہ انوکھی اور غیر معمولی تخلیق ہے۔ اس پر اسرار اور رمز یہ داستان کے ہانے بننے میں بہت سے اخلاقی اور فلسفیاتی تصورات پوشیدہ ہیں۔ ان کے پچھے محبت اور اخلاق، جنگ اور امن، تیم اور دو ایج کی وہی روایتیں ہیں جو از منہ و سطی کے ایشیا اور ہندوستان میں رانج تھیں۔

درکن میں اردو ادب کی ترقی میں بواتیں مددگار ہوئیں، ان کا ذکر دوسرے باب

یہ کیا جا چکا ہے۔ مگر وہ نظر کی ترقی کا زمانہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے شعری تخلیقات کے مقابلے میں نظری تصنیفات بہت کم ہیں۔ اچھی نظر کی ترقی دنیا کے ہر ایک ادب میں اس وقت ہوتی ہے جب زندگی ترقی کی راہ طے کر لیتی ہے اگرچہ وجہی کے بعد بھی اس وقت تک دکن ہیں نظر میں تصنیفات کی جاتی رہیں جب تک اور نگز زیب نے ۱۸۷۴ء میں جنو بی سینڈ کو اپنے حد و سلطنت میں ملا ہیں۔ اس درمیان میں بیش تر مذہبی کتابیں لکھی گئیں کیونکہ مذہب اس زندگی کا بڑا جزو ہوتا ہے جسے سائنسی اور صنعتی ترقی کے محققے میسر ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ نگر کے طاقتوں میں دراج کے سامنے اپنے انتشار اور اہمیت کے ثبوت کے خیال سے اپنے کو مضبوط بنانے کے لیے مذہب کا سہارا لینا ضروری معلوم ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے موضوعات پر کتابیں لکھے، نہیں بلکہ مذہبیں۔ پنج تنہر اور تہو پدشیں کی مشہور کتابیوں کو دکھنی اور دو میں طوطی نامہ کے نام سے منتقل کیا گیا یہ کتابیاں فارسی ترجیحوں پر مبنی تھیں۔ ان کی زبان بھی سب ترس کی طرح دکھنی اور ہے لیکن اتنی ادبی نہیں۔

اٹھارہویں صدی میں جب ملک کا بڑا احتقانہ ایک باہکھڑکنے مکڑے میں ہو گیا، تو دکن میں ارکاث، ہمیسور اور حیدر آباد کی ریاستیں قائم ہوئیں اور دکھنی اور دو کی پرانی روایات کی وجہ سے ارکاث، مدراس اور ہمیسور میں بھی اردو بھیلی۔ یہی نہیں بلکہ مراثنی زبان پر اردو کی ہی معرفت فارسی کا اثر ٹرا جو اس وقت تک باقی ہے۔ یہی وقت تھا کہ اردو اور بکھڑکنے میں شہادت میں پھیل رہی تھیں۔ گریٹر شہزادہ ابوبکر میں اس کی توسعہ و ترقی کا بیان کیا چکا ہے۔ یہاں چند نظری کارناموں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

سائیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دلوں سے رائج تھی اور آپ کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاویں، ایسے بخاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں اس کا سب سے اچھا نمونہ میر جعفر زمی کی نظلوں اور نظر کے چھوٹے چھوٹے مکڑوں میں ملتا ہے۔ ذمی محض مزاح و تفریغ پر مشتمل چیزیں ہی نہیں کہو رہے تھے بلکہ فخش جذبات کے اظہار میں بھی مختلف نہیں کرتے تھے اور نذر موکر کسی کی مدح کرتے تھے کسی کی مذمت۔ زمی اور نگز زیب اور بہادر شاہ

اول کے عہد کے شاعر ہیں۔ فارسی اور بول چال کی ملی جانی میں وہ اپنی نظم و نثر لکھتے تھے۔ ان کی تصنیفوں کے عین مطالعہ سے اس عہد کی پست حالی کا پتہ لگا یا جاسکتا ہے۔ زبان کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ان کی تحریروں کا مطالعہ بہت ہی مفید ہو گا۔ زبان کی تخلیق اکٹھا جاتا ہے اور ادب کے تاریخ نگاری کی اہمیت نہیں دیتے۔

اگر دو ادب کی مردوج تاریخوں میں اردو نشر کی انتدابی محدثا ہی عہد (۱۹۸۸ء) سے مانی جاتی ہے اور سب سے پہلی کتاب فضلی کی کربل کتھا قرار دی گئی ہے فضلی کا نام فضل علی تھا، انہوں نے اپنی کتاب ۱۹۳۴ء میں درج کی پھر خود ہی ۱۹۳۶ء میں اس میں ترمیم کی۔ ملا حسین واعظ کاشفی کی مشہور فارسی کتاب روضۃ الشہداء محرم کی مجلسوں میں بہت پڑھی جاتی تھی، مگر فارسی میں ہونے کے باعث بہت سے لوگوں خاص کر عورتوں کی سنبھوگ میں نہیں آتی تھی، اس لیے فضلی نے اسے اردو میں منتقل کر لیا۔ اس میں کربلا کے پردہ ایسے اور امام حسین کی شہادت کا بیان تاریخی اور مندرجہ اعتبار سے کیا گیا ہے فضلی اس وقت تک اردو کی کسی نظری تصنیف سے آگاہ نہ تھے، وہ اپنی تالیف کو پہلی تخلیق سمجھتے ہیں کبھی علماء نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ فضلی بھی جزوی بہادر کے رہنے والے تھے۔ کیونکہ ایک آدھ محا درے اُن کے بیان بھی وہی ملتے ہیں جو دکھنی اردو میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اسے کوئی قطعیت نہیں ثبوت نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا اسلوب دکھنی اہل فتنہ کے اسلوب سے مختلف ہے۔ اگر وہ دکھن کے باشندے ہوتے تو انہیں دہل کی تصنیفوں اور ترجموں کا علم ضرور ہوتا۔ فضلی کی زبان میں فارسی عربی کے لفظ بہت آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مندرجہ کتاب میں اُن الفاظ کا استعمال ناگزیر تھا جن کو اس کے قاری جانتے رہے ہوں گے۔ اس بارے میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ شامی ہند میں جو اردو پھیل رہی تھی۔ وہ دلی سے قریب ہونے اور فارسی زبان ادب سے تاثر ہونے کے باعث آسانی سے فارسی عربی الفاظ کو قبول کر لیتی تھی، کیونکہ سکندر لودی اور ٹوڈر مل کے حکم کے بوجب سرکاری اہلکاروں کا فارسی جاتا ضروری تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا اثر بول چال کی زبان پر بھی پڑا ہو گا۔ کربل کتھا، جرمی کے ایک کتب خانے میں مل گئی اور اب بہت تحقیقاتے حواشی کے

ساتھ اسے شائع بھی کر دیا گیلے ہے۔

شاہی اور جاگیر داری زندگی میں شاعری کو جواہیریت حاصل ہوتی ہے وہ نثر کو نہیں ہوتی، پھر و قصہ بھی وہ تھا، جوز دال کی سمت پیش قدمی کر رہا تھا۔ اعتدال سپردا خیالات کا دور تمام ہو چکا تھا اور اگر کوئی کبھی کسی سخنیدہ موضوع پر کچھ لکھنا بھی چاہتا تھا تو فارسی میں لکھتا تھا۔ پھر بھی اردو عام زندگی میں اپنی جگہ بناتی اور ضروریات کے انہمار میں اپنا کام کرتی رہی۔ مز اسودا نے جب اپنے مریشوں کا مجموعہ مرتب کیا تو اس پر اردو میں ایک دیباچہ لکھا۔ ان کی نشر کا یہ نونہ ان کے کلیات کے ساتھ بارہ شائع ہو چکا ہے۔ اس میں فارسی عربی کے لفظ بہت میں اور فارسی نثر کے قسم میں اس کی نثر بھی متلفہ ہے۔ مز اسودا نے میر قیمر کی مشہور شنزوی شعایر عشق کو بھی نثر میں منتقل کیا، مگر اس کا مسودہ بھی دستیاب نہیں اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کہانی لکھنے وقت مز اس طرح کی نظر تخلیق کر رہے تھے۔

الْحَارِدِي صدی کے خاتمے سے کچھ سال پہلے دلی میں قرآن شریف کے دو ترجیح ہوئے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دلی کے بہت مشہور عالم شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے۔ اور اپنے والد کی طرح تبلیغ مذہب میں مشغول تھے۔ شاہ رفیع الدین نے قرآن کا ترجمہ ۱۷۸۶ء میں اور شاہ عبد القادر نے ۱۷۹۴ء میں کیا۔ ان تراجم کا مقصد اس کے سدا اور کچھ نہ تھا کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بھی کلام پاک کو سمجھو کے پڑھ سکیں۔ دونوں ترجموں کی دیبان میں فرق ہے لیکن دونوں میں ترجمہ ہونے سے روایتی کی کمی ہے۔ یہ ابتدائی مسامی تھیں اور ان کی اہمیت ادبی سے زیادہ تاریخی ہے۔ بعد میں قرآن شریف کے بہت سے اچھے اچھے ترجمے اردو میں ہوئے، جن کو ادبی جیشیت سے بھی بلند مقام دیا جاتا ہے۔

سولھویں سترھویں صدی میں اردو سارے بندروستان میں ہیں چکی تھی اور اب جو قدیم ادبی تخلیقات کی تلاش کی جا رہی ہے متعدد صوبوں میں اس کے بے مثال نشانات ملنے لگے ہیں۔ صوبہ بہار اس میں یقیناً نہیں ہے، وہاں کبھی نظم اور نثر کی تخلیقات تحریک صدی سے ملنے لگی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی تخلیقات زیادہ تر نہیں اور صوفیاء میں۔ مگر شاہ عالم پلوا اردو کی نثری تھیں سید ہارستہ (۱۷۷۴ء) نظہور کے رسائل نما۔

اور محمد اسحاق کے رسائلہ معینہ کو ضرور اہمیت دینا چاہیے اکیونکہ ان سے بہار میں اردو زبان کی ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں کے شرانے بھی جن میں مہندو اور مسلمان دونوں ہیں، مشریعہ اور فریل کی بہترین تخلیقات حضوری ہیں۔ ان میں شاہ آیت اللہ جو ہری رفاقت شمسہ علی رفاقت شمسہ (پشاں) اور غلام علی رائخ رفاقت شمسہ (پتھری) کام بھی ہو چکے ہیں اور انھیں اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام دیا جا چکا ہے۔

شمالی ہند میں یہ دور بے انتہا تخلیقی نظر آتا ہے۔ نہایتی تخلیقات کے علاوہ صلوٰہ میں ایک فارسی داستان قصہ چار در دش کا ترجمہ میرحسین عطا تختین نے کیا، جسے اُس دو کی بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام نو طرزِ مرصع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصل کتاب کے مصنف امیر خسرو تھے مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ جن عالموں نے امیر خسرو کی تصنیفات کا تحقیق مطالعہ کیا ہے، انھوں نے اس نام کی کوئی کتاب امیر خسرو سے منسوب نہیں کی ہے جیقیت میں اس کے مصنف محظ موصوم تھے جنھوں نے لے ہنڈتا نی فارسی میں لکھا تھا۔ تختین اٹا وہ کے رہنے والے تھے۔ ایک انگریز فوجی افسر کے میراثی تھے، اس کے ساتھ ملکتہ اور مختلف مقامات پر رہے، جب وہ اپنے ملک واپس لیا تو تختین پہنچنے ہوتے ہوئے فیض آباد ہو چکے اور وہاں نواب شجاع الدولہ کے دربار سے ان کا تعلق ہو گیا۔ فیض آباد میں ادبی چل میں شروع ہو چکی تھی اس لیے دہلی اور مختلف مقامات کے ادیب و مال جمع ہو رہے تھے تختین کو فارسی کا اچھا علم تھا اور فارسی میں بھی کئی کتابیں لکھ چکے تھے مگر وہ اردو ادب کی تاریخ میں اپنے اس ترجمے کی بدولت زندہ ہیں جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ نو طرزِ مرصع کا اسلوب بقیٰ رنگین اور مشکل ہے، فارسی عربی الفاظ سے پر ہونے کے علاوہ صنایع کا اتنا استعمال کیا ہے کہ عام بول چال کی زبان کا جانے والا اسے سمجھ نہیں سکتا۔ کہیں کہیں تو جملے کے جملے فارسی میں بعض افعال کی مشکل ہیں آنے والے الفاظ کا ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ پوری کتاب تو نہیں مگر اسکی بیشتر حصہ اسی ہاؤں میں لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب کئی بار شائع ہو چکی ہے اور اردو کے داستانی ادب میں اہمیت رکھتی ہے اس وقت تک شمالی ہند میں دلی اور اودھ اردو کے دو مرکز بن چکے تھے اور ان مقامات پر شاعری کے ساتھ ساتھ نشر پر بھی توجہ کی جا رہی تھی۔ اردو کے کئی لغت بھی لکھے گئے، جن سے زبان کے ارتقا کا پتہ چلتا ہے۔ اس بارے میں یورپیکے جن علمانے کام کیا، وہ

بھی اہم ہے، مگر اس کا ذکر نہ کر کر ترقی سے متعلق ایک دوسرے باب میں ہو گا۔ یہاں کچھ دوسری تخلیقات کا تذکرہ مناسب ہو گا جو نثر کے ارتقا کی کردی کبھی جاسکتی ہیں۔ ادبیات آدوار حیدر آباد کے کتب خالوں میں ایک کتاب ہے جس میں تمور کی مہند وستان پر حڑھانی سے لے کر شکار تک کے تاریخی و قائم کا تذکرہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے پہلے کسی فارسی تاریخ کا ترجمہ کیا اور پھر اپنی طرف سے انگریزوں اور حیدر علی کی جنگ میسور کی کہانی اس میں جوڑ دی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کتاب بیان دز نامہ ملتی ہے جس میں شر بھاٹپم کی تاریخ ٹیپو سلطان کی جنگ تک بیان کی گئی ہے۔ اس کا عہد تصنیف ۱۸۹۸ء ہے۔ اس کے مصنف کا نام بھی مسودے میں نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ بھی تھس فارسی تصنیف کا ترجمہ ہے۔

اس باب کو ویلور کے ایک اہم فارسی اردو اہل فلم اور اہل شاعر محمد باقر آجہا کے تذکرے پر تمام کریما مناسب ہو گا جن کا انتقال ۱۸۰۵ء میں ہوا۔ ان کی تصنیفات تیس سے زائد ہیں جن میں کم سے کم پندرہ اردو زبان میں ہیں۔ ان میں زیادہ تن نظریں ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض کے دیباچے اور دو نثر میں لکھے گئے ہیں۔ صرف ایک مکمل کتاب ریاض اسیر اردو میں ہے۔ ان کا اسلوب نثر سادہ ہے۔ علمی حیثیت سے ان کی تصنیف اہم ہیں کیونکہ ان کی معلومات اور خیالات کی وجہ سے اس وقت کی ادبی زندگی پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔

تقریباً سارے تین سو برس کی نثر کی یہ کہانی اس کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ نظر کے مقابلے میں نثری ادب بہت کم ہے اور جو کچھ ہے اس میں بھی زیادہ تر مذہبی، اخلاقی اور صوفیانہ حالات پائے جاتے ہیں۔ تقیدی نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی ان صد لوں کے سماجی و ثقافتی شعور کے سمجھنے میں مددگار ہوں گے جو داتا نیں یا تاریخی کتابیں بھی گئی ہیں، ان کے ویلے سے بھی اس عہد کی زندگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہنا مناسب نہ ہو گا کہ نظر و نثر کا پورا ادب زندگی کو ایک بھی طرف لے جا رہا تھا اور معاشی زوال کے باوجود زندگی کی مستقل قدریوں پر اعتماد کے جذبے کی پورش کر رہا تھا۔ نثار اپنے عروج کے یہی جس قسم کی فضایا ہستی تھی وہ درحقیقت اٹھا رہیں صدی کے بعد پیدا ہوئی اور ہم آئندہ صفحات میں اس کی کہانی پڑھیں گے۔

پانچواں باب

اُدھ کی دُبیا تے شاعری

اُردو شعر و ادب کے ارتقا کے تاریخی پیس منظر میں دہلی کے زوال اور اُدھ کے عرج کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن اُردو کے کچھ سوراخوں اور ناقدوں نے بہار و خزانہ ال کی اس تصویر میں ایسا نگ بھرا ہے جیسے کسی سعجے سے اُردو شاعری کا روپ ایسا بدلتا گیا کہ جو دلی میں تھا وہ اُدھ میں جان بوجھ کر مٹا یا گیا اور ایسی تبدیلیاں کی تھیں جو ایک کو دوسرے سے بالکل الگ کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر زبان کے استعمال، لباس و لہجہ کے تغیر، اسلوب کے بعض عناصر اور بعض اصناف کی ترقی کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو مہندوستان کے سماجی نظام میں یہ کوئی بڑا تغیر نہ تھا۔ پھر بھی ادبی اور علمی نقطہ نظر سے سانی اور ادبی روایات میں جو تبدیلیاں ہوئیں انھیں تہذیب کے وسیع ہوتے ہوئے دائرے میں رکھ کر دیکھنا منفید ہو گا۔

پہلے باب میں دلی کی تباہ حالی اور اس کے نتیجے میں تہذیبی انتشار اور شاعروں کی بحث تکا ذکر مونچا ہے۔ دہلی صرف ادبی مرکز نہیں تھا بسیاسی اور معاشرتی عروج و زوال کا حرارت پیاسا بھی تھا۔ جب اس کی مرکزی حیثیت بدلتی تو کسی نئے نئے راجح دربار پیدا ہو گئے اور شاعروں کو اپنی طرف متوجہ کر کے خود ادبی مرکزوں کی صورت اختیار کر گئے۔ یہ بات صاف ہے کہ اس جاگیردارانہ دور میں جو مرکز بھی بن رہے تھے۔ ان کی بنیادی حیثیت وہ تھی اور مقامی اثرات سے قطع نظر ان کی فضائی بھی نیساں تھیں۔

اوڈھ فرغ آباد گلظیم آباد

جیدر آباد، مرشد آباد، نام پور، بھوپال، ٹونگ وغیرہ منظر عام پر نودار ہوئے اور یا تو دہلی کی مغل حکومت کے ساتھ تھلے عکے غدریں ختم ہو گئے یا ایک محمد و دیپا نے پشاووں کی سر پرستی کرتے رہے۔ ان میں اوڈھ کی سلطنت کو غیر معمولی ادبی اور تہذیبی حیثیت حاصل ہوئی۔ انہار ہوئی صدی کی پہلی چوتھائی میں براہن الملک نے اوڈھ میں ایک نیم خود محترم حکومت قائم کی مگر اس کو واقعی اہمیت شجاع الدولہ کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ شروع میں اوڈھ کے نواب دزیروں کا پایہ تخت فیض آباد میں تھا جسے محض ایک مجاہدی کی حیثیت حاصل تھی لیکن شجاع الدولہ اور خاص کران کی بیوی بہو بیگم نے فیض آباد کو ایک ادبی اور ثقافتی مرکز بنادیا۔ شجاع الدولہ کا زمانہ ۱۷۵۰ء سے ۱۷۶۴ء تک رہا۔ پلاسی پانی پت اور بکر کی لڑائیوں میں حصہ کر، انہوں نے اوڈھ کو ایک بار پھر سندھ و ستان کے نقشے پر نمایا کر دیا۔ دہلی سے نکلے ہوئے پریشان حال شاعر، فن کار، صنایع، امراء اور حکومت میں نبیتی بسا رہے تھے لیکن اوڈھ کی عظمت کے اصل موارد اصف الدولہ ۱۷۶۴ء سے ۱۷۹۴ء تک (تھے جنہوں نے فیض آباد سے ہٹ کر لکھنؤ کو اپنا مرکز بنایا۔ ان میں اپنے باپ کی سوچھ بوجھ اور بہادری تو نہ تھی لیکن زندگی کے مختلف شعبوں کو سنوار کر اوڈھ کو حسین اور ہر دل عزیز بنانے کی صلاحیت ضرور تھی۔ جن وجہ سے بھی انہوں نے لکھنؤ کا انتخاب کیا ہو لیکن اس میں غیطیم اشان تعمیرات کا جال بھاکر انہوں نے اس کو چین زاروں اور باغوں کا شہر بنادیا۔ اصف الدولہ کے بعد ان کے بھائی سعادت علی خاں سول سال تک تخت حکومت پر واقع تھا۔ رہے۔ یہ عہد بھی ادبی استحکام کے لیے سازگار رہا۔ ۱۸۱۲ء میں غازی الدین جیدر نواب وزیر ہوئے جنہیں انگریزی یاست نے بہت جلد خود مختار بادشاہ تسلیم کر دیا۔ نوابوں اور بادشاہوں کا یہ سلسلہ ۱۷۵۰ء تک جاری رہا یاں تک کہ انگریزوں نے داجہ علی شاہ کو معزول کر کے انھیں میا برج (لکلت) جسمج دیا۔

یہاں ملکت اوڈھ کی تاریخ لکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ دکھان لیتے کہ مغل سلطنت ہی کے ایک حصہ نے خیز بادشاہی اور نئی ادبی مرکزیت حاصل کر لی اور کچھ ایسے تاریخی اسباب جمع ہو گئے جنہوں نے اسے تہذیب و فن میں شاہری اور صنائی میں ایک انفرادیت خیش دی۔ شجاع الدولہ خود شاعروں کا احترام کرتے تھے اور اپنے دربار کی زینت

بڑھانے کے لیے انہیں اودھ آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تباہ حال دہلی کے مقابلہ میں یہاں کی رونق نے بہت سے شاعروں اور فن کاروں کو اودھ میں جمع کر دیا۔ آصف الدولہ نے اس سرگزشتی کو اور دیکھ کر اپنے شاہزادے اور شرعاً کی قدر دلائی میں مغل بادشاہوں کی یاد دلاتے تھے۔ غازی الدین حیدر بھی شاعر تھے اور واحد علی شاہ تو فنون سلطنتی کی دلدوہی کے ساتھ ساتھ تقریباً سو کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ فارسی اور اردو میں نظم و نثر کی ان کی بعض تصاویر اختراع کا درجہ کم تھی میں

اس بات کا اندازہ لگانا دشوار ہے کہ دلی کے شرعاً کی آمد سے پہلے اودھ میں اردو زبان کی کیا حالت تھی۔ پیداوت ہے کہ لکھنؤ کے گرد نواحی میں تعقوب کے بڑے بڑے مرکز اور مسلمان اہل علم کی بڑی بستیاں آباد تھیں۔ لکھنؤ میں شاہ میانا کامزار موصح حام تھا گردولی، خیر آباد، کاکوری، سندھیلہ، موہان، صنی پور چھوٹے چھوٹے علمی مراکز تھے۔ اور جی نیان ہندو مسلمان شرعاً کی پندرہ زبان ہیں میکن کھڑی بولی اردو کے اثرات بھی سولھویں ستر ہویں صدی میں بنگال اور بہارتک پھیل چکے تھے۔ اس لیے اودھ میں اس کا کسی نہ کسی مشکل میں رانچ ہونا قرین قیاس ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ دلی سے ایک پودا لکھا جائے اور وہ اچانک ایک چقنا درخت بن جائے بہر حال موارد کی کمی کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ لکھنؤ اور فیض آباد میں اردو شاعری کی کوئی روایت موجود تھی یا نہیں۔ مگر یہ بات غور طلب ہے کہ جب اودھ کے ابتدائی زمانے میں دلی کے خاص شرعاً میرضاحک، سوز، سوڈا، فغاں وغیرہ یہاں آئے تو وہ غیر تعارف نہ تھے۔ مشاعروں میں ان کا احترام ہوتا تھا اور اسی قدر دلائی کی وجہ سے وہ یہاں رہے اور ایک نئے مرکز کے قیام میں بھی ہوئے جو تبدیلی اپنا انفرادی رنگ بناتا گیا۔

آصف الدولہ نے مختلف فنون کی جو سرگزشتی کی اس نے بہت کم وقت میں لکھنؤ کو دہلی کے بعد سب سے اہم شہر بنایا۔ وہ مشاعروں، قوم کے تیواروں اور میلوں میں شیرک ہوتے اور شاعروں کی حرمت افرادی کرتے تھے۔ دلی سے ابتداء جو شاعر آئے وہ اپنے طریف کر اور اسلوبِ ادا کے ساتھ آئے اور شاعری کو کوئی نئی جگت نہ دے سکے۔ مگر انہیوں صدی کے آخر میں اودھ کا دربار تحریک ہو چکا تھا اور وہاں کی زندگی بادشاہیت کے اعلان کی وجہ سے ازادی اور انفرادیت کے ایک نئے سانچے میں ڈھل رہی تھی، اس لیے بعد

تین آنے والے شاعروں نے لکھنؤی زندگی کا اثر قبول کیا۔ اس سلسلے میں جرأت، انشا، مصطفیٰ اور میرحسن خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ شزادہ ہوئے ہوئے بھی کسی قدر بد لے ہوئے تھے اور بعض ادبی مورخین یہیں سے دہلی کے مقابلہ میں لکھنؤ کے دستان شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔ دستان لکھنؤ کیا تھا اس کا ذکر مختصر ہے اگر آئے گا مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں کا فرق بنیادی نہیں تھا۔

اوہ میں شعر و سخن کی ہر دل عربی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دہلی میر، شاعری کا بازار سرو ہو گیا تھا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے لکھنؤ کی حیل پہل نے دلی کی رونق کو ماند کر دیا تھا۔ دہلی سے بڑے چھوٹے بہت سے شاعر آئے جن میں سے بعض کا ذکر دہلی کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ضاحک اور میرحسن، جرأت، انشا اور مصطفیٰ ہلوی ہونے کے باوجود لکھنؤ کی روایت شاعری کے معمازوں میں ہیں۔ میرضاحک فیض آباد آئے اور اپنی زبان دلی کی سند یہ ہوئے آئے سودا سے جو بازی کی وجہ سے انھیں شہرت حاصل ہو چکی تھی بیوال تھا کہ ان کا دیوان شائع ہو گیا لیکن اتفاقاً اس کی ایس نقل بہار کے ایک کتاب خانے میں وستیاب ہو گئی۔ ضاحک کے بیٹے میر غلام حسن حسن بھی باہ کے ساتھ آئے تھے، فیض آباد پونچ کر میرحسن کے نام سے غیرہ فائز ہو گئے۔ وہ تقریباً ۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے تھے اور ۱۸۸۲ء میں انتقال کر گئے۔ لکھنؤ کے دارالسلطنت بننے کے بعد میرحسن بھی لکھنؤ پہنچے آئے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ میرحسن نے اردو شعرا کے بارے میں ایک تذکرہ لکھا ہے جو تاریخ و تنقید کی نظر سے بہت اہم ہے ان کا مکمل دیوان بھی شائع نہیں ہوا ہے مگر ان کی مشہور شنیاں اور عربلوں کا ایک دیوان کہی ہے۔ اردو شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی مشہور شنیوی سحر البيان کی وجہ سے امر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور شنیوی گلزار ارم بھی بہت مشہور ہے کیونکہ اس میں انھوں نے بڑے پچھے اور دلکش انداز میں فیض آباد کی مدح اور لکھنؤ کی نسبت کرتے ہوئے اپنے سفر کا حامل بیان کیا ہے۔ مگر حقیقت میں ان کی شہرت کا باعث سحر البيان ہے۔ اسی کی بدولت ان کو شنیوی کا سب سے بڑا شاعر تعلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں شہزادہ بنے نظیر اور شہزادی بدر میز کی داستان عشق کا بیان ہے، جو بالکل شئی تو نہیں کہی جاسکتی، مگر میرحسن نے اس کیاں کو اپنی پسند کے مطابق یہاں دہلی لیا ہے۔ اس کی تفصیلات سے اس دور کی زندگی پر

بڑی گھری دشمنی پڑتی ہے۔ تقریبات ولادت، شادی اور دروسے مواقع کی مصتوں کی آنی خوبیوں سے کی مجھی ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے وہ وَدُر زندہ ہو جاتا ہے جس کا بیان ہے۔ مناظر فطر اور تہذیب سمجھی کی عکاسی بنے نظیر اور دلکش ہے۔ اگرچہ اس کہانی میں غیر مادی زندگی کا دکر بھی بہت کیا گیا ہے۔ مگر اس کے پردے میں وہ واقعیت مخفی ہے جس سے کسی تہذیب کے سنبھلنے میں مدد طلبی ہے جیسے کہ خود اس پر فخر تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس پر صرف کیا تھا۔ انہوں نے مرثیے اور قصیدے بھی کھیلے مگر ان میں انھیں کچھ زیادہ کامیابی میسر نہیں ہوئی۔ شنوی کے علاوہ ان کی غزلیں بھی ادبی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سادگی علاوٹ اور درد مندی کے دلیل زنگ ملتے ہیں جو تمیر کے بیان پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان آسان اور بول چال کی زبان کے قریب تھی۔ غزل کے کچھ شعروں سے ان کی شعرگوئی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

تُورہ دل میں، دل رہا تجھ میں
تس پر تیرا مlap ہو نہ سکا
ہنسنا اور بونا تو ایک طرف
سامنے اس کے میں تو رو نہ سکا

دل غم سے ترے لگا گئے ہم کس آگ سے گھر جلا گئے ہم
کھو یا گیا اس میں گو دل اپنا پر یار تجھے تو پا گئے ہم

بس گیا جب سے یار آنہوں میں تب سے پھولی بسار آنہوں میں

گل ہوئے جاتے ہیں چراغ کی طرح ہم کو نک جلد آن کر دیجئے
شیخ قلندر غشی جو اُت بھی دلی سے فیض آباد آئے تھے اور وہیں شہرت حاصل کی۔
وہ دلی ہی کے شاعر حضرت کے شاگرد تھے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت کی شاعری میں جوزنگی میں اد
معاملہ نہیں کیا جاتی ہے اُسے جرأت نے صرف اختیار سی نہیں کیا بلکہ اس میں بہت آگے
بڑھ گئے جس وقت وہ لکھنوائے بیان مرا سیلمان شکوہ کا دربار گرم تھا، وہ شاہ عالم

کے بیٹھے تھے اور آصف الدولہ کے عہد حکومت میں لکھنؤ جلے آئے تھے۔ وہ خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کی بڑی توقیر و تعظیم کرتے تھے، اس وجہ سے دلی سے جو شاعر آتے تھے پہلے انھیں کی سر پستی تلاش کرتے تھے۔ جرأت بھی انھیں کے درباری بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جرأت دونوں آنکھوں سے انہے تھے اور شاعری کے علاوہ محقق اور مجموع میں بھی کامل تھے استاریجانے میں بھی کمال رکھتے تھے۔ سیلان شکوہ کے دربار میں پہلی نشست حاصل کرنے کے لیے جرأت انشا اور صحفی میں چونیں چلا کرتی تھیں زادہ ہمین ان کا انتقال ہو گیا۔ جرأت کچھ بہت تعلیم یافتہ نہ تھے، مگر زبان کے استعمال میں کامل تھے اور محبت کے جذبات کو ایسے انداز سے پیش کرتے تھے کہ اس میں کبھی بھی ایک طرح کی فاشی کا رنگ جھلکنے لگتا تھا۔ جو اپنے دھیرے ان کا انداز لکھنؤ میں اپنی جگہ بنانے لگا اور بعد میں لکھنؤ کی خصوصیات میں شمار ہونے لگا۔ جرأت کا دیوان مختلف اصناف سے بھرا ہوا ہے زیادہ تر غزلیں ہیں۔ مگر شنویاں، مرثیے اور قطعات بھی کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ بعض غزلیں ایک ہی جذبے کے تابع ہو کر کھنگھنگی ہیں۔ اس لیے جو تصویر دہ بنانا چاہتے ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ بن جاتی ہے۔ جذبات انسانی کی پیشکش میں انھوں نے حرف عاشقانہ معاملہ بندی کو اپنایا تھا اور اسی کو وہ مختلف طریقوں سے پیش کرتے تھے نونے کے لیے کچھ شعر دیکھیے۔

بات ہی اول تو وہ کرتا نہیں مجھ سے کبھی
اور جو بولے بھی ہے، کچھ منہ سے تو شرمایا ہوا
ہے تلق سے دل کی یہ حالت مری اب تو کہیں
چار سو پھر تباہوں اپنے گھر میں گھبرا یا ہوا

لگ جا گلے سے تا بابا نے ناز نہیں نہیں ہے ہے خدا کے داس طے مت کر نہیں نہیں

پری سا جو کھڑا دکھا کر چلے مجھے تم دو اند بن اکر چلے

آئے جو میرے پاس تو منہ پھیر کے بیٹھے یہ آج نیا آپ نے دستور بکالا
اس دور کے ایک بہت بڑے شاعر اور عالم انسان تھے، وہ بھی مغل شاہزادے سیلان شکوہ کے درباریوں میں تھے۔ انشا اللہ خاں کی ولادت ۱۷۵۴ء کے لگ بھگ مرشد آباد میں ہوئی۔

سولہ سترہ سال کی عمر میں اپنے والد ماثا اللہ خاں کے ساتھ فیض آباد آئے۔ وہاں سے شاعر کے آس پاس دلی چونے پر ماثا اللہ خاں بڑے عالم بھی تھے اور ایک اہلی دو دن مان سے بھی وابستہ تھے اس لیے جاں گئے ان کی آدمی بھگت ہوئی۔ انشا رالٹ خاں کو اعلیٰ درجے کی تعلیمیں تھیں ذہانت، ذکر الحسی اور تیزی و میباک فطرت اور شخصیت کا جزو تھیں۔ اس لیے ہر جگہ اخراج ازاد اکرام کے مستحق قرار پاتے تھے۔ تقریباً اٹھارہ سال دلی میں رہ کر کئی دوسرے شواہ کی طرح انشا بھی لکھنوجے آئے اور اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث ہاتھوں ماتحت یہ گئے۔

عموماً ادب کے سوراخوں نے ان کے مرشد آباد کے قیام کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی ہے مگر یہ نہیں بھونا چاہیے کہ اٹھارہویں صدی کا بنگال دلی سے بہت مختلف تھا۔ انگریزی زبان و تہذیب کا اثر وہاں کی زندگی پر پڑ رہا تھا اور ایک طرح کی نئی بیداری کی جگہ پیدا ہو چکی تھی۔ انشا بڑے عالم اور تیز ذہن رکھنے والے شخص تھے کہی زبانیں جانتے تھے اور زندگی کو ایک کھیل کا میدان سمجھ کر ہر دم اس میں کو دپڑنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ شاہ عالم باشا کے زمانے میں دلی آئے۔ یہ وقت وہ تھا کہ شاہ عالم کی آنکھیں بکالی جا چکی تھیں اور دربار ایک مرگفت کی طرح سنان تھا۔ انشا اپنی سنبھی دل لگکی کی باتوں سے زندگی کو قابل برداشت بنانے کی کوشش کرتے تھے، مگر جوان دھیر اچھا چکا تھا وہ دور نہ ہوا۔ شراہیں باہم جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور انشا اس میں ایک فرقہ کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے جب یہ جھگڑے بہت بڑھتے تو انشا لکھنوجے آئے اور کچھ دنوں بعد جب سلیمان شکوہ کا دربار سجا تو وہ بھی انھیں کے دربار میں داخل ہو گئے۔ لکھنؤیں جرأت متعقی اور دوسرے شرعاً پچھے سے اپنی دھاک جائے ہوئے تھے، انشا کسی سے پچھے رہنے والے نہ تھے، اس لیے ان کے آنے سے شروع شاعری کا بازار اور چک اٹھا۔ مشاعر دن میں مقابلے ہوتے، پھر میں جلتیں، سو اگ بھرے جاتے اور مزاح بڑھ کر طنز و تنقیص میں تبدیل ہو جاتا۔ بعض کتابوں میں ان کا بڑا دھپ بیان ملتا ہے۔ یہاں ان کا تذکرہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ شاعری میں جو ایک طرح کا تصنیع اور اتحلاپن آ رہا تھا، اس کا جواز تلاش کیا جاسکے لکھنؤ کی زندگی میں عیش و عشرت کے وجود بات پیدا ہو رہے تھے اس کا اثر بھی اس وقت کی شاعری میں اسی طرح دیکھا جاسکتا ہے۔

لکھنؤ میں انھیں بہت دن نہیں گزرے تھے کہ انشا اپنے کلام، چپکلوں اور باتوں سے

صرف دربار کی ہی جان نہیں بن گئے بلکہ پوری دنیا شاعری کے خواص میں گئے جانے لگے لیکن نو اب سعادت علی خان کا عہد تھا اُنہاں بھی پہنچ گئے اور اپنی باتوں سے نواب کو ایسا گروہ کر ریا کہ ان کی ناک کا باں بن گئے۔ انہیں وہ وقار حاصل ہوا جو مشکل ہی سے اس دور کے تکی شاعر کو حاصل ہوا ہو گا۔ لیکن اپنی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے وہ حد سے بڑھ جاتے اور سعادت علی خان کو ناراض کر دیتے تھے۔ درباری زندگی کی کشکش جوان بیٹے کی موت اور نواب کی بگشتنگی نے عالم دیوالی میں پہنچا دیا۔ سنبھانے والے کی سنبھی ختم ہو چکی تھی اور جنون سلطنت تھا۔ اسی عالم میں ۱۸۷۶ء میں انتقال کیا۔

انشاء اللہ خال کا کلیات شائع ہو چکا ہے جس میں غربوں کے علاوہ مشغیں، قصیدے، قطعات، منظومات شامل ہیں۔ اس کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار داری اور سخنگی نے ان کی شاعری کی کمی سطھیں بنارکھی تھیں۔ سنجیدگی اور فکر ہے تو سلط بلند ہے، سنسوڑپ اور چھپیر چھاڑ ہے تو سنجی۔ ان کے علم و فضل کے شاعر اردو میں کم ہی ہوں گے۔ مختلف علوم میں دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کمی زمانیں مثلاً ترکی، پشتون، پنجابی، کشمیری اور مارداڑی دغیرہ بقدر ضرورت جانتے تھے، کبھی کبھی انگریزی الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ فارسی دیوان کے علاوہ دریائے لطافت اور لطائف السعادت فارسی نظریں اور رانی کشکنی کی کہانی اور سلک گہر آر و نشریں موجود ہیں۔

شاعر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو انشا کا شمار بڑے شاعروں میں ہو گا۔ ان کی کچھ غربیں فن اور اظہار و ارادات کے لحاظ سے تغزل سے بھر پور ہیں۔ لیکن اکثر مقامات پر سوز و گداز کی کمی ہے۔ خجالات میں تازگی اور بیان میں ندرت کے باوجود وہ شاعری کو زندگی کا اہم ترین شغلہ نہ بناسکے۔ ان کے علم کے تقاضے قصیدوں میں ضروریورے ہوتے ہیں جہاں وہ مشکل زمینوں، عالمانہ خیالوں اور بھاری بھر کم تر کیبوں سے قصیدے کی فضای پیدا کر لیتے تھے۔ شنویوں میں بھی خوشگوار کیفیتیں ملتی ہیں اور نظمگاری کی قدرت کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ انہوں نے شاعری کو درباری دلچسپیوں کی چیز بنادیا۔ وہ شاعری نہ کرتے تو اپنے علم و فضل کا اظہار سنجیدہ تصانیف میں کر سکتے تھے اور اگر دربار سے وابستہ نہ ہوتے تو شاعری اس طرح بے راہ رونہ ہوتی۔ نہ تاکی سب سے اہم فارسی تصانیف دریائے لطافت ہے جو سانیات اور دوسرے

اہم ادبی مسائل کا ایک خزانہ ہے۔ اس کے مطابع سے اس اردو زبان سے واقفیت ہوتی ہے جو مختلف علاقوں اور مختلف طبقوں میں مختلف شکلوں میں راجح تھی۔ اس میں زبان کے دلچسپ نونے بھی ہیں اور اسلامی اصولوں کی بحث بھی۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ انشا کی خواہوں کے چند شعرومنوں کے طور پر دیکھئے،
کہر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یاد رکھئے ہیں

بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار رکھئے ہیں
نہ چیز اے نکہت باہ سیاری راہ لگ اپنی
تجھے انکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار رکھئے ہیں
تصور عرش پر ہے اور سر ہے پائے ساتی پر
غرض کچھ اور دھن میں اس گھردی میخواز رکھئے ہیں
یہ اپنی چال ہے اقتادگی سے اب کہ پرہوت تک
نظر آیا جہاں پر سایہ دیوار رکھئے ہیں
بھلاگر دش فلک کی چین دیتی ہے کے انشا!
غینمہت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار رکھئے ہیں
جھڑکی ہی ادا ہی چیں بر جیں سہی سب کچھ ہی پر ایک نہیں کی نہیں ہی

یہ جو ہست رکھئے ہیں را دھا کے گند پر اوتار بن کے گرتے ہیں پر یوں کے جعنڈ پر

لیکے میں اڑھوں بچاؤں یا پیٹوں کیا کر لوا رکھی پھیکی ایسی سوکھی مہربانی آپ کی

گی ہے منجھ کی جھرداری باغ میں چلو جھولیں کہ جھولنے کا مزا بھی اسی بہار میں ہے
انشا کے دوستوں میں سعادت یار خان دلی کے ایک تجارت پیشہ شاعر تھے ان کا
خلاص نگینہ تھا۔ اپنے پیشہ کے سلسلے میں وہ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ امیروالہ در
نوابوں کے دربار میں ان کا احترام ہوتا تھا۔ حقیقت ہے کہ جیسا ان کا خلاص تھا دیا ہی
زیگین مزاح بھی تھا چونکہ انہیں عیش پنڈانہ زندگی لبر کرنے کا موقع حاصل تھا۔ اس یے وہ

شروع شاعری میں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے تھے۔ سنبھلے ہنسانے والے شخص تھے، خیالات میں کوئی وزن نہ تھا مگر ان کی تصانیف اردو اور فارسی میں بڑی تعداد میں ہیں۔ ۱۹۸۳ء میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصنیفات میں چار دیوان، کہنی مشنویاں اور رائیک کتاب عجالس ریکیں کے نام سے ہے جس میں انہوں نے شاعروں، مشاعروں اور ادبی مجلسوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب سے اس وقت کی زندگی پر بھی اچھی روشنی پڑتی ہے۔ زنگین کے دیوانوں میں ہر صنف کی نظریں ملتی ہیں۔ ان کی غرب میں کوئی خصوصیت نہیں رکھتیں اور سچ یہ ہے کہ انھیں جو کچھ اہمیت اردو ادب میں حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عورتوں کی بولچلیں انھیں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل پر بہت سی نظریں تھیں اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہی اس طرز کے موجود ہیں۔ زنگین نے اس صنفِ سخن کو رنجتی کے نام سے غروب کیا ہے، اس میں انشا بھی ان کے شرک تھے۔ قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رنجتی کے موجود انشا ہیں یا زنگین۔ انشا نے اپنا اور زنگین کا نام ایک ساتھ لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دکن کے مشہور شاعر باشمشی بیجا پوری نے پہلے پہل رنجتی لکھی۔ درحقیقت رنجتی صرف عورتوں کی زبان میں کچھ لکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ انھیں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ فرانگی زندگی میں جو درود گھٹن اور پابندیاں ہیں ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھیج جائے۔ رنجتی میں خبی مسائل کا ذکر کبھی کبھی عربی نہ کپ پہنچ جاتا ہے۔

رنجتی کو اردو کے ادیبوں نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے کیونکہ اس میں بلند اخلاقی خیالات اور سخیگی کا فقدان ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مشتری ہوئے سامنے سماں میں عورت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی؛ اس کا سکھ اور دکھ نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے اگر زنگین اور انشا نے اودھ کے اس عشرت آلووہ سماں میں عورت کی طرف بھی دیکھا تو اسے تاریخی اہمیت ضرور دینا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کریں شرعاً پس سامنے کوئی بلند نصب العین نہیں رکھتے تھے، ان کا کوئی بڑا مقصد تھا اور نہ وہ نسوانی معاشرہ کی فلاح کے لیے ہی رکھتے تھے۔ لیکن یہ صفت شاعری کئی حیثیتوں سے مطالعہ کے لائق ہے۔

اس عہد کے مشہور شاعر مقصودی بھی ہیں۔ ان کا نام شیخ غلام ہمدانی تھا۔ امر وہ کہ رہنے والے تھے اور فوجوںی ہی میں دلی پلے آئے تھے۔ دلی میں اس وقت شروع شاعری

کی دھوم تھی۔ مصطفیٰ بھی شاعروں میں جاتے اور وہاں کی ادبی زندگی میں حصہ لیتے تھے۔ تلاش ملازمت میں ادھر ادھر پھرے اور آخر میں لکھنؤ چلے آئے، وہاں مرازِ ایمان شکوہ کے دربار میں طالذم ہو گئے۔ یہیں اونٹا سے ان کی شاعرانہ چیلک اور رقابت شروع ہوئی۔ یہ بتانا تو ناممکن ہے کہ جھگڑا اثر دفع کدھر سے ہوا، مگر بات صاف ہے کہ راج دربار میں اپنی جگہ محفوظار کھنے اور اپنے کوسب سے بہتر ثابت کرنے کے لیے شرائی بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہوتی تھی۔ یہ جھگڑے اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ کسی کبھی بڑے غیر جنبدشکل اختیار کر لیتے تھے۔ ایک دوسرے کی مذمت کرنے کے سمجھی ذرا سائے نام لیا جاتا تھا اور چونکہ یہ لوگ لکھنؤ کے نامیں شاعر تھے اس لیے دوسرے حضرات بھی اس میں شریک ہو کر لطف لیتے تھے۔ تذکرہ آبِ حیات میں یہ کہانی بڑے دلچسپ انداز میں یاں کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں مبالغہ بھی ہو لیکن ہجھوں کی موجودگی میں یہ صورت قرین قیاس ہے یہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کو اس پست سطح پر کھینچ لانا مناسب نہ تھا مگر سماجی زندگی میں تغزیع و علیش پرستی کو اس طرح قابو حاصل ہو گیا تھا کہ اس میں یہ نامناسب باتیں لطفِ زندگی کا جزو بن گئی تھیں۔ اسی وجہ سے انشا اور مصنفوں کی عنظیت کے اعتراض کے باوجود ہمارے دل میں احترام کے وہی جذبات بیدار نہیں کرتے جو تیر، سودا، درد اور دوسرے شرعاً کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی رحلت سے ۱۹۴۷ء میں ہوئی۔ انھوں نے بہت سے شاگرد چھوڑے ہیں میں سے کئی نے ڈر انعام پیدا کیا، ان کا ذکر بھی آئندہ آئٹے گا یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مصنفوں بہت پُر گو تھے اور افلاس کی وجہ سے اپنی غربیں معاوضہ لے کر دوسروں کو بھی دے دیا کرتے تھے، پھر بھی ان کے آٹھ دیوان ملتے ہیں وہ کل کے کل ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں۔ ان ہیں زیادہ تو غربیں ہیں لیکن ان کے علاوہ تیسرے شنوی وغیرہ بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ نے فارسی میں ہیں اور کتابیں بھی ہیں جن میں فارسی، اردو و شرعاً کے حالات اور ان کی تخلیقات پر ترقیت کی گئی ہے۔ ایک مختصر سالہ اپنے حالات میں بھی لکھا اور فارسی کے بعض شرعاً کے جواب میں دیوان بھی ترتیب دیے۔ ان کے تینوں تذکرے اہم ہیں۔ ان کے نام ہیں، عقد شریا، تذکرہ ہندی، اور ریاض لفظی۔

مصطفیٰ اور دو کے بہترین شراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی غربوں میں جذب باتیت سادگی اور فنکارانہ چمارت پائی جاتی ہے۔ ان کا ایک نقش جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے ہے

یہ تھا کہ وہ اکثر بڑے بڑے فارسی اور اردو شعر کے طرز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا انعام یہ ہوا کہ خود ان کا کوئی رنگ اپنی خصوصیات کے ساتھ واضح شکل میں ہمارے سامنے نہیں آتا۔ میر، سودا، جرأت اور انشا سبھی کے رنگ ملتے ہیں۔ پھر بھی اس میں شبہ نہیں کہ ان کو اردو کے عظیم شعر کی صفت میں جگہ ملتی رہے گی۔ مصطفیٰ کی مشنویاں اور قصائد بھی ادبی نقطہ نظر سے مطالعہ کے سختی ہیں۔ غزل گوئی کا نمونہ یہ ہے:

سوتے ہی ہم رہ گئے افسوس ہائے قافلہ یاروں کا سفر کر گیا
قصہ کہوں کیا دل بیمار کا عشق کی تپ تھی، نہ بچا مر گیا
ترے کو چے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات نہ زنا

کیا جانتے تھے ہم کو خفا ہو گا با غبار گلشن میں لے گئی تھی نیم سحر مجھے

چلی بھی جا جرس غنیمہ کی صدائ پنیم
کہیں تو قافلہ نو بیمار ٹھہرے عکا!
جو سیر کرنی ہے کرنے کے جب خزان آئی
نگل رہے ہمچین میں نہ خار ٹھہرے گا
یہی ہے لوٹ تو دستِ جنزوں کے ماٹھوں سے
نہ ایک میرے گریباں میں تار ٹھہرے گا
یہاں تک جن شعر کا ذکر ہوا ان کی حیات کا بڑا حصہ کہیں اور گز را مگر اپنی زندگی کے
آخری حصے میں یہ لوگ لکھنؤ کے ہو رہے۔ اس لیے ادب کے سوراخ ان شاعروں کو دی اور
لکھنؤ دنوں میں شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تخلیقات دلی کے رنگ سے تھوڑا بہت
ہٹی ہوئی ہیں۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ شاعر دبتان لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ہاں یہ بات ضرور
ہے کہ انہوں نے تخلیقِ شعر کو جس راہ پر ڈال دیا تھا وہ ایک سُنی سمت کا پتہ دیتی ہے جن
شاعروں کا تذکرہ ہوا ہے ان کے علاوہ بہت سے اور شعر کے نام ملتے ہیں جو دلی سے
لکھنؤ آئے لکھنؤ میں پہلے سے کوئی بنابنا یا زنگ موجود نہیں تھا، ان شاعروں نے ایک
نئی فضایا کر دی جس سے لکھنؤ کی شاعری میں کچھ نئی خصوصیات پیدا ہو گیں۔

اُن موضوع پر بہت بحث و مباحثہ ہو چکا ہے کہ دلی اور لکھنؤ کی شعری تخلیق میں کیا
خاص فرق ہے۔ بہت سے لکھنؤ والے کافی غور درخوض کے بغیر دنوں کو ایک دوسرے سے
بانکل مختلف ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ساشتی زدال کا جو دلی میں تھا وہی

محموںی فرق کے ساتھ لکھنؤیں بھی تھا۔ ادب تاریخ، فلسفہ کی جو روایات ایک جگہ نظر آتھا۔ سے دیکھی جاتی تھیں وہی بات دوسری جگہ سر بھی تھی۔ جو اقتضادی اور سماجی صورتِ حال، بیانات کی جو اساس دل میں تھی کم و پیش نکھنؤیں بھی تھی، اس لیے فکر و عمل کے میدان میں کوئی عظیم تبدیلی ناممکن تھی۔ شاعری زندگی کا عکس ہوتی ہے اور اگر زندگی کی اصل بنیاد میں رُدوبدل نہیں ہوتا تو ادب میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے نتیجہ کالا جا سکتا ہے کاظمیان اور انہا ز فکر میں جو جدت نکھنؤیں پیدا ہوئی وہ کچھ ایسے اسباب سے ہوئی، جو اتنے اہم اور عین د تھے جو ادب کے دھارے کو بالکل ہی موڑ دیتے۔

عام طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کی مغلیہ سلطنت صدیوں کی ترقی اور جاہ و جلال کے بعد ایک دق کے مریض کی طرح دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے اس ہلاکت سے بچا سکے گی، اس لیے وہاں کے شرعاً کے جذبات قنون طیت آمیز تھے اور دل کی گہرائی سے پیدا ہوتے تھے۔ لکھنؤیں یہ بات نہیں تھی، یہاں نہیں نہیں سلطنت قائم ہوئی تھی جو خارجی شکل میں ترقی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل کے مقابلے میں یہاں امن بھی زیادہ تھا اور لوگ ایک طرح سے اچھے معاشری حال میں تھے۔ اس وقت کے شاعر اور فن کار تاریخ کی رفتار سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو گھن و دل کو کھارا ہے وہی لکھنؤ کو بھی کھارا ہے، اس لیے وہ اس ٹھہرے ہوئے سودج کی روشنی میں کھو گئے اور قوتی حن کی ظاہری چک کے پیاری بن گرا پی شاعری کو انہوں نے وہ خوبصورتی نہیں دی جو دلی جذبات کے اظہار کے یہے ضروری ہے۔ اس کے مساوی یہ بات بھی تھی کہ شاعروں کو جو سر پرستی اور احترام دل میں نہیں ملتا تھا وہ اب لکھنؤیں میسر تھا۔ اس لیے یہ بات قدرتی تھی کہ وہ یہاں کی زندگی میں گھملن جائیں اور مسائل کو ایک نئی نگاہ سے دیکھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ نقطہ نگاہ درست د تھا کیونکہ یہ سمجھدہ سے سمجھدہ مسئلے کو صرف اوپر سے ہی دیکھنا کافی سمجھتا تھا۔ ان تمام باتوں کا اثر شعرو ادب پر پڑا۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب اور بادشاہ مسلمانوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے اُن کا انہا ز فکر کسی قدر دوسرے مسلمانوں سے الگ تھا۔ اُن کے عقیدے کے مرکز کچھ مخالف تھے اور رسول اور آل رسول سے محبت کی مقدار کچھ زیادہ تھی۔ خاص

طور سے امام حسین کی دردناک شہادت کی یاد میں وہ سال کے کئی تینے غم و اندوہ میں بسر کرتے، پھر ماڈی رنگی کو بھی کسی کسی طرح انھیں عظیم بزرگواروں کی زندگی سے مرتباً طاکر کے لپنے رنگ و راحت کے ہر موقع پر انھیں یاد کرتے اور اس سے اخلاقی قوت حاصل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ ادب کی کئی صنفوں نے انھیں وجہ سے ترقی کی جیسے مرثیہ، نوحہ، سلام دیغیرہ۔

یہ ساری باتیں ادب کو ایک نئے راستے پر چلانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک بات جب نے اس جدت کو نیامیاں کرنے میں سب سے زیادہ حصہ یادہ زبان اور اس سے زیادہ لہجہ کا اختلاف تھا۔ زیادہ نہ سی گمراں میں بھی شک نہیں کہ لکھنؤ کی بول چال کی ہندوستانی پر اور دھی کی نزدیکی اور شیریہنی کا اثر بھی پڑا تھا جس طرح یہاں کی تہذیب میں ایک طرح کا لطیف حسن پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں کے انداز و اطوار سے کمی نہ آکتی ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ کے تلفظ، کچھ مونث اور نند کر کے استعمال، کچھ محاورے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ادب کا کوئی مبصر جو پہ نظر غائردی اور لکھنؤ کی شاعری کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اس طرح دلی اور لکھنؤ کی شاعری میں کئی طرح کے فرق نظر آنے لگتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خامیاں لکھنؤ میں تھیں وہ دل میں نہیں پائی جاتی تھیں یا جو خصوصیات دل میں ہوتی ہیں ان سے لکھنؤ کا پورا ادب محروم تھا یہ مصرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جذبات اور ان جذبات کے اطمینان کے طریقے بدلتے ہوئے تھے یا ان میں مقداری فرق تھا۔ شاید یہ بات سچ ہے کہ انداز فکر میں زیادہ فرق نہ ہوتے ہوئے سمجھی طرز ادا کا فرق خاص نہیں ہے جسے ایک دوسرے کی مقابلاً اور بحث مباحثت نے ہیج پیدہ بنادیا ہے۔

مفصل نہ ہوتے ہوئے بھی اس جائزہ سے اُس ادبی بحث کا تحوزہ ابھی اندازہ لگایا جاسکے گا جسے دلی اسکوں اور لکھنؤ اسکوں کا تنازعہ کہا جاتا ہے۔ جو خصوصیات کی طرف متوجہ کیا گیا ان کے لیے ایک فضاضے ہی بن چکی تھی۔ تحوزہ اوقتن اور گزرو رجاء نے اس فرق باطل واضح ہو کر اس نے اسی اور سیکڑوں شاعروں نے ان خصوصیات کو اپنے اپنے ڈھنگ سے ترقی دینے کی کوشش کی۔ عالم شاعرانہ فضا ہونے کی وجہ سے دو ق شعر ہر طبقے کے لوگوں میں اس طرح رس برس گیا تھا کہ ان پڑھ لوگ سمجھی شعر کہہ یا کرتے تھے۔ اس مختصر تلادیخی میں مرف

اہم شاعروں ہی کا تعارف کرایا جاسکتا ہے۔

جب تھنوا سکول کی شاعری کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ناسخ اور آتش
کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ درحقیقت تھنوا سکول کو جوانفرادیت اور اہمیت میسر
ہوئی وہ انھیں دونوں شاعروں خاص کرنا ناسخ کی عطا کردہ ہے۔ انھیں ایک طرح سے
ادبی ذکیڑہ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ زبان کے معاملہ میں ان کا سکھنے صرف تھنوا بلکہ دہلی میں بھی
چلنا رہا۔

ناسخ کا نام امام نجاش تھا۔ ان کی ولادت فیض آباد میں ہوئی تھی۔ اس بات میں بعض
میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرف اشارہ کرنا اس لیے
ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف شعر انے اسی کی آڑ میں ان کی مدتی کے موقع ڈھونڈ دے
ہیں۔ ناسخ نے تھوڑے ہی دنوں میں تنا نام پیدا کر لیا کہ تھنوا کے بڑے بزرے سرکاری مدد دار
اور امراء ان کے شاگرد ہو گئے۔ ناسخ نے کبھی دربار سے اپنارشتہ نہیں جوڑا اگر ان کے
چاروں طرف وہی ما حول تھا، اس لیے ان کی شاعری میں انھیں قدروں کی جملک ملتی ہے
دربار نے انھیں پابند بنا ناچاہا اور جب وہ اپنی خودداری کے باعث ایمانہ کر سکے تو
انھیں تھنوا چھوڑنا پڑا۔ انھوں نے کچھ وقت الہ آباد میں بھی گزارا، وہاں وہ دادرہ شاہ
امبل میں رہتے تھے جس کا ذکر اپنی شاعری میں انھوں نے کئی جگہ کیا ہے۔ مثلاً:
ہر پھر کے دائرے بھی میں رکھتا ہوں میں قدم

آئی کہاں سے گردش پر کار پاؤں میں

تین تر بینی و دو آنکھیں مری اب الہ آباد بھی پخا ب ہے
اہی طرح انھیں تھنوا چھوڑ کر فیض آباد، بنارس، اور کانپور میں بھی رہنا
پڑا اگر انھوں نے کبھی بادشاہ کی مدح میں کوئی نظم نہیں لکھی۔

ناسخ جیسے شاعری میں پہنچنے والے زندگی میں ایک تھے اہی طرح ان کی زندگی بھی کچھ عجیب
تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت موٹے تالہے اور بجدی سے حسک کے تھے۔ درکش کا بہت شوق تھا،
زندگی کا لاتھا اور گھر بلوزندگی کے جھیلوں سے آزاد تھے۔ کھانا دن رات میں صرف ایک
بار کھاتے تھے، مگر وہ پانچ سیر کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ہر کام کے لیے ان کا وقت مقرر
تھا جس پہل کا موسم ہوتا اسے جی بھر کے کھاتے تھے۔ چونکہ بہت سے امراء ان کے شاگرد

تھے اس یہ انھیں زندگی میں کبھی کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ نواب آغا میر جن کی ذیور صحنوں میں اب بھی مشہوہ ہے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غازی لدھیانہ حیدر نے ملک اشرا کا خطاب دنیا چاہا تو انھوں نے یہ کہہ رہا سے قبول نہیں کیا کہ اتنے چھوٹے سے باڈشاہ کا دیا ہوا خطاب نے کر کر اکروں گما۔ ناسخ کی شہرت دور دور پھیلی اور جماراہ چند ولال شاد آں نے جو نظامِ دکن کے دیوان تھے، دس بارہ ہزار روپیہ بھیج کر انھیں حیدر آزاد بلانا چاہا یکن۔ اس کے لیے تیار نہ جوئے۔ ان کا انتقال ۱۸۷۸ء میں تھا۔ ناسخ نے تین دیوان چھوڑے ہیں جن میں سے دو مشورہ ہیں۔ انھوں نے ایک مشنوی بھی مدہبی موضوع پر بھی جس کا نام سراج لظم ہے مشہور ہے کہ انھوں نے قواعد اور فنِ شاعری کے متعلق بھی رسائے تھے مگر یقین سے کہو نہیں کہا جاسکتا۔

ناسخ ایک غول گوشاعر تھے اور انھوں نے جو طرزِ کمال ادا تھا۔ اس کے سبب انھیں بہت بڑے اور اہم شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غزل میں جو جذباتی اباد اور سوز و گدراز موتا ہے وہ ناسخ کے بیان بہت کم ہے۔ وہ زبان کے ایک بُرے عالم اور فنِ شاعری کے ماہر کاں مانے جاتے ہیں۔ شعریت میں وہ بہت سے شعرا سے پچھے ہیں، مگر معیاری زبان کے استعمال میں انھیں ملی جگدی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں تصنیع اور صنعتوں کا زیادہ استعمال پایا جاتا ہے اس یہ ان کی غزل میں اکثر رومکھی پھیکی اور بے مزہ بوتی ہیں۔ اگر شاعری الفاظ کے خالص استعمال اور خیال بندی کا نام موتا تو ناسخ سے بڑے بہت کم شاعر غریب ہے، مگر جذبات کی کمی اور فکر کے فقدان سے ان کی شاعری دل پر کوئی نقش نہیں چھوڑتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شاعری اچھے شعروں سے سمجھیں خالی ہوتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی طرح کا نقصان نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی غزل میں بے زگ سی معلوم ہوتی ہیں۔ زبان کے متعلق انھوں نے جو کچھ کیا اس سے زبان کو فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ نقصان یہ ہوا کہ پابندیوں کی وجہ سے اس کی ترقی کے لئے محدود ہو گئے اور شاعروں کا پورا دھیان جذبہ اور خیال کے بدے الفاظ و صنائع پر مرکزوں بو گیا، اور فائدہ یہ ہوا کہ زبان کے استعمال کے لیے ایک ایسا معیار بن گیا جس سے فنِ شاعری کے اصول مرتب ہونے۔ مختصر اب یہ کہ سکتے ہیں کہ ناسخ ایک شاعر کی حیثیت سے ناکامیاں ہیں یعنی نکہ دو جذبات جو شاعری کو پر تاثیر پہنچاتے ہیں، ان کے بیان بھے کبھے اور دبے دبے سے

ہیں لیکن ماہر فن ہونے کے لحاظ سے زبان، محاوے اور صنائع ان کی شاعری پر اس طرح
چھائے ہوئے ہیں کہ وہی ان کی تخلیقات کا اصلی بجز و معلوم ہوتے ہیں۔ ہونے کے لیے یہ شر
دیکھیے:

آج ہوتا ہے دل، در و جو بیٹھا یٹھا
دھیان آتا ہے تمہے کس کے بُشیرس کا
سینکڑوں آہیں کروں پر ذکر کیا آواز کا تیر جو آواز دے بے نقش تیر انداز کا
ناز نینوں سے کروں کیا ربط میں نازک لمحہ بوجہ اونہ سکتا نہیں مجھ سے کسی کے ناز کا

مرا سستہ ہے مشرق آفتاب داغِ ہجرات کا طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا

طرفہ گل اس باغ میں ہے اوشنم ہے عجیب ہنس کے بیٹھا جو تری محفل میں وہ وکرائھا
بات جن نازک مزاجوں سے نافھتی تھی کبھی بوجہ اُن سے سینکڑوں سن خاک کا کیونکر انھا

شک سے نام نہیں لیتے کہ سن لے نہ کوئی دل ہی دل میں اُسے ہم یاد کیا کرتے ہیں

وہ نہیں بھوتا جہاں جاؤں ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں

کسی کا کب کوئی روزِ سیہیں ساتھ دیتا ہے کرتار کی میں سایہ بھی جدار تھا ہے انساں
نامتنع کی طرح مشهور اور اتنے بھی اسیم لکھنؤ کے دوسرے شاعر خواجہ حیدر علی تھے، جن کا
تخلص آتش تھا۔ ان کا خاندان دلی کا ایک صوفی خاندان تھا۔ آتش کے والد و تھی سے فیض آباد
چلے آئے تھے اور وہیں آتش سکی ولادت ہوئی۔ پچھن میں باپ کا سایہ اونہ گیا اور آتش کو اپ
اپنے پر دل پر کھڑا ہونا پڑا۔ ایک بے پروا اور آزاد زندگی بس کرنے کا موقع تو طلا لیکن
آتش تک پھر زیادہ تعلیم حاصل نہ کسکے اور فوجی چھاؤنی کے سپاہیوں اور الٰہ کے لئے کوئی کے
ساتھ کمیل کو دکر تلوار حلانا اور نہیں زندگی بس کرنے کا گریس کر گئے۔ ان کے عزماج میں ایک
طرح کی آزادی اور بانچپن پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ صوفی خانوادے سے تعلق رکھنے اور کچھ

آزاد زندگی بسرا کرنے کے باعث ایک طرح کی قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی تھی، اس کی جملہ ان کی شاعری میں قدم قدم پر دکھانی دیتی ہے۔ فیض آباد میں ایک نواب کے ہمار تلوار چلانے والوں میں فوکر ہو گئے تھے اور انھیں کے ساتھ تکھنواگئے اس وقت کا تھنو شعر و شاعری کا مرکز تھا۔ انشا اور صحفی کا بول بالا تھا اور ہر جگہ انھیں کا ذکر۔ آتش بھی صحفی کے شاگرد ہو گئے مگر کسی بات پر ان سے ناخوش ہو کر یہ رشتہ قطع کر دیا۔ ان کے اندر خود شاعری کے ایسے غاصل تھے کہ تمہارے ہی دنوں میں وہ تکھنے کے شاعروں میں چمک آٹھے اور ان کا نام اٹھنے کے شاعروں میں لیا جانے لگا۔ بہت سے لوگ ان کے شاگرد ہو گئے مگر وہ دوبار شاہی اور امیروں سے الگ تھلک ایک پر سخون زندگی بسرا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ او وح کے شاہی دوبار سے ان کو آشی روپیہ ماہوار ملتا تھا مگر وہ اسے غریبوں میں باش دیا کرتے تھے۔

آتش کی شخصیت میں بڑی لکشی تھی۔ ان کی ضرورتیں بہت کم اور خواہیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بڑے لوگوں سے کبھی ملتے نہ تھے، مفلس و محتاج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک لمبا گیر واپس پہنچتے، اپنے کلام میں اس کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ لوگوں نے نئے سے بدگمانی پیدا کر دی تھی لیکن اس نے کبھی غیر منصب شکل اختیار نہیں کی۔ ۱۹۸۴ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

آتش کی شاعری ایک طرح سے تکھنے کے اس رنگ سے ملتی جلتی ہے جس کو ناشخ نے روایج دیا تھا۔ ان کی شاعری بھی صنائع سے بھری ہوئی ہے اور کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جذبات سے متراب ہو کے صرف نظفوں اور صنعتوں کے لیے شرکتے تھے لیکن اگر اس قسم کے اشعار کو الگ کر دیا جائے تو آتش کا دوسرا رنگ جس میں جذبات و ماثرات کا ذرہ ہے۔ بول چال کی خالص زبان میں بڑی روائی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور زبان کی خوبی کے ساتھ ساتھ دردمندی کے متواج دھارے جی کو ڈانوا ڈول کر دیتے ہیں۔ آتش کی زندگی میں جو آزادہ روی، بے باک اور سادگی تھی وہی ان کی شاعری میں بھی دکھائی پڑتی ہے۔ آتش کے دو یوان شائع ہوئے ہیں، ان میں غریبوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر انھیں غریبوں میں وہ تھوف کے نمازک سے نا ذکر جذبات اور عشق کے عینق سے عجیق خیالات

ظاہر کرتے ہیں، ان کے یہاں اخلاقی مسائل کا ذکر بار بار آتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی میں جدوجہد اور تلاشِ حسن کو انسانی زندگی کافر یا ضمیر سمجھتے تھے۔ اگرچہ ناسخ زبان کے بہت بڑے عالم تھے، مگر یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ بھی جاسکتی ہے کہ آتش کی زبان ان سے زیادہ دلکش اور پسندیدہ ہے۔ آتش کا خیال تھا کہ شاعری ایک فن ہے جس میں لفظوں کا اچھے سے اچھا استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کے یہاں فن کے ساتھ ساتھ جدید اس طرح شامل ہیں کہ انھیں الگ نہیں کیا جاسکتا۔ آتش کا احساس بھی جایا تی ہے اور اکثر اشعار میں طرزِ ادبی مثال کی یہ شعر دیکھیے:

زمین چین گل کھلانی ہے کیا کیا	بُرتابے رنگ آسمان کیسے کیے
نگور سکندر نہ ہے قبردارا	شے نامیوں کے نشاں کیسے کیے
بہارِ گلستان کی ہے آمد آمد	خوشی پھرتے ہیں باغبان کیسے کیے

بنت نہان کھود ڈلیے مسجد کو ڈھائیے دل کو نہ توڑیے کہ خدا کا مقام ہے

دل کی کروڑیں اگر انسان سے دو ہوں سارے نفاق گبر و مسلمان سے دو ہوں

امرا و مرد میں اتنا ہی فرق ہے وہ نام کے لیے مرے یہ نام کے لیے

مرے صحنے کا کسی کو مکاں نہیں معلوم	خدا کا نام سننے ہے نشاں نہیں معلوم
اخیر ہو گئے غفلت میں دن جوانی کے	بہارِ عمر ہوئی کب خزان نہیں معلوم
کھلی ہے خانہِ صیاد میں ہماری آنکھ	تفس کو جانتے ہیں، آشیاں نہیں معلوم

ہم کیا کہیں کسی سے کیا ہے طریق اپنا مذہب نہیں ہے کوئی ملت نہیں ہو گوں

سر شمع سان گئے پر دم نہ ماریے منزل بزرار سخت ہو ہمت نہ پالیئے
ناسخ اور آتش کی شعری تخلیق کا عین مطالعہ کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ بہان تک مکمل

کی شاعری کے زنگ و آہنگ کا تعلق ہے دونوں میں کئی طرح کی ماثلت ہے۔ مگر خیادی غامر کو دیکھا جائے تو ان میں بڑا اختلاف ہے۔ آتشِ سالک تصوف سے بہت قریب تھے، تھنؤ کے شعر نے تصوف سے دل نہیں لگایا ہے، اس لیے آتش کی آواز لکھنؤ کے ایوان شاعری میں کچھ فتنیٰ معلوم ہوتی ہے۔ ان کے یہاں دنیا کو سکرا دینے، جدوجہد کر کے آتے ہیں اور آزاد ازندگی پس کرنے کا جذبہ اتنا شدید ہے کہ وہ صرف تھنؤ ہی نہیں پوری اردو شاعری میں اپنا ایک بلند مقام بنالیتے ہیں۔ ان دونوں خلیم شاعروں کے بینے سے شاگرد تھے جنہوں نے ان کی قائم کی ہوئی روایات کو اور مضبوط کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت تک ناسخ کی شعری تدوّت سے تعلق رکھنے والے اسی طرح زبان کے خالص ہونے پر زور دیتے رہے ہیں جیسا خود ناسخ نے کیا، مگر اس کے بخلاف آتش کے شاگردوں میں کئی ایسے ہوئے جنہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ موضوع اور تجھیل پر بھی زور دیا۔

ناسخ کے تلامذہ میں مشہور نام یہ ہیں، وزیر، برق، گویا، رشک، احمد، منیر اور قمر۔ وغیرہ، اسی طرح آتش کے تلامذہ خاص ہیں؛ زند، صبا، نیتم، خلیل شوق وغیرہ پھر ان شاگردوں کے شاگردوں کے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری ہے۔ اس مختصر کتاب میں صرف چند کاذکر ہو سکتا ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے لکھنؤ کی شعری روایت کی پوری صورت حال سمجھ میں آسکے گی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گی کہ ان دونوں خلیم شعرا کے شاگردوں نے جو طرز شاعری چلا یادہ چلتا رہا مگر اس میں کچھ خالص اضافہ اس وقت تک کہ میر نہیں اور مزادر تیرنے اور کئی خالص شعر ان فن کو زمین سے اٹھا کر آسان تک نہیں پہنچا دیا۔

ناسخ کے مشہور شاگردوں زیر تھنؤ کے رہنے والے تھے اور ایک اہل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ساری ہمدردی سے الگ رکھا اپنے ڈھنگ سے کافٹ دی۔ کہا جاتا ہے کہ واحد علی شامنے دو دفعہ بلایا مگر وہ مال گئے۔ ناسخ کے زنگ میں بہت آپنی غریبی کرتے تھے ان کے بھی بہت سے شاگرد تھے اور وہ لوگ بھی اس طرز کی تروعہ میں لگے ہوئے تھے جسے ناسخ چلانا چاہتے تھے انہوں نے اپنا کوئی دیوان مرتب نہیں کیا مگر جب ۱۹۵۰ء میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگردوں نے غرب میں جمع کر کے شائع کر دیں اور اس کا ام وفتر فصاحت رکھا۔ ان کے کچھ شعر یہ ہیں ।-

جب خفا ہوتا ہے تو یوں دل کو سمجھاتا ہوں میں
 آج ہے نامہ سرپاں، کل ہر بار ہو جائے گا
 تمام لوں دل کو ذرا ہاتھوں سے آپ پہلو سے نہ آشنا جائیے گا

جو کہتا ہوں ترا بیمار ہوں میں تو کیا کتنا ہے، کچھ اپنی دوا کر
 نہیں آشنا کو قابل کی گئی سے کہ ہم بیٹھے ہیں سر سے با تھا انہا کر

ترچھی نظر دیں سے نہ دیکھو عاشق دلگیر کو کیسے تیرا نداز ہو سیدھا تو کرو تیر کو
 او سطھی رشک بھی ناسخ کے خاص شاگردوں میں تھے، انھوں نے زبان کو خالص
 بنانے، لفظ تیار کرنے اور اپنے استاد کے بتائے ہوئے اصولوں کی شرعاً اشاعت میں بڑا
 نام پیدا کیا۔ ان کے دو دیوان بھی شائع ہو چکے ہیں۔ مگر وہ بہبیت روکھی بھیک غزوں سے بھرے
 ہوئے ہیں۔ رشک غائب اُصرف یہ دیکھتے تھے کہ ان کے الفاظ اور محاورے صحیک ہیں یا نہیں
 اس کی فکر نہ تھی کہ شعریں کچھ مزہ بھی مہنا چاہیے۔ ان کا انتقال ۱۸۷۶ء میں ہوا۔ رشک
 نے بھی بہت سے شاگرد چھوڑے جن میں تینرا اور جلال خاص ہیں۔

آتش کے شاگردوں میں نواب سید محمد خاں زند اور پنڈت دیاشنکرنیتیم کا شمار بڑے
 شاعروں میں ہوتا ہے۔ زند اودھ کے خاندان شاہی سے تعلق رکھتے تھے فیض آباد میں لوپن
 اور جوانی کے دن بڑے آرام سے گزرے اس کے بعد لکھنؤ چلے آئے، یہاں بھی زندگی عیش و آماں
 کے لئے رہی آتش کو اپنا کلام دکھاتے تھے اور آخر میں انھیں کی طرح سادہ زندگی بسر کرنے
 لگئے تھے بعدها وہ میں دفات پائی۔ ان کی زبان صاف ستری ہے اور شاعری میں بھی جذبات
 کی کمی نہیں۔ انھوں نے اپنے دو دیوان مرثب کیے تھے جو شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے کچھ شعر
 یہ ہیں:

ہزار بار کیا، میرا امتیاں اُس نے بس آزمائچا، اب آزمائے گا پھر کیا

میں بھلا کیونکر کہوں تم کو بُرا آپ نے جو کچھ کیا، اچھا کیا

وہ دعے پر تم نہ آئے تو کچھ ہم نہ مرجئے کہنے کو بات رہ گئی دن تو گزر گئے

پڑ گئی جان کس عذاب میں ہائے چاہنا بھی بڑی مصیبت ہے

نکھلوا اور سیری ربان چپ رہو کوئی بات منہ سے بخل جائے گی
پنڈت دیا شنکر کوں، جن کا تعلق نصیریہ تھا ایک اچھے کشیری خاندان سے تعلق رکھتے
تھے۔ ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے تھے اور لڑکپن ہی سے غربیں لکھنے لگتے تھے۔ اردو کے ساتھ
ساتھ فارسی کے بھی عالم تھے اور اجنبی طلبی بادشاہ کی فوج میں بخششی کے عہدے پر مأمور تھے وہ
آتش کے مشورہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے غربیں بھی کبھی ہیں ملک حقيقة تھا، اپنے
مشورہ اور لازمیں ملکزادے اُنیم کی وجہ سے مشورہ ہیں۔ نصیر نے کل بیتیں برس کی عمر پانی اور
ستھانکوں میں لکھنؤ ہی میں سفر آخرت اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے الف یلڈ کی کچھ
کمائیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا ایکین وہ دستیاب ہنیں

ملکزادہ نصیر اردو کی مشورہ شنوی ہے جس کا نام میرخن کی شنوی کے ساتھ ریاجاتا ہے
ایک روایت ہے کہ انہوں نے جب یہ نظم لکھی تو بہت طویل تھی۔ مکھ کر جس وقت اپنے استاد
آتش کو دکھائی تو انہوں نے اسے پڑھ کر کہا۔ بیٹا بھلا اتنی طویل نظم کون پڑھے گا با تو تم پڑھو گے
کہ تم نے لکھی ہے یا میں پڑھوں گا اس میں تھار استاد ہوں، جاؤ اس کو مختصر کر ڈالو۔ نصیر
نے اسے مختصر کیا اور آج وہ اردو کے اوپر خود اپنے میں ایک انزوں زتن کی حیثیت حاصل کر
چکی ہے اس شنوی میں محل بجادی کی مشورہ کمانی لکھی گئی ہے: شریں یہ کمانی فورٹ ولیم
کالج کے ایک مترجم نہال چنڈ لا بوری نے پہلے ہی فارسی سے اردو میں ترجمہ کر دی تھی نصیر
نے اس کو نظم کی شکل میں دو آتشہ کیا ہے۔ اس میں نصیر نے بہت سے صنائع کا استعمال کرنے
کے ساتھ ساتھ دارادات قلب کو بھی بڑی خوبی سے پیش کیا ہے یہ شنوی شاعرانہ اور فنکارانہ
تخیلیق کا ایک سمجھ رہ کی جاسکتی ہے۔ نصیر نے بڑی جاندار اور شرگفتہ غربیں بھی لکھی ہیں لیکن
وہ تعداد میں بہت کم ہیں۔ چند شعر یہ ہیں،

نام مرانتے ہی شرمائے
تم نے تو خود آپ کو مرسوا کیا

گریجی ہے اس مکتباں کی ہوا شاخ گل آک روز جبو نکا کھانے گی

روح روان وجسم کی صورت میں کیا کہوں جبو نکا ہوا کا تھا ادھر آ یا ادھر جھیا

اب درد جگر مہوکے کے کھلتا ہے دہن سے وہ جوش جو برسوں مرے سینے میں تھا

جب ہو چکی شراب تو میں مست مر جیا شیشے کے خالی ہوتے ہی پیا نہ بھر گیا
 اس زمانے میں اودھی میں نہیں بلکہ پوسٹ میں غزل بی مقبول صنف سخن سمجھی جاتی
 تھی لکھنؤں قصیدے بہت کم لکھے جاتے تھے، جو کا بازاڑ تھنڈا پڑھ کا تھا۔ نشوونی مکاری بھی
 ایک منزل پر پوچھ پکھی تھی۔ مرثیہ البتہ پچھے چھپوٹا ہوا تھا، اس عہد میں اسی صنف نے سب
 سے زیادہ ترقی کی۔ اس کا ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ سلطنت اودھ، شیعہ مذہب کی پرواری
 کرتی تھی۔ اس نے شہادت حسین کی یادِ محرم میں بڑے حوصلے کے ساتھ منائی جاتی تھی۔
 بیان کے بڑے بڑے امیر اور جاگیر دار چاہئے وہ ہندو ہوں یا مسلمان کسی بھی شکل میں
 اس میں شریک ہوتے تھے۔ اودھ کی تہذیب میں ابتداء ہی سے یہ خصوصیت دکھائی دیتی
 ہے کہ بیان کئی تیواروں میں ہندو مسلمان دونوں مل جل کے حصہ لیتے تھے۔ محرم میں حسین
 بزراروں کی تعداد میں ہوتی تھیں اور ان میں مرثیے بڑے بڑے جاتے تھے اس نے مرثیے کی
 بڑی ترقی ہوئی۔ اس بارے میں ایک بات اور کمی جانشی ہے وہ یہ کہ لکھنؤں کی شاعری میں
 جو صنف اور ایک طرح کا اختلاط تھا اس کا رد عمل ناگزیر تھا اور اس وقت مرثیہ بی نظم
 کی ایسی شکل تھی جس میں زندگی کے اخلاقی اور اعلیٰ اصولوں کی نشر و اشاعت کی جا
 سکتی تھی۔ لہذا اس سے زیادہ موزوں وقت مرثیے کے فروغ کے پیہ میں مل سکتا تھا
 فن کی ترقی کے لیے ایک محول کا ہونا ضروری ہے اور وہ ما حول مرثیے کے پیہ لکھنؤں میں
 موجود تھا۔

مرثیہ محو اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مذہبی یا قومی پیشوایا کسی محبوب شخصیت کی
 موت پر اظہار غم والم کیا ہوا اور اس کے صفات کا بیان اس طرح سے کیا جانے کے
 سختے والے بھی متاثر ہوں۔ اردو میں زیادہ تر مرثیے امام حسین اور ان کے صحابہ کے

بارے میں کہے گئے ہیں جو مسلمانوں کے رسول کے نواسے تھے اور حب کونا مساد خلیفہ اور پادشاہ نیرید نے کرملا کے سیدان میں تین دن کا جھوکا پیاسار کر کر بڑی بے جمی کے ساتھ شہید رہنے والے میں آئی حادثے کو بڑی پسندیدہ اور دلروز صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اُردو میں مرثیے دکن سے ہی ملنے لگتے ہیں مگر ان میں کوئی ادبی حسن نہ تھا، وہ صرف اپنا غم ظاہر کرنے اور امام حسینؑ کے حضور میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھے جلتے تھے اسی طرح دلپوی شاعری کے ابتدائی زمانے میں بھی مرثیے لکھے گئے، وہ بھی کوئی ادبی اہمیت نہیں رکھتے مگر مرزا سودا نے مرثیوں کا ایک پورا دیوان مرتب کیا اور اسٹٹ کو پوری احتیاط سے اپنے سامنے رکھا کہ مرثیے میں ادبی حسن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سے لکھنؤ میں مرثیہ، شاعری کی ایک اہم شکل اختیار کر گیا اور ربعت سے شاہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مرثیے لکھنے لگے ان میں دلگیر، فصیح، خلائق اور ضمیر سبب مشہور ہیں۔ خلائق میرتن دلپوی کے صاحبزادے تھے جن کے گھر میں چار شپتوں سے مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ انھوں نے بھی اعلیٰ پایہ کے مرثیے لکھے۔ میرضیمر نے پہلے پہلے مرثیے کو فنی طریقے سے پیش کیا اور ان میں کچھ ایسے اجزاء بڑھائے جن سے وہ صرف ایک ماتھی نظم نہیں رہ گیا بلکہ ایک وسیع و سہپہ گیر شاعری بن گیا جس میں حادثہ کرملا کا بیان اعلیٰ شاعری کے لوازم کے ساتھ ہونے لگا۔ انھوں نے خود اس کا دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے مرثیے کو انھیں نے شکل دی۔ میرضیمر کے مراثی کے مجموعہ شائع ہو چکے ہیں اور اس کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے بڑے شاعر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صرف مرثیہ گوئی میں صرف کیا۔ شروع میں انھوں نے غزال اور مشنویاں بھی لکھیں اور مصطفیٰ کی شاگردی بھی اختیار کی یہکن بعد میں مرثیہ بھی میں اپنے خلائقی جوہر دکھائے۔ میرضیمر کے بعد دو بہت ہی بڑے مرثیہ گو عرصہ وجود پر آئے۔ یہ تھے میر بزری امیں اور مرزا اسلامت اعلیٰ دہیریہ دونوں اُردو مرثیے کے آفتاب و ماہتاب کے ہلاتے ہیں اور انھوں نے مرثیے کی ایسی عظیم اثاثان عمارت تیار کر دی جس میں پھر کوئی اہم اضافہ نہ ہو سکا۔

میر نہیں میر خلائق کے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت فیض آباد میں ۱۸۰۴ء کے لگ بھگ ہوئی مگر جلد ہی اپنے باپ کے ساتھ لکھنؤ پہنچے آئے۔ خلائق خود ایک بڑے شاہرا اور مرثیہ گو تھے، اس لیے امیں کو مناسب محل ملا۔ باپ کی خواہش تھی کہ امیں صرف مرثیے کیں

اور نیت نے بھی کیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق انہوں نے مشور علما سے فارسی عربی پڑھی تھی اور نہ بھی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ وہ گھوڑے کی سواری اور فن سپر گری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ان کا مزاج نرم تھا مگر ایک خاص طرح کی خودداری بھی ان میں ملتی ہے۔ وہ اپنے اصولوں کو بہت ہر بزرگتھے تھے اور کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ تھے۔ قناعت اور انکسار کو عربی زیر کھٹتھے تھے اس لیے کسی بڑے سے بڑے شخص کا خوف ان کے دل میں نہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا جیشیر حصہ نکھنو، ہی میں گزارا۔ ان کا خیال تھا ان کے کلام کی سب سے زیادہ قدر لکھنؤ ہی کے لوگ کر سکتے ہیں جن کی رُگ رُگ میں شاعری سے لطف اندوں ہونے کا شور رُچ گیا ہے۔ لکھنؤ کے باہر وہ صرف ال آباد، بنارس، ہپنہ اور حیدر آباد گئے جان۔ ان کا بہت اعزاز و اکرام ہوا۔ انہوں نے لکھنؤ ہی میں ۱۸۷۴ء میں گوشہ الحد آباد کیا۔

بچپن میں میر نیت نے ایک آدم غزل میں بھی سمجھی تھیں گمراں کی عظمت کے نشان ان کے مرثیے ہی ہیں۔ تھوڑے سے سلام اور رباعیاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ ان کی تخلیقات کا مجموعہ پانچ جلدیں میں شائع ہو چکا ہے اور کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو ابھی ان کے کہنے کے پاس محفوظ ہے اور شائع نہیں ہوا ہے۔ میر نیت کی شاعری میں دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک عظیم فن کا رکھ کے یہے ضروری ہیں۔ مژشوں میں ہر طرح کے لوگوں کی کردار بھاری ہوتی ہے۔ ان میں اچھے اور بُرے، دوست اور دشمن، بوڑھے، جوان اور بچے، مرد اور عورت، آقا اور غلام۔ سبھی ہوتے ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقاً کمیں بہت چیزیں اور کمیں سادہ، کمیں جذبات و خیالات مرگب اور مستصادم ہیں۔

مگر میر نیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کا ذکر ان کے مزاج اور ماحول کے مطابق کرتے ہیں یہ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفیات انسانی کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے پاس الفاظ کا ایک ایسا خزانہ تھا کہ وہ ملتے جلتے جذبات اور چیزیں کی صورتی بالکل فطری انداز میں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے وقت یہ تھی کہ وہ ایک نہ میں اور تاریخی مسئلے پر تفہیں لکھتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے گھٹانے بڑھانے کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی نظریں امام حسین اور ان کے رفقاء ملکوتی صفات سے پوری طرح آرائستہ تھے اس لیے وہ بہت سوچ بیکھر کر ان کے بارے میں وہ باتیں کہہ سکتے

نئے جن کا ذکر تازخ کے صفات میں نہیں تھا مگر ان کی قوت مشاہدہ اتنی قوی تھی کہ وہ ان واقعات کی تفصیل بھی بیان کر سکتے تھے جو اس عالم میں ممکن تھے۔ یہیں شاعر کی قوت تخلیلہ کا امتحان ہوتا ہے اور میر امیت اس میں کامل اُستَّتے ہیں۔ انہوں نے فطرت کا بیان بھی بڑی خوب صورتی سے کیا ہے اور انہار جذبات میں تو دنیا کے بہت کم شاعر ان کے برابر رکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے مرثیے اخلاقی اور انسانی جذبات کا بڑا خزانہ ہیں جن کے مطالعہ سے انسان میں عزت نفس اور پاکیزہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ مرثیہ درحقیقت غم ظاہر کرنے اور سننے والوں میں جذبات درد پسید کرنے کے لیے لکھا جاتا تھا۔ لیکن میر امیت نے اس کو اعلیٰ پایہ کی رسمیہ شاعری بنانے کا کام بھی لیا ہے۔

امیت اوزمان کے استعمال میں بڑی حمارت حاصل تھی۔ اس وقت تکھنو میں صنائع و بدائع کا استعمال کسی بھی بڑے نامناسب طریقہ سے ہوتا تھا مگر میر امیت نے اپنی شاعری کو اس سے بچانے کی کوشش کی۔ ان کی زبان آسان، شیرسی اور صاف تھی۔ اس کے اسوہ وہ اُسے وقت، مقام اور صورت حال کے مطابق بنانے میں کمال رکھتے تھے۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جس منتظر کی تصویر کیتی ہے وہ مثالی ہوتے ہوئے ہی صیحت کے بہت قریب تھی ہے۔ ان کا موضوع جیسا باوقار اور بلند تھا اس کے نیے انہوں نے دیسے ہی اسلوب کا استعمال بھی کیا اور مرثیہ نگاری کو فن کے اعلیٰ ترین جوہروں سے آراستہ کر دیا۔

مرثیے کے دوسرے شاعر جو اتنے ہی اہم سمجھے جاتے ہیں، مرز اسلامت علی دبیر تھے۔ ان کا مولود تھا۔ اپنے والد کے ساتھ تکھنو چلے آئے تھے اور تمام زندگی یہیں بسر ہوئی۔ مرز ادبیر نے اچھی تعلیم پائی تھی اور اس وقت جن مظاہرین کا پڑھنا ضروری تھا ان سب کو بڑے شوق سے حاصل کیا تھا۔ وہ لذکپر انہی سے مدد ہب اور شاعری دونوں کو عربیز رکھتے تھے اس لیے انہوں نے شاعری کے لیے مرثیے ہی کو پسند کیا اور میرضییر کے شاگرد ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں تکھنو میں اور تکھنو کے باہر ان کا نام پھیل گیا اور جو کے شاہی دربار میں بھی ان کی عربت بھی ہوتی تھی جس قبت ان کی ناموری کا آفتاب عروج پڑ پسخ چکا تھا، میر امیت کا نام بھی چکا اور دونوں میں کھلے ڈھکے مقابلے بھی ہونے لگے مرز ادبیر بھی تکھنو کے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کا بھی بیسی خیال تھا کہ ان کے کلام سے

پورا لطف یہیں کے لوگ اٹھا سکتے ہیں، مگر ۱۸۷۸ء کے خدر کے بعد مرث آباد اور پٹنہ گئے۔ ۱۸۷۸ء میں لکھنؤ میں ہی مزاد آبیر کا انتقال ہوا۔

مرزاد آبیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً تین ہزار مرثیے کئے جس کا بیشتر حصہ اب دستیاب نہیں ہوتا ان کا کلام لکھنؤ کی شاعری سے تاثر ہے۔ ان کے خیالات بہت بلند اور نازک اور طرز بڑا مشکل تھا۔ اس میں صنائع کی بہتاں سے اور بھی پیچہ گی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس میں مشہد نہیں کہ مرزاد آبیر بڑے عالم تھے اور کربلا کے امیہ کو بڑی تعظیل سے جانتے اور بیان کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے فن کے ان نازک آلات سے کام نہیں لیا جن کا استعمال میر انیس نے کیا تھا۔ اپنے وقت میں تو انہوں نے لوگوں کو بہت تاثر کیا مگر جب بعد میں صنائع کا شعبدہ ختم ہوا تو ان کی شاعری کسی قدر مصنوعی معلوم ہونے لگی۔ مرثیے کے لیے جو وزن و قارہ اور احساس عظمت ضروری ہے وہ آبیر کے یہاں میں ملتا۔ جب کسی کلام کے سنبھالے والے لفظوں کے معنی اور صفتیوں کے پوشیدہ اسرار کی تلاش میں لگ جائیں تو اس کا اثر ضروری کم ہو گا، یہی بات مرزاد آبیر کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ انیس آبیر کا موضوع ایک تھا، زمانہ ایک تھا، صرف سخن ایک تھی، اس لیے ہر نقاد ان کا موازنہ کرنے لگتا ہے۔ لکھنؤ میں تو دو گروہ بن گئے تھے جو انیسے اور آبیر پر کہلاتے تھے اور ان میں آپس میں خوب چوٹیں چلا کرتی تھیں، لیکن آج کا ناقابل غیر کسی دشواری کے پیغام کر سکتا ہے کہ شاعری اور فن کاری کے اعتبار سے آبیر انیس کو نہیں پہنچتے۔ زبان، طرز اور حقیقت نگاری کسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، انیس دنیا کے عظیم شعرا میں شمار ہوں گے۔

لکھنؤ میں مرثیے کو جو ترقی ہوئی اس نے پوری اردو شاعری کی حدود کو وسیع کر دیا اور لکھنؤ میں جو اخطاط اپنی قدیمی کرچکا تھا اس کو روک کر شعری تخلیق کے خٹے دروانے کھول دیے۔ بہت سے نقادوں کا خیال ہے کہ مرثیے میں جو طرز اپنا یا گیا، اس سے جدید شاعری کو بھی فیضان ملا۔ مگر یہ کچھ بہت نہیں ہے، کیونکہ موجودہ شاعری جن مسائل کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے وہ مرثیہ گویوں کے سامنے نہیں تھے۔ شی شاعری میں ایک نئے شعور کا طلوع دکھانی پڑتا ہے۔ مرثیے میں جو جدت ہے وہ شعور کی جدت نہیں ہے بلکہ موضوع کے پیش کرنے کے انداز اور طرز کی جدت ہے۔ میر انیس اور

مزادبیر کے بعد بھی مرثیے لکھتے جاتے رہے۔ آئیں کے دو بھائی مونس و ار ان میں بھی بہت بڑے مرثیہ نگار تھے۔ میر آئیں کے تین بیٹے مرثیے ہی لکھتے تھے جن میں نفیتیں کوکم و بیشی دی اپتیت دی جاتی ہے جو خود آئیں کو حاصل ہے۔ اس خاندان میں آج تک مرثیہ گو چلے آ رہے ہیں مگر سماجی، مذہبی اور سیاسی صورت حال کے بدال جانے سے اب ادب میں مرثیے کا وہ مقام نہیں رہ گیا ہے جو پہلے تھا۔ اسی طرح مزدادبیر کے بیٹے آج بھی بڑے مشہور مرثیہ گو ہوئے ہیں۔ اس خاندان میں بھی آج تک مرثیہ لکھا جا رہا ہے اور یہ بات سب سے ریادہ و لچک ہے کہ دونوں خاندان اپنے اسلاف کی روایت کی مسلسل پریڈی اور پابندی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ ان کے رشتہ داروں میں بھی کئی مشہور مرثیہ گو ہوئے ہیں جیسے عشق اور عشق، رشید عارف اور رحید وغیرہ عشق اور عشق دونوں بھائیوں نے مرثیے میں نئی دلگز نکالی۔ انہوں نے مرثیہ کے دھانچے میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی، مگر زبان کے کچھ ایسے قواعد کی پابندی کی جھپیں آئیں، دبیر اور ان کے مقلد تعلیم نہیں کرتے تھے۔ تعشق غزل کے بھی اچھے شاعر تھے اور ان کے مرثیے پر غزل کی شیرینی کا اثر نمایاں طور سے دکھائی دے جاتا ہے۔ لیکن وہ ان کے رزمیہ عناصر سے متعلق جذبات کو مانند نہیں کرتا۔ آئیں اور عشق دونوں سے متاثر ہونے والے مرثیہ نگاروں میں پیارے صاحب رشید کا مقام بھی بلند ہے۔ کچھ سی دقت میں اتنے مرثیہ نگاروں کا جمیع ہو جانا ادنیٰ تابعیت کا قابل غور واقعہ ہے۔

اگر لکھنوں کے مکتبہ اعری کی خصوصیات کو اختصار سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہاں شعر گوئی کا آغاز انھیں شوا کے ہاتھوں ہوا جو دل سے آئے تھے مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد لکھنوں کی سماجی اور اقتصادی حالت میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں جن میں یہاں کی زبان اور ادب دونوں کا دل سے الگ اسلوب بن گیا۔ ابتداء میں تو یہ تبدیلیاں نادافته اور لا شعوری طریقے سے ہوئی ہوں گی مگر بعد میں یہاں کے شاعروں اور ادیبوں نے شعوری طور پر اپنے زنگ کو دل سے الگ کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کو کامیابی بھی ہوئی۔ او وہ کی پوری تہذیب اور زندگی میں ایک خاص طرح کی پیک اور نز اکت پیدا ہو گئی، جس نے خارجی حسن اور اس کے بیان کو صنعت کے زنگ میں رنگ دیا اور مکھنے والوں نے انفاظ کا ایک ایسا ڈھونگ کھڑا کر دیا کہ زندگی کے

مسئلہ و موضوعات کی سنجیدگی اسی میں ڈوب کر رہ گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ لکھنؤ نے زبان کو خوبصورت اور لچکد ارتبانے میں بڑا کام کیا مگر اس کا۔ اگر دینیت جب یہ ہوا کہ بہت سے شاعروں نے صرف الفاظ کے استعمال کو شاعری سمجھ دیا اور صنعتوں کے استعمال میں اپنی پوری طاقت لگادی۔ کچھ شاعر اور رخاصل کو مرتباً گوایسے ضرور ہوئے جنہوں نے اپنی کخشی اسی سمندر میں چلا کر بھی سنجیدہ اور عنیطہ شاعری کی تخلیق کی اور اپنے دامن کو ان بڑائیوں سے بچا لیا جن کے لیے لکھنؤ بذمام ہو رہا تھا۔

گذشتہ صفات میں یہ بات واضح طور پر کمی جا چکی ہے کہ لکھنؤ اور دلی کا جنگرا انتقاد تو نے جس طریقے سے پیش کیا ہے، اس کی وہ تشكیل نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کی سیاسی صورت حال جس طرح تشكیل پاری تھی اس میں دلی اور لکھنؤ کے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں تھا، اقتصادی ڈھانچے بھی یہاں تھا صرف اور پری طور سے اور عارضی تبدلی ہوئی تھی جو ادب کی بنیاد کو نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی تک وہ روایتیں خاصی مصبوط تھیں جن کو سامنٹی تہذیب نے جنم دیا تھا۔ اگرچہ ہندوستان کی زندگی میں مغربی خیالات داخل ہو رہے تھے مگر ابھی تک عام زندگی اس سے متأثر نہیں تھی اور بیشتر لوگ اپنے ماں سے چھپے ہوئے تھے۔ اس طرح دلی اور لکھنؤ کا فرق انداز بیان میں زیادہ اور معنویت میں کم سے کم ہے اور اس کا مطالعہ اس روشنی میں کرنا چاہیے۔

چھٹا باب

نظرِ اکبر آزادی اور ایک خاص روایت کا ارتقا

بیان تک پڑھ لینے کے بعد اس مختصر تاریخ کے قاری نے اس بات کا احساس ضرور کیا ہو گا کہ اگرچہ تاریخی اسباب کی بناء پر اردو نے فارسی زبان اور اسی کے ساتھ ساتھ ایرانی خیالات کا اثر قبول کیا مگر اردو ادب میں اس کے باوجود مقامی رنگ اتنا گھر ارہا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اس غیر ملکی اثر کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں جو وقت کے حالات کا نتیجہ تھے اور ان پر کسی کا بس نہیں تھا۔ مگر سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس زنجمازنگی میں بھی ہندوستانی تہذیب ایک طرح کی یک جمی کا منظر تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اور زمانیاں ہوتی جا رہی ہے۔ انہمار ہوئیں صدی کے آخر اور انہیوں صدی کے شروع میں جانبداری دور کا زوال اور زمینی طاقتون کا طلوع نئے مسائل پیدا کر رہا تھا اور سیاسی تبدلیوں نے ثقافت کی نشوونما کو روک دیا تھا۔ اس لیے اس کے کسی حصے میں ترقی نہیں کھائی پڑتی۔ صرف شاہی دربار اور پایہ تخت یا اس سے تمہور آگے بڑھ کر کچھ خاص خاص شہزادب، فن اور ثقافت کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ایسا ہر ٹک میں اور ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ زبان اس طرح ادبی ہو کر محدود ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ادب میں بھی کچھ مخصوص باتیں تعلیم کر لی جاتی ہیں اور انھیں توزنے کی کوشش کرنے والے کو سبھی اس کے زمانے میں اہمیت نہیں دی جاتی۔

آردو نے بول چال کی زبان کی صورت میں ترقی کی، مگر جب اس نے ادب میں ایک مقام حاصل کر لیا تو اس کے ناپ توں کے پیمانے بدلتے اور مرکزوں میں محدود ہو جانے کے باعث اس کا تعلق تھوڑا بہت عامتہ انسان سے لوٹ گیا۔ ادب پر تو ضروری اس کا گھر اثر پڑا۔ جیسا کئی مقامات پر اشارہ کیا جا چکا ہے اس وقت سماجی اور اقتصادی زندگی کے حل و دھارے دو تھے: ایک طرف عوام انسان تھے جن میں بشریت کسان اور پلے درجہ کے عام لوگ تھے دوسری طرف بادشاہ بجا گیردار، فوج کے بڑے افسروں رہبا سے متعلق لوگ تھے جنہیں اونچا طبقہ کہا جاسکتا ہے۔ متوسط طبقہ ٹھیک سے سید انہیں ہوا تھا، زیادہ سے نیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ متوسط طبقے میں ہو سکتے تھے وہ بھی ڈاغی طور پر جا گیردار از زندگی سے متاثر تھے۔ اس لیے ادب میں بھی دونوں ہو جاتے ہیں جذبہ کسی بڑے اویب کی تخلیقات میں وسیع پیمانے پر ملتے کہانی پڑتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اویب صرف اونچے طبقے کے لوگوں کے جنہات کی مصوری کرتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا شور شاہی دور کے خیالات۔ اخلاقی اصولوں تعلیم سے متعلق قاعدوں سے بنتا تھا اور وہ انھیں روایات کی پریوی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر بھی جہاں کمیں نوع انسانی کی بہبود اور پامال لوگوں کے ساتھ انصاف کا سوال اٹھتا تھا، یہ شاعر سب پابندیوں کو توڑ دیتے تھے۔ وہ مذہب، سیاسی رہنمائی اور معاشی امتیازات کی خلافت کرتے تھے، کیونکہ انھیں کی مرد سے انسان کو طبقوں اور گروہوں میں بانٹا جاتا تھا، یہ باتیں کچھ تو تصوف کی بلند اور وسیع نظر کا نتیجہ بھی جاسکتی ہیں اور کچھ فرد اور سماج کے درمیان اخلاقی تعلق قائم کرنے کی کوشش میں پیدا ہوئیں۔ اس روایت کو چلانے میں سبھی عظیم شعرا کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ مجدد قلن قطب شاہ، ولی، تیرست رجہ درود، آتشن، غالباً اور دوسرے شعرا اسی روایت کی پریوی کرتے تھے۔ اعلیٰ شعری ادب کی خصوصیت سبھی ربانوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان کے خلاف نا انصافی کا احساس صاحب دل شاعروں کو پہلے ہوتا ہے اور وہ ایک خاص طبقاتی سماج میں رہتے ہوئے بھی عام لوگوں کے ساتھ فرخدا چند بنظاہر کرنے کی جو اُر رکھتے ہیں۔

اُن میں شبہ نہیں کہ آردو میں اچھا عوای ادب جنم میں لے سکا، اس کا سب سے

بڑا سبب یہ ہے کہ اُردو زبان کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ہندوستانی ثقافت ایک مخصوص شکل اختیار کر چکی تھی، کئی زبانوں کے ادب رائج تھے اور جب اُردو ایک نئی زبان کی شکل میں ابھری تو اس کے سامنے ادب کے جو اچھے نونے موجود تھے، اس نے انھیں کی راہ اختیار کر لی۔ جب تک وہ بول چال کے کام میں لائی جاتی رہی اس نے عوام کے خیالات اور برتاؤ کی بنیاد پر ترقی کی اور بہت سے محاورے جو زندگی کے عالم معمول سے تعلق رکھتے تھے، رائج ہو گئے۔ ابتدائی حالت میں اردو ادب میں سادگی تھی مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ادبی زبان میں فارسی عربی انگلیزی سے مدد لی جانے لگی اور زیادہ تر ان خیالات کا چسیر چاہونے لگا جو سندھ و ستانی عوامی زندگی کے مزاج سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے تھے۔ دیسی اور شہری زندگی میں فرق پیدا ہو چکا تھا اور شہروں میں بھی لوگ اپنے ہی طبقے کے لوگوں سے ملتے تھے اور اس بات کو اپنی آن بان کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اس طرح اردو شاعری عوامی ادب دوسری چیلی گئی۔ اردو شاعری کے اس پہلو کا مطالعہ کرتے وقت ایک اور طرف دھیان دنیا سو مند ہو گا۔ اردو کے مشیر شاعر صرف فارسی زبان اور اس کے اصول شاعری کے واقف کا تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو فارسی کو اُردو سے برتر سمجھتے تھے اور اسی زبان میں تھکنے کو تہذیب کی حلامت جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ ہندی سے بھی واقف تھے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہندی اصول شاعری کے عالم تھے اس لیے وہ اپنی شاعری میں فارسی کے اصول شاعری اور اصول تنقید سے استفادہ کرتے تھے۔ فارسی کی تنقید شاعری پر اسٹھو کا گہرہ اثر پڑا تھا۔ اور اسی کی وجہ سے فارسی نقاد بھی اس اصول کو ماننے لگے تھے کہ شاعری اور تاریخ میں پیش ہونے والے واقعات میں فرق ہونا چاہیے۔ تاریخ میں خاص واقعات کا بیان ہو گا اور شاعری میں عمومی حقیقت کے اور عام واقعات کا، یعنی سبب ہے کہ غزل میں، جو اردو اور فارسی کے شعری اد کی سبب ہر دل ہو زیستیت ہے یا یہے جذبات اور احساسات کا بیان ہوتا ہے، جو ایک ہی طرح کے بہت سے واقعات پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ اردو شاعری کی اس خصوصیت کو دھیان میں رکھنے سے کئی باطل کسمجھنے میں مدد لی گی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خاص واقعات اور مسائل پر زیادہ تفہیم کیوں نہیں بھیجیں۔ شاعری کو زیادہ

سے زیادہ عالمگیر اور آفاقتی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ راہ پکڑ دی تھی۔ اس کے سماجی اور اقتصادی اسباب کا سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بہت سے شاعر لوپری طرح عوام کی عام زندگی سے واقعہ بھی نہ تھے جن کو اس کا تھوڑا بہت تجربہ تھا اور جس طرح کا تجربہ تھا اس کا ذکر انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ضرور کیا ہے۔

ایسے ہی ایک شاعر نظیر اکبر آبادی ہیں جو اپنا کوئی مثل نہیں رکھتے نظیر کی پیدائش دلی میں نہ کر کے قریب ہوئی مگر ان کی پوری زندگی آگرہ (اکبر آباد) میں گذری، دبی آگرہ جو غلشن شہنشاہ اکبر کی راحدہانی رہ چکا تھا اور جس کے چاروں طرف کرشن بھگتی کی وہ دشیوں تھریکِ سیلی ہوئی تھی جس نے سور داس اور تیرا نانی کے گیتوں اذکر بنوں کو جنم دیا تھا، جہاں عظیم اشان قلعہ اور تاج محل کھڑے کیے گئے تھے۔ یہاں کی ہواں میں رادھا اور کرشن کی محبت اور بھگتی کے گیت گونج رہے تھے جہاں سے قریب تھرا اور برلنڈا بن کے میلوں اور تہواروں میں شرک ہو کر عوام کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نئے معاشری حالات کے زیر اثر ہندوستان غریب ہوتا جا رہا تھا، تاجر اور اہل حرف بیکار ہو رہے تھے۔ ملک کی دولت سمندر پار جا رہی تھی اور دبی زندگی کا وہ دھانچہ نوٹ پھوٹ رہا تھا جو صدیوں سے ملک کی زندگی کو باندھ سے ہوتے تھے۔ نظیر اکبر آبادی کی عمر اسی آگرے میں کٹی جس کے ذرہ ذرہ سے انھیں محبت تھی خود کہتے ہیں:

عاشق کہو، اسیر کہو، آگرے کا ہے
ملاؤ، دبیر کہو، آگرے کا ہے
خداں کہو، فقیر کہو، آگرے کا ہے
شاعر کہو، نظیر کہو، آگرے کا ہے

اس لیے ان کی شاعری میں وہی زندگی سانس لیتی معلوم ہوتی ہے، جو آگرے میں اور اور اس کے چاروں طرف تھی۔

نظیر کا نام ولی محمد تھا جب رواج انہوں نے فارسی عربی پڑھی تھی مگر انھیں ن زبانوں کا بڑا حالم نہیں کھا جاسکتا۔ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ لرکوں کے پڑھانے میں

گزارا۔ آخر میں لالہ بلاس رائے کے لڑکوں کو سڑھ رونے پر ماہوار پر فارسی پڑھانے لگے تھے۔ ایک وقت کا کھانا انھیں کے یہاں کھاتے تھے جو ان میں زندگی کے عیش و آرام تنفسی اور منداق سب میں حصہ لیا تھا، کھیل کو دیکھنے والے بازی، تیراں کی، کرت کشتی، بکوتی بازی بھی دچپیوں سے جی بہلاتے رہے تھے مسلمانوں اور مندوں کے تھواروں خاص کر ہوئی و دیوالی، راکھی، کرشن جنم میں ضرور حفہ لیتے تھے بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اور دھرنا کھجھت پور کے شاہی درباروں سے دعوت نامے ملے مگر انھوں نے آگرے کو چھوڑ نامنظور نہیں کیا اور نفع یا سکون کی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی قربانی ہے مگر درحقیقت یہ عمومی زندگی سے محبت اور وہ ورنگی ہے جو دربار سے بندھ جانے کے بعد ختم ہو جاتی۔

نظیر نے ایک طویل عمر مانی۔ اس میں انھوں نے آرام بھی اٹھایا اور زندگی کے دکھ بھی سہے۔ اس میں وہ محبت کی پنگوں میں بھی جھولے اور فقروں کی ایسی زندگی بھی گزاری۔ آگرے کے بڑے بڑے لوگ ان کی توقیر و تعظیم کرتے تھے اور استھصال کا شکار مختلف طبقات کے عوام سے بھی ان کا یارا نہ تھا۔ یعلوٰ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے یہاں اونچ پنج، ہندو سلم، چھوٹے بڑے کا انتیاز مٹ گیا تھا۔ ان کے مزاج میں ایسی سادگی اور بر تاؤ میں ایسی بے ریاضی پانی جاتی تھی کہ سبھی ان کے دوست تھے۔ بھکاری اور خواصے والے بھی ان سے اپنے یہے نظیں لکھا لیتے تھے۔ آگرہ کے محلہ تاج گنج میں رہتے تھے۔ وہیں ۱۸۳۷ء میں ان کی وفات ہوئی اور گھر بھی کے اندر ان کی قبر بنی۔ نظیر ایسے خدا پرست تھے کہ ان کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے انھیں بڑا صوفی فقیر سمجھا اور رہت دلوں تک ان کی قبر پر ہر سال میلہ گلزارا۔ ان کے بیٹے خلیفہ گل۔ ار علی آئیر بھی شاعر تھے۔ کئی شاگرد بھی تھے جن میں بالکل کو شہرت حاصل ہے، انھوں نے شعر اکا ایک تذکرہ بھی مرتب کیا تھا جس میں نظیر کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے کیونکہ دوسرے تذکرہ ٹگاروں نے انھیں بازاری شاعر سمجھو کر نظر انداز کیا تھا۔

نظیر کے دو دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ایک میں ان کی نظیں ہیں اور اس کا نام ملک نظیر ہے۔ یہ دیوان بار بار چھپ چکا ہے۔ ہندو میں بھی اس کے کچھ حصے ہیں۔ بیجہ ہو چکے ہیں۔ دوسرا دیوان ایکی کچھ برس پلے دستیاب ہوا۔ اس میں صرف غزلیں ہیں۔ آئسے ہی

شائع کر دیا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ ابھی ان کی بہت سی نظیں لوگوں کے پاس اور ادھر اور ہیں۔ مگر یقینی طور سے اس بارے میں کچھ کہانا ناممکن ہے۔ دوسرا مجموعہ ملنے سے یہ تو ہوا کلام نظری کی غربوں کے بارے میں تھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مگر آج بھی انھیں مندرجہ ادبیات میں جو غلطت حاصل ہے وہ نظموں ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں مہدوتوانی زندگی اپنی تمام اچھائیوں اور بُرائیوں کے ساتھ جی اٹھی ہے۔ اس کلیات کا ایک حصہ کرش جی، ہادیو جی، بھیروں جی وغیرہ پرکھی ہوئی نظموں سے بھرا ہوا ہے۔ نظر سے پہلے زیادہ تر شرعاً عام موضوعات پر لکھنے اور عوام کی زندگی کی تصویر کشی کرنے میں بحکمت تھے مگر نظر نے اپنے طبقے کے خیالات میں ایک ایسا چور دروازہ بنادیا جس میں سے ہو کر عوام کا جلوس قصر ادب میں گھس آیا۔ شاعری کی اس عظیم روایت کے ساتھ نظر اکابری کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اصل میں تو یہ دی روایت تھی جسے امیر خسرو نے جنم دیا تھا مگر درمیانی میں زندگی سے اس کا وہ پلاس اگہر اتعلق نہیں رہ گیا تھا۔ نظر نے اسے مستحکم دیکھ اور مقبول ہماں بنا یا۔ امیر خسرو کے بعد صوفی شرعاً نے گوکنڈہ کے قلی قطب شاہ نے، جنفر ڈلی نے دلی کے فائز اور حاتم نے اسے ہلاکت سے بچایا تھا، نظر نے اسے آسان تک بلند کر دیا۔ ایک ہندی ادیب نظر کی فرائدی اور اردو ادب کی ایک نئی روایت کا نئے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ :۔

.... اس خفک اور اجاڑ سکم پر آگز نظر نے اذان بھی دی اور سنکھ بھی پھونکا،
تبیع بھی لی اور جینو بھی پہنا، حرم میں روئے تو ہولی میں بھانڈ بھی بخے، رمضان
میں روزے رکھے تو سلونوں پر راکھی باندھنے کو مچل پڑے، شبرات پر متابا یا
چھوڑیں تو دیوالی پر دیپ سجلتے، بنی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر کے لیے جی بھر کے
لکھا، تو کرشن، ہادیو، نرسی، بھیروں اور نانک کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔
گل و بلبل پر کھاتو آم اور کوئل کو پہلے یاد رکھا۔ پردے کے ساتھ بننی ساری
بھی یاد رہی۔ اور تو اور گرمی، برسات اور سردی پر بھی لکھا۔ تجوں کے لیے رات پچھے
کا بچھ، گتو اور ہرگز، گلہری لا بچھ، تربوز، کنکوئے بازی، بلبلوں کی لڑائی، لکڑی
تیراکی، ہمل کے لذوں پر سخنے میٹھے تو پیچنے تھے ہر ایک بچھ گھلی کوچے پیں گھاتا پھر رہا
ہے۔ جو الوں اور بوڑھوں کو پسند دینے میٹھے تو لوگ وجد میں آگئے۔ جیسے قرآن،

حدیث، وید، گیتا، اپندر، پران، سب گھول کر پی جانے والا کوئی پونچا ہوا
بزرگ بول رہا ہو۔

یہ کہنا صحیک نہیں ہو گا کہ نظیر کے یہاں اُردو شاعری کی وہ روایات بالکل نہیں
ہیں جفیں سلفتی تندیب اور ایرانی اثرات نے جنم دیا تھا اور نہیں کہنا صحیک ہو گا
کہ دور حاضر کی حقیقت پسندی اور قومی شعور کا آغاز نظیر کی شاعری میں دیکھا جاسکتا
ہے کیونکہ یہ دونوں باتیں ناممکن تھیں مگر ان کی شاعری میں جو سچائی ہجود عین پستی، عام
زندگی کی جھوادقیمت، انسان کی جو محبت، جو وسعت قلب اور جو سادگی ملتی ہے وہ
اس سے پہلے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتی تھی۔ ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ ہم قدم جائے زمین پر کھڑے ہیں ہمارے چاروں طرف انسان بے کھٹکے چل
پھر رہے ہیں، اپنے دلیں کے جاڑے، گرمی، برسات آتے ہیں اور ہم ان جانے بوجھے
موسموں کا لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ الگ الگ مگر وہوں اور ذاتوں کے لوگ متعدد ہو گئے
اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے، جانور، چڑیاں سب موجود ہیں اور ساری فضادوں ہے
جس میں ہم رہتے ہیں۔ ان چھوٹے موضوعات پر زندہ نظیں لکھنا کسی معمولی یا چھوٹے
شاعر کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل ہمدردی سے ببریز، مشاہد
گمرا اور عام زندگی کا احساس قوی ہو۔ نظیر میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ نظیر کے
خبرے کا میدان آتنا ویسے ہے کہ وہ مہند و ستانی زندگی کے بارے میں سبھی کچھ جانتے
ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نظیر کے پاس کوئی عین فلسفیانہ نظر نہیں ہے
مگر وہ زندگی کے سائل میں اس طرح رہے بہت ہے ہیں کہ انھیں سب باتیں اپنے آپ
معلوم ہیں۔ وہ مغلی کے اسباب، زندگی اور مذہب کے تعلق، ملاقات کے اختلاف،
انسانیت کی ضروریات، سب کچھ جانتے ہیں اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی سیدھی
سادھی نظموں میں یہ تمام باتیں کیسے سماگئی ہیں۔ جب وہ برسات، آندھی، آندھیری رات
آنداز، تیراکی وغیرہ پر لکھتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ باتیں ان کے منہ میں نکل
رہی ہیں، بلکہ ان کو انہوں نے ہر موقع اور ہر نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے زندگی کو جیسا
دیکھا اور پایا تھا ویسی ہی اس کی مصادری کر دی، لیکن ہر محل یا ان کا نقطہ و نظر عوام کا

نقطہ نظر ہے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ ملک کے معاشری مسائل کو سائنسی طریقے سے نہیں جانتے تھے، طبقات کے داخلی تصادم کا کوئی خاص علم نہیں رکھتے تھے مگر ایک پچھے انسان دوست ہونے کے باعث وہ عوام کے ڈکھ سکھ کا اندازہ لگایتے تھے کیونکہ وہ انھیں میں سے ایک تھے۔

نظیر کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کی زبان آگرہ کی بول چال کی زبان سے بہت قریب ہے۔ اس میں کہیں کہیں کھڑی بولی اور برج کامیل ہے۔ ایک آدمی نظموں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی، فارسی کے علاوہ اودھی اور پنجابی بھی جانتے تھے۔ اختصار کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام عظیم شعراء کی طرح زبان کا استعمال نظیر کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں تقاضہ ہیں تخيیل کی نظر سے طرح طرح کی سخت نامہواریاں ہیں مگر ان کی صداقت اور انسانیت درستی سب پر پردازہ ذوال دستی ہے۔ اور ان کی نظیں پڑھتے ہوئے بند اور زندہ ہوئے ماحول سے بخل کر ہم کھلی ہوا میں آجاتے ہیں۔ بنوئے کے لیے کچھ نظموں کے اجداد یہ جاتے ہیں:

دنیا میں بادشہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
زردار، بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
مکرے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یاں میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں
پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں
جو ان کو تمازتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

یاں آدمی پہ جان کو دارے ہے آدمی اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی
پگڑی بھی آدمی کی اٹاکے ہے آدمی چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی
اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

(آدمی نامہ)

بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مغلی کوئی کی چھت نہیں ہے، یہ جھائی ہو مغلی
دیوار دربار کے پچ سائی ہے مغلی بگھر میں اس طرح سے پھرائی ہے مغلی

پانی کاٹ جاوے ہے جو ایک بار بند
 اب آگرے میں چتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ آہنا نظر تھی کا نہیں ایک دم نہیں
 مانگو عزیز والیسے بُرے وقت سے پناہ وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب نہیں آہ
 کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند
 صراف، بنیئے، جو ہری اور سیٹھ سا ہو کار دیتے تھے سب کو فقد سو کھلتے ہیں بُدھار
 بازار میں اڑے ہے پری خاک بیٹھار بیٹھے ہیں یوں دکانوں پر اپنی مُدکاندار
 جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند
 قسمت سے چار پیسے جنگیلی تھے آتے ہیں البتہ روکھی سوکھی وہ روٹی پکاتے ہیں
 جو خالی ہاتھ آتے ہیں وہ قرض لیکے جاتے ہیں یوں بھی نہ پایا کچھ تو فقط عنم کو کھاتے ہیں
 سوتے ہیں کر کواڑ کو اک آہ مار بند
 جتنے ہیں آج آگرے میں کارخانہ جات سب پر پری ہے آن کے روزی کی شکلات
 کر کس کے دکھ کو روئیے اور کس کی کیبیات روزی کے اب درخت کا لٹا نہیں ہے پاٹ
 ایسی ہوا کچھ آکے ہوئی ایک بار بند

(شراشوب)

جب آدمی کے حال پر آتی ہے مغلسی کس کس طرح سے اُس کو ستاتی ہے مغلسی
 پیاس انام روز بھاتی ہے مغلسی بھوکا تمام رات سُلاٹی ہے مغلسی
 یہ دکھ وہ جانے جس پر کہ آتی ہے مغلسی
 مغلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر دیتا ہے اپنی جان وہ اک ایک نان پر
 ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر جس طرح کتے لڑتے ہیں اک استخوان پر
 دیسا ہی مغلسوں کو لڑاتی ہے مغلسی

(مغلسی)

ہے ریت جنم کی یوں ہوتی جس گھر میں بالا ہوتا ہے
 اس منڈل میں ہر من بھتیر سکھ چین دو بالا ہوتا ہے
 سب بات بتھا کی بھوے ہے جب بھولا بھالا ہوتا ہے
 آندہ منڈلی باجت ہے نت بھون اجا الاموتا ہے

یوں نیک نجھر لیتے ہیں اس دنیا میں سنوار جنم
 پر ان کے اور وی تھپن ہیں جب لیتے ہیں ذات جنم
 شہد ساعت سے یوں دنیا میں اوتار گرچھو میرا تے ہیں
 جو نارومنی ہے دھیان بھلی سب اسکل بھید تباہتے ہیں
 وہ نیک ہورت سے جس دم اس مرشد میں جنیجے ہاتے ہیں
 جو لیلا رچنی ہوتی ہے وہ روپ یہ دکھلا جاتے ہیں

یوں دیکھنے میں اور کھنے میں وہ روپ توبالے مختی ہیں
 پر بالے ہی پن میں ان کے اپکار نہ لے ہوتے ہیں
 (جم کھنیا جی)

یہاں نظر کی اس سے زیادہ تنظیم دنیا حکم نہیں ہے۔ مگر اس باب کو تمام کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ نظر کی شعر گوئی کا بیان الگ سے ایک باب میں اسی لیے کیا گیا ہے کہ تھوڑا بہت رسی اور مرداج شاعری کی پروپری کرنے کے بعد سہی نظر نے اپنا طرز سے الگ نکالا، وہ نہ دتی کے مرکز میں رکھ جاسکتے ہیں اور نہ لکھنؤں کے مرکز میں وہ خود نئی روشن کے موجود ہیں اور کسی بٹے بنائے راستے پر چلنے کے بجائے اسی راہ آپ بننے والے۔ خصوصیت انھیں اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ انھوں نے زندگی کے سمجھنے میں کسی فلسفہ یا روایت کا سہارا نہیں لیا بلکہ اس میں خود دب گئے اور وہ لکھا جو کسی اور نہ نہیں لکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وقت میں تقاضوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور وہ طرز رانچ نہ ہو سکا جسے نظر نے اپنایا تھا۔ مگر آج ان کا اثر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اردو کے غلیم شاعر جوش بیج آبادی اور مشہور شاعر احسان تلاش صرف ان کی بڑائی کو ہی نہیں مانتے بلکہ ان سے متاثر بھی ہیں۔ آج کے تقاضے بھی قدیم تر ذکر نہ نہیں کیا جائے بلکہ ان میں مبنید مقام دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جدید نقطہ نظر سے شاعری اور زندگی میں جس رشتے کی تلاش کی جا رہی ہے اس کے خوبصورت نونے نظر کے یہاں ملتے ہیں اور وہ روایت درخشاں ہو کر راہ نمائی کرتی ہے جس پر چلے بغیر ادب ایک چھوٹے سے دائرہ میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔

ساتوال باب

قدیم دل کی آخری پہار

اوہ میں شعر و فن کی ترقی کا تذکرہ کسی تدقیقی میں سے ہو چکا ہیکن اس سے پہلے جب ہے نے دل کی شاعری کی خصوصیات اور اسالیب کا بیان کرتے ہوئے یہ بات ہی تھی کہ دہاز، کی رونق کم ہو گئی اور دستان لکھنؤ کی سرگرمیاں بڑھیں تو اس سے یہ مقصد نہیں تھا کہ دل کا بازار شاعری بالکل سرد ہو گیا تھا بلکہ ہمیں تاریخ کی اس روشن کا احساس دلاتا تھا جو حالات کے بدلتے پر کسی کی رونق گھٹا دیتی ہے اور کسی کے جذب کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ گذشتہ صفات کی یاد نمازہ کی جاتے تو خیال آئے گا کہ اس کا تھا نہ صدی کی دل کے تذکرے میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ مندوستان کا عظیم شہر سیکڑوں بادشا ہوں اور شہنشاہ ہوں کی راج دھانی رہ چکا تھا۔ کبھی اچھے دن دیکھئے تھے کبھی بُرے مگر اس دفعہ جب اس کی رونق گھٹتی تو بہت سی تبدیلیوں کے دروازے کھل گئے اور روز بروز معاشی و قیمتی بڑھنے لگیں بیان تک کہ اس کے شاعر اور فن کا دوسرے محفوظ مقامات پر چلے جانے کے یہے مجبور ہوئے۔ شاید دل ہی کو دل قرار دے کر تمیر نے کہا تھا:

دل کی دیرانی کا کیا مذکور ہے یہ مجرم سو مرتبہ لوٹا گیا
مگر دل مٹ مٹ کر بیقی اور مرمر کر صیقی رسی کبھی تو ایسا بھی ہو کہ اس کی مشتی ہوئی رونق
اس کے دو بیرونی سے زیادہ دلکش معلوم ہوئی۔

اس وقت بھی جب دل کے شاعر اودھ یادوسری ریاستوں میں جا رہے تھے کئی اہم اور مشہور شاعروں کی رونق بنے ہوئے تھے۔ اس اودھ ضرور پرکشش کا بیوت فر رہا تھا اور رایا معلوم ہوتا تھا کہ دل میں موناک نامی چہا جائے گا۔ لیکن جیسے عرضی سکون کے بعد طوفان آتا ہے، دل میں بھی شاعری کے سوتے بھوٹ ہے اور ایک عظیم تہذیبی اور شاعرانہ عہد کا آغاز ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بلب مغل حکومت سنبھل چکی بلکہ چراغ کی لو آخری بازیز ہوتی معلوم ہوئی۔ اس عہد کو متمن، ذوق ظفر غالب، شبیفتہ وغیرہ نے لازم وال بنا دیا۔ ان ستوں نے گرتے ہوئے ایوان کو سنبھال لیا اور ان روایات کو اور زیادہ طاقت درا اور وسیع بنادیا جنہیں میر، سودا اور درد نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے زندہ کیا تھا۔ ابھی تمیر اور سودا کا زمانہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ انشا مصطفیٰ، جرأۃ اور شاہ نصیر نے اہمیت اختیار کر لی۔ وہ کئی حیثیتوں سے اہم ہیں اور تاریخ میں جگہ پانے کے سختی۔

شاہ نصیر دل کے رہنے والے تھے اور لڑکپن سی سے شاعری کرتے تھے۔ جلد شہرت حاصل ہو گئی اور شاہ عالم کے دربار میں رسانی بھی ہو گئی جیاں معزز قرار پائے۔ دربار کی حالت خراب ہوئی تو تلاش روزگار میں دوبار کھٹو اور تین یا چار بار حیدر آباد گئے۔ تکھٹو گئے تو وہاں انشا مصطفیٰ اور جرأۃ موجود تھے اور اودھ کی فضاض پر چھائے ہوئے تھے۔ شاہ نصیر نے اس وقت کے مناقشوں میں حصہ لیا جب دوسرا دوسری وفعہ گئے تو شیخ ناسخ کا بول بالا تھا، شاہ نصیر اپنی جگہ نہ بناسکے۔ حیدر آباد میں دیوان چندو لاں شاداں نے جو خود بھی شاعر تھے از راہ سر پرستی انہیں اعزاز سے جگہ دی ان کی وجہ سے حیدر آباد میں خاصی ادبی فضاضید اسکی اور بہت سے لوگ اُن کے شاگرد ہو گئے۔ حیدر آباد ہی سے ان کا دیوان شائع ہوا اور وہیں ۱۸۳۵ء میں ان کا انتقال ہوا۔

شاہ نصیر کی زبان مشکل اور طرزِ ادا تصنیع سے بھرا ہوا تھے۔ نئی تشبیہیں اور تیشیلیں تلاش کرنے میں وہ حقیقت اور جذبے سے بہت دور جا پڑتے تھے۔ شعر مشکل ہی نہیں بلکہ مزا سمجھی ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری پرکھنو کا اثر تھا۔ مگر یہ بات قابل قبول نہیں کیونکہ وہ شروع ہی سے اس زنج کے دلدادہ تھے۔ تو تخلیقی تیزی کتنی

مگر خیالوں میں گھر اپنے اور جاذبیت نہ تھی، اپنے عمد میں وہ بہت بڑے شاعر قرار دیے جاتے تھے مگر آج ان کا کلام بے روح اور بے مذاق، اس کی صنائی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سکتے ہیں کہ ان کی صرف تاریخی اہمیت ہے۔ ان کے شاگردوں میں ذوق سب سے زیادہ اہم ہیں۔ عام منوٹ کلام یہ ہے:

تیرہ بختانِ ارض کا کبھی دیکھا نہ فروغ شب کو جگنو کی طرح اڑ کے جھلکی مٹھی

شیشہ بادہ گل رنگ پیک نے ساقی جامہ سبز میں دیکھے جو تن سُرخ ترا
پچ بتا تو نجھے سو فار خد گ قاتل نوسکس کا پئے گا دہن سُرخ ترا

چڑائی چادرِ متاب شب میکش نے جیون کے کنوارِ اصبع دوڑا نے لگا خور شید گر دوچ تھے

ہے یہ تنا میرے جی میں، یوں تجھے دکھوں بادہ کشی میں
ہاتھ میں ساغر بر میں مینا، سر پر طرہ ہار گلے میں
پچ پوچھا جائے تو اس دُور کی اہمیت غالب، مومن، ذوق اور ظفر پر منحصر ہے۔ ان میں عام طور سے غالب کوسب سے بڑا شاعر اور ادبی تعلیم کیا جاتا ہے اگرچہ کچھ لوگ مومن کی غزل گوئی پر فرنگیت ہیں اور کچھ لوگ ذوق کے اندماز بیان کے گرویدہ۔

مومن کا نام مومن خاں تھا اور آبائی پیشہ طباعت تھا۔ وہ دہلی کے ایک اعلیٰ خاندان میں تھا، میں پیدا ہونے اور اپنی تعلیم پانی۔ طب تو ان کا پیشہ ہی تھا ریاضی، بخوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی اچھی وشنگاہ رکھتے تھے۔ ایک کھاتے پتیے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے زندگی میں عیش و مسرت کی کمی نہ تھی اس لیے شاعری کو پیٹ پانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ دربار میں سرتھی لیکن اُس کے محتاج نہ تھے بادشاہ یا امراء کی تعریف میں قصیدے نہیں لکھے۔ صرف ایک بار ہمارا جہ پیالہ کی مدح میں زبان کھولی جھنوں نے ایک ہاتھی تھذ میں بھیجا تھا۔ چند قصائد مذہبی بزرگوں کی تعریف میں لکھے جوان کے علم اور قدرت بیان کے منظر ہیں۔ انھوں نے خالص عاشقانہ زنگ

میں چند مشنیاں بھی لکھیں جن میں محبت کی داستانیں بڑے جذباتی اور کبھی کبھی عریان طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ ان مشنویوں میں آپ مجتی کا انداز ہے۔ آخر عمر میں وہ مجتی زندگی بسرا کرنے نے لگے تھے اور ان کاشمار اس عبد کے عالموں اور بزرگوں میں ہونے لگا تھا۔ افغانستان میں انتقال کیا۔

مودمن کی تصانیف میں اُردو دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان اور کچھ فارسی شربی موجود ہے۔ اچھے قصائد اور دلکش مشنیاں لکھنے کے باوجود ان کی شہرت کی بنیاد ان کی غزلیں ہیں۔ ان کی شاعری کا موضوع عشق و محبت ہے اور آسی سے متعلق نفسیاتی اور جذباتی اظہار خیال۔ یہ کہنا درست ہو گا کہ مودمن نے ایک محدود اور مختصر دائرے کے اندر رعاشقانہ جذبات کو جن نئے نئے طریقوں سے پیش کیا ہے وہ دوسرے شاعروں کے یہاں مشکل سے ملے گا۔ ان کے خیالات میں صداقت بھی ہے اور نفسیاتی کیفیت بھی لیکن ٹھہرائی نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے شاعری میں وہ اس روایت کا تبتعث کرتے ہیں۔ جسے بحراں نے رواج دیا تھا۔ یعنی وہ بھی کبھی کبھی بہت کھلی ہوئی معاملہ بندی کا انعامہ شوخ انداز میں کرتے ہیں۔ یہ جذبہ محبت خواہش نفس ہی کا ترجمان ہے جس میں بلندی اور پاگیزگی نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے ان کا محبوب کا تصور عامیانہ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں کسی طائف یا ایسی ہی عورت سے محبت ہو گئی تھی جس نے ان کی مشنیوں اور غزلوں کو اسی رنگ میں غرق کر دیا۔

مودمن کی زبان کسی قدر فارسی آمیز ہے۔ صنایع بدایع کے زیادہ استعمال سے کہیں کہیں مشکل بھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا اسلوب اسی طرز کے دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ کیونکہ ایک مخصوص ترکیف انداز کے علاوہ وہ جذبات محبت کے عمومی اظہار میں بھی کوئی ایسی پچیپیدگی پیدا کرتے جو دلکش تو ہوتی ہے لیکن سمجھنے میں دشواری کا سبب بنتی ہے اور خیالوں کی چھوٹی ہوئی نزدیکوں کو اپنی طرف سے جوڑنے ہی پر مطلب نکلتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی غزلوں میں چینیں پرے سانگگی، لذت اور کیفیت کی فراوانی ہے جو فکر کا بدل بن جاتی ہے۔ شال کے لیے چند شعر دیکھیے:

سر سے شام تک تجربن یہی حالت رکھیں نے
زمحمد کو چین دیتا تھا نہ آپ ہرام لیتا تھا

ذماؤں گا نصیحت پر نہ ستامیں تو کیا کرتا کہ ہر ہر بات پر ماصح تھار انام لیتا تھا

پکھ قفس میں ان دنوں گفتا ہے جی آشیان اپنا ہوا بر باد کیا؟

جانے والے چارہ گرشب بھراں میں مت بلا وہ کیوں شریک ہو مرے حالِ تباہ میں

اُثر اس کو ذرا نہیں ہوتا	رنج راحت فزانہ میں ہوتا
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے	ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا	تم مرے پاس ہوتے ہو گویا

برق کا آسمان پر ہے دماغ بھونک کر میرے آشیانے کو

یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے کہوں کچھ اور کچھ نکلے زبان سے وہ آئے ہیں پشیاں لاش پر اب تجھے اے زندگی لاڈن کسی سے اس دور کے مشہور شعرا میں شیخ محمد ابراہیم ذوق بھی تھے۔ ان کی ولادت ۱۷۸۰ء میں ہوئی۔ وہ ایک غریب سپاہی کے بیٹے تھے۔ دوران تعلیم میں ہی شرکت کے لاثوں کا شوق پیدا ہوا۔ ان دنوں دلی میں شاہ نصیر کا بول بالا تھا۔ ذوق انھیں کے شاگرد ہو گئے۔ شاہ نصیر نے ان کا نام پھیلتے دیکھا تو انھیں اس خوف سے ٹانا شروع کیا کہ کہیں وہ ان سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ دیکھ کر ذوق ان سے الگ ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی ریاضت اور مشق سے شہرت حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ بھادر شاہ نظر فرنے حواس وقت مغل بادشاہ کے ولی عہد تھے انھیں کو بلا کر اپنا استاد بنایا۔ اس وقت ذوق کی عمر صرف بیس سال کی تھی۔ اُس عمر میں انہوں نے بادشاہ کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا اُس پر ان کو خاقانی ہند کا خطاب طا جب بھادر شاہ بادشاہ ہوئے تو انھیں نے ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشعراً مقرر کر دیا اور ان کی تخلوٰ اور جوابتہ اور میں هر ف حوالہ دیے تھی اسورد پتے تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بہت سے قصیدے کئے جن پر ان کو جائز مل گیا۔

بھی ملے اور خلعت و خطاب بھی بـ ۱۸۵۰ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔
دلی کے بہت سے شاعر ان کے شاگرد تھے جیسے ظفر آزاد، داعی، انور ناطیر،
مُعروف اور دیران وہ ہمیشہ دلی ہی میں رہے، مہاراجہ چند ولال شاداں نے ان کو بھی
سیا۔ آباد بلا یا تھامگروہ نہیں سمجھئے ان کا مشہور شعر ہے:

گرچہ ہے ملک و کن میں ان دونوں قدر سخن
کون جاوے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر

ذوق کا صرف ایک اُر دودیوان طبا ہے جن میں زیادہ تر قصیدے اور غز. لیں
ہیں۔ سوادا کے بعد ان کو اُر دو کا سب سے بڑا قصیدہ گوشہ محا جاتا ہے: ماقدوں نے
دنوں کے قصیدوں کا مواز نہ بھی کیا ہے مگر یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سوادا
کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ ذوق کے سبھی قصیدے بادشاہوں کی مدح میں اور
خاص دوباری زندگی کی پیداوار ہیں۔ نہیں قصائد عقیدے کی گھری سے زیادہ شاعر ان
ہو جاتے ہیں لیکن ذوق نے ایسے قصیدے لکھے ہی نہیں۔ اگرچہ علم و فضل کے اعتبار
سے ذوق کا درجہ معمولی نہ تھا لیکن بادشاہوں کی مبالغہ آمیز تعریف کا ایک پوت
ہونے کی وجہ سے ان میں سوادا کے قصائد کی بلندی اور شکوہ نہیں ہے۔ قصیدہ
مضمون آفرینی اور خیال آرائی جاتا ہے اس لیے زبان کی سجاوٹ پر توجہ زیادہ ہو
جاتی ہے اور جذبات کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اسی وجہ سے قصیدہ گوشرا، کی
غزوں میں سبی وہ بے چین اور بے قرار جذباتی عنصر نہیں پایا جاتا جو غزل کے لیے
ضروری ہے۔

کئی نقادوں نے ذوق کی زبان کی آسانی، ان کے مزاج کی نرمی اور ان کے
وقار کو پیش بناہ رکھ کر انہیں غالب سے بڑا شاعر کہا ہے مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ شعر
میں وہ اصل عضیر کا تعلق جذبات اور رگداد دل سے ہے ان کے بیان بہت کم
ہے ان کی شاعری دل میں دھوکن اور گرمی نہیں پیدا کرتی لیکن اس کا مطلب یہ
نہیں ہے کہ ان کا سارا سرایہ شاعری اسی دھنگ کا ہے۔ وہاں نے جوئے استاد تھے
زبان پر ان کو بڑی قدر رکھی، زندگی کے حام مسائل کو جموی اخلاقی شکل دے کر
پیش کرتے تھے اور فن شعر کے بہبے عالم تھے۔ ان کی اچھی غز. لیں دیکھی جائیں تو علیماً

ہو گا کہ ان کی زندگی کی سادگی اور صاحب دلی ان کی تخلیقات میں پائی جاتی ہے۔ اردو زبان کو اس کی خالص بامعاورہ شکل میں دیکھنے والے ذوق کی تخلیقات سے ضرور لطف حاصل کریں گے۔ ذوق کا نوٹہ کلام یہ ہے:

کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گھیا حق مخفف کرے عجب آزاد مرد تھا

کسی بیکس کو اے بیدا دگر مارا تو کیا مارا جو آپ مر ہا ہواس کو گرم اتا تو کیا مارا
گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنیے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کہہ رہ جائیں گے

آدمیت اور شئے ہے علم ہے کچھ اور چیز کتنا طوٹ کو ٹپھایا پردہ جیوال ہی رہا

کیا ہم نے سلام اے عشق تجوہ کو کہ اپنا حوصلہ اتنا نہ پایا

اے شمع تیری عمر طبیعی ہے رات بھر ہنس کر گزار یا اسے روکر گزار دے

احسان نا خدا کا اتحائے مری بل کشتی خدا پر چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں

تم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے ہو کبھی ہم تو تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا کے آئی عمد میں نہیں بلکہ اردو ادب کی تاریخ میں مزماں غیر معمونی خلقت کا حامل ہے۔ وہ فائد کے اتنے ہی بڑے ہیں قلم تھے جتنے بڑے اُردو کے، ان کی شفیقت اور شاعری دلوں میں مغل تہذیب کی سب خوبیاں اور خابیاں سیست آئی تھیں اور وہ اس کی ایک جبی جاگتی حکمت تھے جس نظر سے بھی دیکھا جائے وہ ایک طبائع شاعر اور عظیم مصنف تھے، یہی سبب ہے کہ پرانے اور نئے سمجھی نقادریوں نے ان برہبت کتابیں اور بہت سے مضمومین لکھے ہیں اور اپنے علم و شعور کے آئینے میں مانگی تصوریں

دیکھنے کی سعی کی ہے۔

غائب کا نام خواجہ اسداللہ خاں تھا گھر پر مزاںو شہ کے نام سے پکارے جاتے تھے مغل دبادر کی طرف سے بخم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات بھی حاصل تھے ۱۷۹۸ء میں ان کی پیدائش آگئے میں ہوئی تھی۔ ابھی وہ صرف پانچ برس کے تھے کہ باپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے بعد غالب اپنے چوکی سرپرستی میں آگئے، مگر وہ بھی چار سال بعد مر گئے اور غالب اپنے نہیں میں رہنے لگے۔ ان کا غفوں نشباب بڑے لطف و مسرت میں گورا۔ وہ صرف تیرہ برس کے تھے کہ دلی کے ایک بڑے خاندان میں شادی ہو گئی جس کے لیے غالب نے خود لکھا ہے کہ قید زندگی کے ساتھ یہ دوسری شرائحتی شادی کے بعد وہ دلی میں رہنے لگے۔ اپنے فارسی اور اردو خطوط میں انھوں نے اپنے بھین، آگرے کی زندگی، شادی، اپنے دو دمان، اپنی تعلیم کا تذکرہ بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔

غالب نے اردو شاعری آگرے میں شروع کردی تھی جس پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ انھیں فارسی زبان سے قلبی لگاؤ تھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایران کا ایک پارسی نتز اسلام عبد الصمد، آگرے آیا اور غالب نے فارسی زبان کی تعلیم اور معلومات اسی سے حاصل کیں۔ بعض حیثیتوں سے یہ بات مشکوک ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ غالب کی فارسی اور مختلف علوم کی تعلیم میں ان کے ابتدائی دور کو بہت دخل تھا۔ شادی کے بعد دلی کا قیام بہت اہم ہے۔ دلی پونچ کران کو دہان کے اوپنے اور تعلیم یافتہ طبقے کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ وہ خود ترکستان کے سلجوقی بادشاہوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اس سلسلہ نسب پر آن کو فخر بھی تھا۔ ان کا خیال تھا اُن کی رگ رگ میں بڑے شہنشاہوں اور فاخت پہ سالاروں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس یہے وہ اپنی عزت اور برتری کے لیے صرف شاعری کو بنیاد نہیں بنانا چاہتے تھے بلکہ یہ سبھی ظاہر کرتے تھے کہ کسی وقت اُن کا تعلق اعلیٰ طبقے سے رہ چکا ہے۔ یہ بات قطعی طور سے نہیں کہی جاسکتی کہ انھوں نے کتنی تعلیم حاصل کی گریں کہ کلام کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ ان تمام علوم سے بخوبی واقف تھے جو کئی صد یوں سے مسلمانوں میں مروج تھے۔ اس یہے اکیس برس کی عمر تک پہنچنے پہنچنے انھوں نے دلی کے شری اور علماء میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔

دی میں غالبت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے چھپا کی نیشن کئی اعتراضیں برٹگئی تھی اور غالبت کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا، کئی وجہ سے وہ بھی نہیں مل سکا۔ اس کے لیے غالبت کو تیش سال کی عمر میں گلکتہ جانا پڑا اور وہاں تقریباً دو سال رہ کر انہوں نے اپنے حق حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گلکتہ کا سفران کے لیے کئی لمحات سے اہم ثابت ہوا انہوں نے تھنٹو، بارس اور گلکتے کے شاعروں اور صنیفوں کا تعارف حاصل کیا، وہاں کے ادبی بحث مباحثوں میں حصہ لیا اور گلکتے کی اس نئی زندگی کا تجربہ کیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیگانے پر اقتدار حاصل کر لینے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس وقت کے سارے شاعروں میں محض ایک غالبت ہی تھے جو زندگی کے اس نئے دھارے سے آشنا تھے۔ اس کا اثر ان کے خیالات پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ گلکتے میں جو نئی بیداری پیدا ہو رہی تھی اس کو صرف انہوں نے دیکھا، ہی نہیں۔ مجھے کی بھی سعی کی نیشن کے انتبار سے ان کا یہ سفر ناکامیاب رہا مگر انھیں سارے لکھ میں نصیلے ہوئے ادبی رجحانات کا تجربہ ہو گیا۔ شہزادہ کے قریب وہ مغل دربار میں اس کام کے لیے معین کیے گئے کہ مغل خاندان کی ایک تاریخ فارسی میں لکھ دیں۔ اس کا ایک حصہ انہوں نے خالص فارسی میں بھی لکھ دالا، جو مہر نیم روز کے نام سے ان کی زندگی ہی میں شائع ہو گیا تھا جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو غالبت بھادر شاہ ظفر کے استاد بھی مقرر ہو گئے مگر وہی سال بعد وہ بغاوت ہو گئی جس کو خدر کہا جاتا ہے۔ غالبت کے لیے زندگی پھر کشمکش سے بھر گئی۔ گھر کے اندر بند رہ کر انہوں نے فارسی میں اپنی ایک ڈاٹری دستبوک کے نام سے تکمیل جس سے اس قوم کے بارے میں بہت سی بانیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس وقت غالبت نے جو خطوط اپنے تلمذہ و احباب کو تھے ہیں ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انھیں سہدوستان کی تباہ مالی پرکتنا دکھ تھا، مگر ان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انھیں سمنتی دور کے مشنے کا یقین تھا اس یہ مقلیل سلطنت کے خاتمے کا ان کو بہت صدمہ نہیں ہوا، جیسے انھیں معلوم ہو کہ یہ چراغ ضرور ہی بچھے گا۔

شہزادہ میں ان کا تعلق رام پور کے ریاستی دربار سے ہو گیا اور وہاں سے ان کو تا مہ مرگ سور و پیہہ امینہ ملتا رہا جس سے انھیں کچھ معاشی سکون میر ہو گیا تھا۔ ان کے شاہزادہ اور دروست بھی مدد کرتے رہتے تھے اور وہ اپنی ضرورتوں کو ان سے چھپاتے بھی

نہیں تھے۔ بہرہ برس کی عمر پا کر اور بہت سی بیماریاں جھیل کر فروری مسئلہ، یعنی بہ کی وفات ہو گئی۔

مرد اغالب میں کچھ عجیب و غریب خصوصیتیں ایسی جمع ہو گئی تھیں جو بہت کم دیکھ میں ملتی ہیں۔ ان کے ذہن کی جودت، بات میں بات پیدا کرنے کی قوت، ان کا علم اور معلومات، ان کی فراخ دلی، خودداری اور انکسار، نسی باتوں کو قبول کر لینے کی صلاحیت دوستی کا نباہ اور محبوب بن جانے کا ذہنگ، یہ سب باتیں ایسی تھیں جو ان کو غلطیم اور ہر دل عزیز نباتی تھیں۔ بادشاہ سے لے کر ڈاک کے ہر کارے تک سب ان کو بخوبی جانتے تھے۔ ان میں جو کمزوریاں تھیں وہ ان پر پڑھنے والے تھے۔ شراب پیتے تھے، مذہب کے ظاہری اعمال کا مذاق اڑاتے تھے مگر انسانیت کی محبت سے ان کا قلب معمور رہتا۔ وہ ان اپنی زندگی کے ڈاک جنڈوں، ان کے رنج و راحت اور ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے اور اپنے کلام میں زندگی کے چیزوں کے مسائل کو ایسے خوبصورت طریقہ سے پیش کرتے تھے کہ پڑھنے یا سننے والا اسے اپنے قلب کی دھڑکنوں میں محسوس کرنے لگتا تھا۔ ہندوستانیوں کے علاوہ ان کی دوستی انگریزوں سے بھی تھی اور ان میں سے کئی ان کے شاگرد تھے۔ ان میں نگ نظری نام کو بھی نہ تھی اور وہ کسی ذات یا مذہب کے لوگوں سے تفریق نہیں برتبے تھے۔

غالب کی بہت سی تصنیفات دستیاب ہو چکی ہیں۔ اس استبار سے انھیں یہ خوش نصیبی میسر ہے کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی تصنیفیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کہنکالی جاری ہیں اور انکے باڑے میں کتابوں پر کتابیں، مقالوں پر مقابلے لکھے جا رہے ہیں۔ اردو میں ان کے دیوان اور خطوط کے کئی مجموعوں کے علاوہ دو تین چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ملتی ہیں۔ فارسی میں نشر کے کئی مجموعے اور کئی کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنا پلا آر دو دیوان صرف اکیس برس کی عمر میں تیار کر لیا تھا۔ اس مختصر کتاب میں ان کی شاعری کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جاسکتا ورنہ یہ نظاہر ہوتا کہ ان کی اردو شاعری کئی اسلوبوں میں ملتی ہے۔ ابتدائی زندگی میں انھیں فارسی زبان کی ایسی چاٹ پر گئی تھی کہ انہوں نے اردو کو بھی فارسی ہی کے ساتھ میں دھال لیا تھا۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ اردو زبان میں آتی سخت نہیں ہے کہ وہ دقیق فلسفیانہ خیالات کو پیش کر سکے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کوئی میری شاعری

سے لطف انھا ناچاہتا ہے تو وہ میری فارسی شاعری پڑھے، اور دوشا عری تو بے روح و بے مزہ ہے، مگر غالباً کایہ خیال تھیک نہیں ثابت ہوا جس دوق و شوق سے ان کی اردو تخلیقات پڑھی جاتی ہیں فارسی کی نہیں پڑھی جاتیں۔ ان کی فارسی کی یہ محبت ایک اوپر اشکل میں ظاہر ہوئی۔ انھوں نے اردو میں بھی ایک مشور فارسی شاعر بیدل کے تیقی کی گوشش کی۔ اس وقت ان کے کلام کا بہت تھوڑا سا حصہ عام لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا، اچھیں کی عمر تک پنجتے پہنچتے انھوں نے اپنے طرز میں تبدیلی پیدا کی اور محض تھنیل سے پہٹ کر وہ زندگی کے ان مسائل کی طرف آئے جن کا انھوں نے اتنی تجویر کیا تھا۔ بہت تھوڑے زمانے میں ان کی قوت متحیله اتنی قوی ہو گئی کہ وہ بے جوڑ چیزوں اور بے میل مسئللوں میں یکسانیت اور تعلق ڈھونڈھ لیتے تھے۔ جتنا وقت گزرتا گیا اتنا ہی غائب کی شاعری میں فلسفیانہ گہرائی اور فکارانہ حسن برقرار ہتا گیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ وہ سترنا پا جا گیر دارانہ تہذیب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کی اچھائیاں بڑائیاں سب ان میں بھی موجود تھیں مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ کر انھیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ وقت بدل جائے گا، مگر تاریخ کا کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر نہ ہونے کے باعث وہ مستقبل کی تغیری کے بارے میں کچھ نہیں بتاسکتے تھے۔ وہ خود اس زوال آمادہ تہذیب کی ایک علامت تھے۔ بے انتہا حسن رکھنے کے باوجود مایوسی اور خوف کی ایک ملکی سی گھٹا ان کے افکار اور کلام پر چھانی ہوئی ہے۔ ان کے کلام میں فتویٰت کا جذبہ کم نہیں ہے مگر وہ اس حوصلے کی تبلیغ کرتے تھے کہ زندگی سے اس کا سارا اس پچوڑ لینا چاہیے کہ زندگی اسی سے عبارت ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے ان میں رنگ نظری برائے نام بھی نہ تھی۔ مدد ہب کا امتیاز ان کے خیالات میں کوئی خاص مقام نہیں کھتا تھا وہ ہمدردی اور انسان دوستی کو سب سے بڑا مدد ہب سمجھتے تھے۔ ان کے یہاں شیخ اور برہمن میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے اپنے ڈھنگ سے تلاش حق کرنے والے اور یقین کے ساتھ اپنے خیالوں پر مجبوٹی سے قائم رہنے والے ایک بھی سے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی مدد ہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کے دوستوں اور شاگردوں میں ہندو اور عیسائی بھی تھے جن سے انھیں اتنی ہی محبت تھی جتنی مسلمانوں سے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے

کہ وہ مندیب اور تہذیب لے کی ان حدود کو تو پڑھ کے تھے جو کسی نہ کسی طرح سے مذہبی اخلاقیات پر بسی تھیں۔ ان کے ان خیالات کو تصوف سے ربط باطن رکھنے کا نتیجہ بھی نہ کہ سکتے ہیں غالب کی شاعری میں تھیں اور فلسفے کا ایسا میں ہے کہ ان کے خیالات پچھیدہ اور شکل ہوتے ہوئے بھی قلب پر تیر کی طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے نثر و نظم دونوں میانی راہ الگ نکالی تھی۔ اردو میں انہوں نے چند قصیدے اور زیادہ تر غز. لیں تھیں ہیں۔ اکثر اردو قصیدے ایرانی شاعروں کے قصائد کے دھنگ پر تکھے جاتے تھے اور ان کے طرز میں تبدیلی نامناسب سمجھی جاتی تھی مگر غالب نے اپنے قصائد میں نیارنگ پسیدا کیا اور غز. لوں میں تو کئی طرح کے تجربات کرنے کے بعد اپنی راہ آپ بنالی جو بلے شال ہے۔ ان کا اردو دیوان بہت مختصر ہے کیونکہ اپنے احباب کی رائے سے اس میں سے وہ کلام نکال دیا جو فارسی آئینہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی خصوصیات میں حقیقت پسندی، طرز ادا کا حسن، تازگی، فلسفیاتی عمق، جذباتی احصار اور جدت سب اس طرح سے مخلوط ہیں کہ کوئی دوسرਾ شاعر ان کے برابر نہیں لایا جا سکتا۔ زندگی کو لطف و مترتب کے ساتھ سبر کرنے کی تمنا ان میں بہت قوی تھی مگر وہ دُر اس میں حارج تھا، اس یہے شخصیت اور رو بہ اخطاط معاشرے کے تصادم کی بڑی خوبصورت تصویریں ان کے کلام میں مل جاتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کی شاعری کوئی فلسفیات آدراش نہیں پیش کرتی مگر زندگی کی قوت ہنگمت اور حسن کے گیت گما کر زندگی سے محبت کرنا ضرور سمجھاتی ہے۔ اس یہے کوئی شخص بھی جوز زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنا اور ان میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے غالب کی شاعری میں بہت کچھ ملے گا۔

شال کے یہے ان کے کچھ شعر دیے جاتے ہیں:

یہ نہ تھی ہماری قسمت جو دصال یا روتا
اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نافع
کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا

کس سے محرومیت کی شکایت کیجیے ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ سبی دہڑہ

زندگی یوں بھی گزر رہی جاتی کیوں ترا راہ گذر یاد آیا

کوئی دیرانی سی دیرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا

وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں
نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے زخم جگہ کو دیکھتے ہیں

نیند اس کی ہے ڈاغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں
رنج سے خوگر ہوا انساں تو مت جاتا ہے رنج
مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں

اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں
ملنا اگر نہیں ترا آسان تو سسل ہے دشوار بھی نہیں

قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں
زندگی اپنی جب اس شکل سے گذری غالب
ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدار کھتے تھے

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بت لا اُمیں کیا

گوہاتھ میں جنہش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغرو یعنیا مرے آگے

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے

ہزاروں خواہیں ایسی کہ ہر خواہش پر ملکے

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے
غلاب کو انیسویں صدی کے نمایندہ شاعر کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ
دوسرے شعراء نے بھی زندگی کے ان دکھوں کا بیان کیا ہے، جو ایک مشتمی ہوئی تہذیب عطا
کرتی ہے۔ مگر ان کے احساس کے معیار اور غالب کے فن کا راستہ احساس میں بڑا فرق ہے،
جو ان کی پوری شاعری میں پھیلا ہوا ہے

عالیٰ شان مغل خاندان کے آخری دن آپکے تھے اور اس کے بہت ہی کمزور اور آخری
بادشاہ بہادر شاہ طفر کا عہد حکومت تھا، اس وقت کچھ بڑے شرارے نے اپنی تخلیقات سے
یہ ثابت کر دیا کہ ایک قدم اور اعلیٰ درجہ کی تہذیب کا چراغ بھختے بھتی بھی اپنی آخری ضو
دکھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ کی زندگی ایک براۓ نام بادشاہ کی زندگی تھی، بادشاہت
کا جاہ و جلال کھو کر انہوں نے دنیاۓ شاعری میں اپنے یہ ایک رفیع مقام بنالیا
اور ایک ناکام بادشاہ ہوتے ہوئے وہ ایک کامیاب شاعر بن گئے۔ آیامِ شباب ہی میں
انہوں نے شاعری میں نام پیدا کر لیا تھا۔ باری باری شاہ نصیر، ذوق اور غالب کو
انہوں نے استاد بنایا۔ ۱۸۵۶ء کی بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد سلطنت سے باقاعدہ
وہ ہو یا اور ایک قیدی بن کر اپنی حیات کے آخری دن زنگوں میں گزار دیے اور وہیں ۱۸۶۷ء میں
ان کی وفات ہوئی۔

طفر کے چار دیوان شائع ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پانچواں دیوان غدر من ضائع
ہو گیا۔ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ وہ خود شعر نہیں کرتے تھے بلکہ ذوق ان کے لیے کہہ دیا کرتے
تھے۔ اصلاح کی اور بات ہے لیکن یہ بات کچھ زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ ان کے
کلام میں رنج و غم کے جو لامتناہی جذبات پائے جاتے ہیں وہ ان کی آپ بیتی معلوم ہوتے
ہیں۔ طفر بڑی تیزی سے غریبیں لکھ سکتے تھے اور شکل سے مشکل قافیوں اور ردیفوں میں
روان قسم کی تخلیقات کر سکتے تھے۔ ان کا طرز تخلیل دیسے تو پرانی ڈگر پر چلتا ہے مگر جہاں
کہیں وہ خود اپنی سخنی حالت کی تصویر کشی کرتے ہیں وہاں وہی جذبات سے سوراہنہار پایا جاتا
ہے جو ایک اچھے شاعر کی خصوصیت ہے۔ بھتوف اور اخلاقی اقدار کے علاوہ عشقیہ کلام
سے بھی ان کے دیوان بسیریز ہیں۔ انہوں نے کچھ مذہبی نظیں بھی لکھی ہیں مگر ان کو جو اعزاز

میرے وہ ایک غزل کے شاعر کی حیثیت سے ہی ہے۔

ظفر کی زبان دل کی بول چال کی خالص زبان تھی وہ منہدی انفاظ کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے اور منہدی میں گھیت اور رُنگریاں فنِ موسیقی کے قاعدے کے مطابق کھلتے تھے۔ ان کے کلام میں وعظ و پند، ترک دنیا کا جذبہ اور زندگی کا حقیر ہونا بھی ملتا ہے۔ اگرچہ وہ اول درجے کے شاعر نہیں کہے جاسکتے کیوں کہ ان کے بیان کوئی جدت یا فلسفیانہ گھبرا لئی نہیں ہے، تاہم ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ان کی زندگی کا عکس ہونے کے باعثِ حقیقی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے کچھ شعر دیکھیے:

نہ کسی نہ آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں

جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشتبہ عبار ہوں

پئے فاتح کوئی آئے کیوں کوئی چار بھول جو حادیکیوں

کوئی شمع لائے کے جلائے کیوں میں تو بیکی کام زار ہوں

نہ ظفر کسی کا جیب ہوں نہ ظفر کسی کا رقبہ ہوں

جو بجڑا گیا وہ نصیب ہوں جو اجرہ گیا وہ دیار ہوں

ٹھنڈی ٹھنڈی جو کوئی سانس ہے آتی جاتی

دل میں ہے آگ مرے اور لگاتی جاتی

اس عمدہ میں دل کی مرقی ہوئی روح جاگ آئی تھی اور لا تعداد شاعر غمکین سروں میں اپنے گیت گارہے تھے۔ ان شاعروں کی آواز میں وقت کی آواز بھی سنی جاسکتی ہے۔ مغل راج جو ایک علامت کے مانند لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے ہوئے تھا وہ بھی مت گیا تھا۔ مگر جو شاعر ملک کی بدلتی ہوئی معاشی و معاشرتی صورت حال کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنا ہی راگ الائپے جا رہے تھے۔ اس باب میں دل کے صرف ان شراء کا ذکر ہوا ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے اردو ادب کے انمول ترزوں میں شمار ہوتے تھے اور بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ یہ شاعر ایک طرف تو ان روایات کی پیروی کرتے تھے جو دل میں کم و بیش ڈیڑھ سال سے رائج تھی دوسری طرف ان میں ایک خاص طرح کی جدت تھی جو ان کو قدیم شعر سے الگ کرتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں اردو زبان بخ کر خالص صفات

اور سندوں ہو گئی تھی مسائل کی وسعت بڑھ گئی تھی اور غولِ موتمن و غالب کے ہاتھوں میں پھوپخ پھر زندگی کا جتیا جا گتا عکس نظر آنے لگی تھی۔ دلی کے پیشرا، لکھنؤ کے اصلاح زبان کے انقلاب سے متاثر ہوئے تھے اور جون قادر بھی دونوں جگہوں کے ہم مصدر شرار کا ایک ساتھ مطالعہ کرے گا اسے اس اثر کا اندازہ لگانا دشوار نہ ہو گا۔

حاملِ کلام یہ کہ جو حراجِ دلی میں تسودا، درد اور تمیر نے جلا یا تھا اسے اس عہد کے شرار نے اور درختان تکر دیا، خاص کر غالب نے زندگی کی بھبھتی ہوئی را کھو کر یہ کرایسی چنگاریاں کالیں جن میں جو الامکھی کی گرمی اور روشنی دیکھی جا سکتی ہے ان کے شیریں نغمات میں ایک ایسی درد مندی کا احساس ہوتا ہے جو ایک فنا ہوتی ہوئی ثقافت ہی عطا کر سکتی تھی۔

آٹھواں باب

اردو شریف: فورٹ ولیم اور اس کے بعد

دہلی نتھر کی ترقی کے لیے جس طرح کام احوال ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں پیدا ہو رہا تھا۔ انہار ہوئی صدی کا خاتمه ہوتے ہوتے تاریخ نے ایک اور گردش بدلتی تھی اور زندگی نئے حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ غل سلطنت کی کمزوری کے باعث اس کے عقیدہ رپرنسی طاقتیں نئے راج محل کھڑے کر رہی تھیں۔ مگر بے کسب جاگیر دار سماج کی معاشی بنیادوں پر قائم تھے۔ اسی دور کے اندر ایک بدیسی طاقت بیوپار کی راہ سے دیس پر چھانٹ جا رہی تھی۔ اس کے عمل دخل نے نئے معاشی مسائل کو جنم دے کر زندگی میں نئے بھرائی اور خیالات میں نئے دھارے پیدا کر دیے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کے جو زتوڑ کے مقابلے میں ہندوستان کے بدهال و بد عنوان بادشاہ اور امراء نہ ٹھہر سکے۔ تجارتی مراعات کے ظل عاطفت میں بربطاں وی ریچ کے پروردہ نئے سرمایہ داروں نے دہ جال بچھایا جس میں نہ صرف ہندوستان کی دولت پھنس کر رہ گئی بلکہ پوری زندگی بھی اپنے مرکز سے ہٹ گئی۔

اس نئے احوال میں انگریزوں نے ایسا جادو کیا کہ ہندوستانی مزاح کے زندگی سے۔ مطابقت پیدا کر لینے اور تنظیم ہونے والے رجحان و بے سے گئے۔ ہوتے کو تو ملک میں شجاع الدولہ، علی وردی خاں، حیدر علی، مرا شے، نظام مغل، راجپوت، سکھ، روپیلے اور جاث بھی تھے، مگر یہ کبھی کسی مقصد پر محدود نہ ہو سکے بلکہ ایک دوسرے سے جنگ کر کے

کمر در ہونے پلے گئے یا انگریزوں نے انھیں شکست دے دی۔ ابھی انھار ہوئی صدی اپنی آخری دہائی میں تھی کہ بگال، بہار، اڑیسہ، مدراس، بمبئی اور جنوبی ہند کے کچھ حصے کسی نکسی شکل میں انگریزوں کے ماتحت ہو گئے جو صوبے برائے نام خود مختار و آزاد تھے، وہی کسی نکسی طرح ان کی حفاظت میں تھے جو یہ ہے کہ کمر در ہوتے ہوئے جاگیر دارانہ نظماً کو ایک نئے اور ایک اعتبار سے ترقی پسند طرز حیات کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا۔

جب انگریزوں نے اپنی تجارتی حکومت قائم کر لی، تو زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی دست اندازی شروع کی۔ اگر ان کی تعلیمی پالیسی کا گہر امطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ سیاسی اغراض کی تکمیل کے لیے انہوں نے خاص طور سے تعلیم پر قابو رکھنے کا ارادہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ شوق علم اور کچھ سیاسی مفاد کے نقطہ نظر سے ہندستان کی زبانوں پر بھی توجہ کی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنا کام شروع کیا اور کچھ وقت گزر نے پران کا دادرہ اثر بھی بڑھ گیا، تو انہوں نے ہندوستان کی نہ ہی صورت حال پر بھی غور کیا، اور ابتداء میں اس پر قائم رہے کہ یہاں کے مذہبوں اور مذہبی رسوم میں مداخلت نہ کی جائے۔ مگر یہ پالیسی بہت دنوں تک نہ چلی اور انہیوں صدی میں عیانی مبلغین کو حض اس بات کی آزادی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، بلکہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے اور رسمی ہو جانے پر ان کو فائدہ پہنچانے کی پالیسی پر چلنے بھی ایک عام بات ہو گئی۔ اس سلسلے میں یورپ کے کچھ مصنفوں اور علماء نے بھی اردو کی طرف دھیان دیا۔ یورپ اور ہندوستان کے اقتصادی اور ثقافتی روابط کا ذکر دوسرے موقع پر کیا جائے گا، یہاں فقط اتنا ہی دیکھنا ہے کہ اردو کی ترقی کے سلسلے میں ان سے کتنی اور کیسی مدد ملی اور اس مدد کا مقصد و اصلی زبان کی خدمت تھی یا سیاسی حکمت عملی اس نئی صورت حال پر غور کرنا ضروری ہے۔

بے پلے ایک ڈچ جوشوا کیٹلر نے ۱۷۸۶ء میں ہندوستان کی ایک چند صفحوں کی قواعد کی۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں ہے، مگر اس میں کچھ مثالیں ایسی بھی دی ہیں جو اردو میں ہیں۔ کیٹلر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم کی حیثیت سے اسورت، لاہور اور آگرہ میں رہا اس لیے زبان اردو سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باہر سے آنے والوں نے اس وقت کچھ اپنے کاروباری روابط کے لیے اور

کچھ تبلیغ نہ رہ کیے مہندوستانی زبانوں کا مطابعہ شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح کرنی اور یورپیوں نے قواعد اور لغت کی کتابیں مرتباً کیں جن کا مقصد اسی زبان کا یکھنا تھا جو پرے ملک میں تمام طور سے سمجھی جاتی تھی۔ پاری خیمن شلتو نے ۱۸۷۴ء میں ایک قواعدگی اور ترجمہ اور دویں کیا۔ دوسرے مصنفوں نے ادویہ و حروف اور سہم خط پر جھپٹے چھوٹے مضامین لکھے اس بارے میں تسلی گاتی، ہیدڑے اور دُف کے نام لیے جاتے ہیں۔ مگر یہے اسم نام داکٹر جان گلکرست کا ہے! انھوں نے ۱۸۷۵ء سے اردو قواعد اور لغات کے متعلق لکھنا شروع کیا اور یہ سلسلہ تقریباً میں سال تک جاری رہا جنہوں نے اس کی عیشت سے ان کی شہرت اتنی پھیس گئی تھی کہ جب ملکتے میں فورٹ ولیم کا مجتمع قائم ہوا تو وہی مہندوستانی زبان کے پروفیسر مقرر ہوئے اور ان کی تحریک میں اردو کی کچھ اسم کتابیں لکھی گئیں، جن کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔

گلکرست ایڈٹ اندیا کمپنی میں ایک ملازم تھا وہ ۱۸۷۴ء میں مہندوستان پہنچے، ان کو مہندوستانی زبان سے لچکی پیدا ہو گئی اور انھوں نے بول چال، قواعد، لغت وغیرہ پر انگریزی اور اردو میں کہی تھا میں لکھیں ۱۸۷۶ء میں وہ وطن بوٹ گئے اور وہاں کے ان ملازمین کو اردو سکھانے لگے جو یہاں بھیجے جاتے تھے۔ جب لندن میں اوزمیل انسٹی ٹیوٹ قائم ہوا تو گلکرست اس میں اردو کے اس ادارہ مقرر کیے گئے۔ اس درسگاہ کے بند ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کو اردو پڑھاتے رہے۔ ان کا انتقال ۱۸۷۹ء میں پیرس میں ہوا۔ گلکرست نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ان میں اہمیت کچھ ہی کو حاصل ہے، جیسے انگریزی مہندوستانی ذخیرہ (۱۸۷۹ء)، مہندوستانی گرامر (۱۸۷۹ء)، اوزمیل انگوٹھ، (۱۸۹۰ء)، خصوص مشرقی، (۱۸۷۸ء)، رہنمائی زبان اردو، (۱۸۷۸ء)، قواعد اردو، اور انگریزی بول چال (۱۸۷۸ء)، انیویں صدی میں اور بہت سے انگریزوں نے زبان پر کام کیا اور ایسے لغت تیار کیے جو آج بھی اہمیت رکھتے ہیں اس خصوصی میں میلر، روپیکت، شکپیر، فاربس اور فیلین کے نام قابل ذکر و لائق احترام ہیں۔ جو بھی مہندوستانی زبان کی لغت پر کام کرے گا اسے انھیں کے کارناموں سے بڑی مدالیے گی۔ ان میں فیلین نے چار لغت تیار کیے۔ اس کام میں ان کے مدگار لالہ فیقر خند، لالہ چرخی لال، شماکر داس، لالہ جگن ناتھ اور مشرودالنگ تھے۔ فیلین نے دل کے مولوی کریم الدین کے ساتھ مل کر شرعاً کا ایک تذکرہ بھی لکھا جس کا

زیادہ تر حصہ فرانسی فاصلہ کار سان فن تاسی کی تصنیف پر بُشی تھا۔ اس طرح بہت سے یورپیں علماء اور مصنفوں نے اردو کو ہندوستان کی قومی زبان اور راس کے ادب کو دچپ سمجھ کر اس میں تصنیفات کیں۔

انگلیوی صدی آنے سے پہلے ہی ہندوستان کے بڑے حصے پر انگریزی اقتدار کا سایہ منڈلانے لگا تھا۔ کلا یوکی چال بازی سے سغل شہنشاہ شاہ عالم نے بنگال اور بیار کی مالکزاری وصول کرنے کا اختیار ایت اندیا کمپنی کو سونپ دیا تھا اور ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کی زبانیں سیکھیں جس سے انھیں حکومت کرنے میں سہولت ہو۔ جو انگریز کمپنی کے ملازم ہو کر آتے ان کے لیے ہندوستانی زبان کے سیکھنے کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا۔ لارڈ ولزلی نے کمپنی کے ڈاکٹروں سے اجازت لے کر ہر سوئی تسلیہ کو گلکتے میں فورٹ ولیم کا بیچ کا افتتاح کیا۔ اس کا بیچ کا مقصد یہ تھا کہ نئے انگریز ملازمین کو ہندوستانی زبانوں کی تعلیم دی جائے۔ یہاں ہمارا اعلق صرف اردو سے ہے اس لیے دوسری زبانوں کے ذکرے کی ضرورت نہیں ہے جو وہاں سکھانی جاتی تھیں۔ یہی سبھہ لینا چاہیے کہ اس وقت تک انگریز زیادہ تر فارسی پڑھتے تھے کیونکہ وہی سرکاری زبان تھی۔ مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے ملک میں ہندوستانی راجح ہے تو انہوں نے اردو کی طرف توجہ کی۔ کابج میں تعلیم کا منصوبہ توبہت منتظم تھا مگر کمپنی نے اس کے چلانے کا بار اٹھا۔ قبول نہیں کیا اس لیے اس کا کام زبانوں کی تعلیم تک محدود رہا۔

ڈاکٹر جان گل کرست اردو زبان میں جو کچھ بھی تھا، اس سے تھوڑا بہت واقف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں شاعری زیادہ متفکر میں اور زیر ثبت کم ہے جو نظر تھی بھی وہ زیادہ تر نہ ہبی نوعیت کی تھی، غیر ملکی ملازمین کو ان کتابوں سے تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تعلیم کے ساتھ، تصنیف و مایلف کا ایک شعبہ بھی کھوں لیا اور ڈھونڈ دھونڈ کر اس میں ایسے لوگ رکھے جو ان کی ہدایت کے مطابق نظر میں تصنیف کر سکیں۔ انہوں نے اس کا بندوبست بھی کیا کہ جو کتاب میں کابج کی مجرمانی میں بھی جائیں آن کے شائع ہونے کے لیے ایک دارالاشراعت بھی کھولا جائے۔ غالباً ہندوستان کا یہی پہلا دارالاشراعت ہے جو گلکتے میں قائم ہوا۔

فورٹ ولیم کا بیچ میں جو ادیب جمع ہو گئے تھے انہوں نے اپنا فرض ٹھیک خوش اسلوب

سے پورا کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جس مقصد سے بلائے گئے تھے وہ خالص ادبی نہیں تھا، کیونکہ وہیں سے اردو ہندی اختلاف نے ایک طرح کی یا سی شکل اختیار کر لی۔ مگر اس کانے پر جو نشری تصنیفات ہوئیں وہ قابل غور ہیں کچھ مورخوں کا خیال ہے کہ وہاں کی تصنیف سے اردو ادب کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا ان کا یہ خیال اس حیثیت سے غلط نہیں ہے کہ اس سے عام طور پر اردو پڑھنے والے بہت دنوں تک ناداقف رہے اور وہاں کی کتابیں یادہ کر دہیں کے کام آتی رہیں لیکن ان کی اہمیت اور ادبی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا درست نہ ہو گا۔ کانجھ میں اردو مصنفوں کی تعداد جو بھی رہی ہو، ان میں سے کم و بیش پندرہ ایسے ہیں جن کے نام اور کام کو اہمیت حاصل ہے ان میں میر امن، حیدری، افسوس، نہاد خد نظر علی دلا حسینی، کاظم علی جوان وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

میر امن دلی دالے تھے: نام غالب میر امان تھا۔ کلکتہ آنے سے پہلے شاعر یا مصنف کی حیثیت سے انھیں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، اب بھی ان کی سوانح حیات کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ اپنی زندگی کے متعلق جتنا انھوں نے اپنی مشورہ کتابوں باعث وبار اور گنج خوبی کی تہیید میں لکھ دیا ہے اس سے ان کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب دلی کی حالت بگڑا تو میر امن پشنہ پہنچے۔ خاصی طویل مدت وہاں گزارنے کے بعد کلکتہ گئے۔ وہاں دو سیسیوں ہی گزر گئے۔ پھر ۱۸۷۸ء میں میر بہادر علی حسینی کی مدد سے جان گل کرٹ سے ملاقات ہوئی اور میر امن فورت ولیم کانجھ کے شعبہ تصنیف و تایف میں ملازم رکھ لیئے گئے۔ یہاں تین برس کے دوران میں انھوں نے دو کتابیں باع وہباز اور گنج خوبی تکھیں جن میں باع وہباز نے بڑا نام پایا۔ یہ پتہ نہیں کہ ۱۸۷۸ء کے بعد میر امن کیا ہوئے اور انھوں نے کچھ اور بھی لکھا یا نہیں کیونکہ اس سال وہ کانجھ سے الگ ہو گئے۔

باع وہباز کی ابتداء میں میر امن نے حسب دستور کہانی لکھنے کا سبب بھی لکھا ہے۔ انھوں نے بھی حسین عطا تھیں کی طرح یہی کہا ہے کہ یہ امیر خسرو کی چهار درویش پر مبنی ہے جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ خسرو کی کوئی تصنیف اس نام سے موسم نہیں تھی مگر یہ اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ فارسی میں یہ کہانیاں اس وقت بہت راجح تھیں۔ کیونکہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے تین ترجمے اردو زبان میں ہوئے کئی محققوں کا خیال ہے کہ میر امن نے اس کا ترجمہ فارسی سے نہیں کیا بلکہ تھیں کی کتاب نو طر زمر صنع کو سامنے رکھ کر اسے بول چال

کی آسان زبان میں لکھ دیا ہے۔ میر امن نے لکھا ہے کہ، "جان گلرست صاحب نے لطف سے فرمایا کہ اس قصتے کو تحریک ہندوستانی گفتگو میں بولڈو کے بوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، اڑکے بالے خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو۔ موافق حکم خصور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے؟ ترجمہ کرتے وقت میر امن نے فارسی کتاب بھی دیکھی، مگر اس میں شہہ نہیں کہ انہوں نے زیادہ تر تحقیق کی نظر زیر صبح ہی کا تیقیح کیا ہے۔ کہاں ایک بی ہے مگر دونوں کے اسالیب اتنے مختلف ہیں کہ دو کتابیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میر امن نے محمد معصوم کی چار درویش کے جس نسخے سے ترجمہ کیا وہ اپنے متن میں اس سے مختلف ہو جس پر تحقیق کی کتاب مبنی ہے۔ میر امن نے حقیقت میں تحریک ہندوستانی "زبان کا استعمال کیا ہے اور اس نے اس کو بہت خوبصورت اور ہر دل عزیز نبادیل ہے۔ ترجمہ ہوتے ہوئے بھی یہ خود میر امن کی تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ترجمے ہندی اور یورپی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اور وہاں کے نقادوں نے بھی اس کی تائیش کی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے عہد و سلطی کے ہندوستان کی سماجی حالت اور خصوصاً مسلمانوں کی ثقافتی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور جاگیردار اذہن سماج کے طور پر لیتے، کھانا پینیا، بیاس و زیور، اخلاقی تصورات، ہر مسئلے پر روشی ہوتی ہے۔ اس میں سنسکرت اور بجاشا کے نقطہ اس خوبصورتی سے یہ گئے ہیں جیسے انگوٹھی پر گ جوہ دیا گیا ہو۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کے پھر نہیں مرتیں۔ ان کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے اور فارسی کی ایک مشور کتاب اخلاق حسنی کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب فورٹ ولیم کانکس سے شائع نہیں ہوئی بلکہ بعد میں بہی میں چھپی۔ ابھی کچھ مدت پہلے دلی یونیورسٹی سے اس کا ایک بہت اچھا ایڈیشن شائع ہوا ہے فورٹ ولیم کانکس کے سکھنے والوں میں حیدر خاں حیدری نے سب سے زیادہ کتابیں مکھی ہیں، مگر بکی سب شائع نہیں ہو سکی ہیں۔ حیدری رہنے والے تو دنی کے تھے مگر ان کی زندگی کا بڑا حصہ بارس میں گذر ا پتہ نہیں کہ وہاں بھی انہوں نے کچھ لکھا تھا یا نہیں۔ مگر جب فورٹ ولیم کانکس کھلا اور وہاں اہل قلم کی مانگ ہوئی تو حیدری بھی مکلتے پھوپھے اور وہاں نوکر ہو گئے۔ وہاں انہوں نے کھٹی کتابوں کے ترجمے کیے اور طبعزاد

کتابیں بھی نکھیں۔ ۱۸۲۰ء میں پھر نبادرس چلے آئے اور وہیں ۱۸۲۲ء میں راہی عدم ہوئے جیدری کی تصنیفات میں قصہ مہر ماہ، یہ مجنون، سفہت پیکر، تاریخ نادی گلشن میں، طو طاگہانی، آرالش محفل، گل مغفرت، کے نام خصوصیت سے لیے جاسکتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ مشہور آخری تین کتابیں بیس۔ طو طاگہانی ۱۸۲۰ء میں بھی گھٹی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ دکنی اردو میں لکھے ہوئے محمد قادری کے طو طلی نامہ کو سہل اور بول چال کی رائج اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کتاب بہت پسند کی گئی اور کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ فارسی نے لندن سے اس کا ایک خوبصورت اینڈیشن شائع کیا اور اسمال نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا۔ جیدری کی تصنیفات میں آرالش محفل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس میں عرب کے مشہور سخنی حاتم طائی کے سات خیالی سفروں کی کہانی بڑے دلچسپ طریقے سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب بھی ایک ناہی کتاب پر مبنی ہے، مگر جیدری نے اسی طرف سے بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یہ کتاب بھی گل کرست کے کہنے پر ۱۸۲۰ء میں لکھی گئی۔ اس کی زبان سہل و شیریں ہے۔ یہ بھی کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ گل مغفرت وہی ہے جو فضلی کی کربل کتھا ہے کیونکہ یہ بھی ملا حسین واغطہ کاشتفی کی روضۃ الکاظمہ کا خلاصہ اور ترجمہ ہے۔ شاید یہ کتاب کافی کے لیے نہیں لکھی گئی تھی مگر ۱۸۲۰ء میں کلکتے ہی سے شائع ہوئی۔ ۱۸۲۰ء میں اس کا ایک ترجمہ ایک فرانسیسی نے اپنی زبان میں کیا۔ جیدری شاعر بھی تھے اور ان کے کلام میں غزل، قصیدے، مرثیے سب ہیں، مگر ان کا نام ان کی نشری تصاویر کے سبب سے روشن ہے۔ ان کی زبان آسان ہوتے ہوئے بھی میر آمن کی زبان سے مختلف ہے کیونکہ میر آمن فارسی عربی الفاظ کے مقابلے میں بندی الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور جیدری فارسی کی طرف جھکتے تھے۔

اُن کلکتے کے ایک اور مصنف میر شیری علی افسوس تھے اور وہاں مقرر کیے جانے سے پہلے ہی کافی نام پیدا کر چکے تھے۔ دلی، چنہ، بکھنو کی ادبی مخلوقوں اور اجتماعات میں شریک ہو چکے تھے تیری، سوچ، میرسن، جرات اور انشا کا زمانہ دیکھا تھا، شاعروں میں فتوس بھی ان کے ساتھ اپنا کلام نہ تھے۔ ۱۸۲۰ء میں کلکتے پنج گرگل کرست کی صلاح سے فارسی کی دو کتابوں کی ترجمہ کیا۔ ۱۸۲۰ء میں شیخ سعدی کی شہزادہ آفاق کتاب گلستان کو باع اردو کے نام سے اردو میں منتقل کیا۔ لیکن زبان کمیں کمیں فارسی سے بوجعل ہے افسوس کی دسری کتاب آرائش محفل ہے جو خوشی بجان اُن کی فارسی

تاریخ خلاصہ الموارد تاریخ کا اردو ترجمہ ہے یسحیب ہنری کورٹ اور جان شکپیر نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ یہ کتاب بار بار شائع ہو چکی ہے۔ یہ تجھ کی بات ہے کہ فورٹ دلیم کا مجھ میں ایک ہی وقت میں جو کتابیں نکھل گئیں ان میں سے دو تین کے نام دو دو مصنفوں نے ایک ہی رکھے ہیں۔ آرنس عفل حیدری کی کتاب کا نام ہے اور افسوں کے ترجمے کا بھی۔ حیدری کی دوسری کتاب گلشنِ ہند ہے اسی وقت مزاعطف علی نے بھی اپنے تذکرہ شرعا کا نام گلشنِ ہند رکھا۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اردو فارسی میں کبھی کبھی ابجد کے حساب سے مارکھی نام لکھے جاتے تھے اس لیے ناموں میں تو اردو ہو جاتا تھا۔

مزاعطف دلی کے رہنمے والے تھے۔ دلی کے زوال کے بعد وہ لکھنؤ آئے، پہنچ گئے اور وہاں سے گلکتے ہو پئے۔ گل کرست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اردو شاعر کا ایک تذکرہ لکھنے کی فرمائش کی۔ تطفنے علی ابراہیم خاں کی فارسی تصنیف گلزار از زیر کو سامنے رکھ کر اردو میں گلشنِ ہند لکھ دیا۔ اس کی زبار بصنو عی او رہیجیدہ ہے مگر اس سے معاصر شراء کے متعلق نئی نئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب گلکتے سے شائع نہ ہو سکی اور اس کا مسودہ بھی کھو گیا اتفاقاً ۱۹۰۶ء میں اس کا ایک قلمی نسخہ حیدر آباد کے ایک دریا میں بہتا ہوا ملا اور یہ کتاب وہیں سے شائع ہوئی۔ تطف بھی گلکتے سے حیدر آباد چلے گئے تھے اور وہیں تک منتقل ہوئیں ان کا انتقال ہو گیا۔

دلی کے ایک اور باشندے میر بہادر علی حسینی کا مجھ کے شعبہ تصنیف میں ملازم تھے۔ اور غالباً اس سے پہلے انھیں کا تقدیر دیا ہوا تھا۔ انہوں نے میر حسن کی مشہور رثنوی سحرابیان کو نشر میں لکھا اور اس کا نام نظر بے نظر لکھا۔ حسینی کی دوسری تصنیف جو بہت مقبول ہے، اخلاق ہندی ہے۔ اس کے قصتنے سنکرت کی اخلاقی خوبیوں سے بھری ہوئی کھانایوں پر مبنی ہیں اور اردو میں فارسی سے منتقل کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ۱۸۰۳ء میں گلکتے سے شائع ہوئی۔ ان کی تحریری کتاب تاریخ آسام ہے، یہ بھی ایک فارسی کتاب کا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ فرانسیسی میں بھی ہوا تھا۔ حسینی نے گل کرست کی قواعد کو بھی بخصر کر کے آسان زبان میں لکھا اور یہ کتاب ۱۸۱۲ء میں گلکتے سے شائع ہوئی۔

فوہٹ دلیم کا مجھ کے ایک اور مشہور صنف مظہر علی خاں والا بھی دلی کے رہنماء ملا کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سنکرت، فارسی و ہندی جانتے تھے شاعری

بھی کرتے تھے مگر ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ ولائت اسٹاٹ ۱۸۰۲ء میں گلکنڈہ ہموڑ پر اور وہاں کا بخ کے لیے کئی کتابیں لکھیں، جن میں مادھوں اور کام کندلا، بتیان چپیسی، اور تاریخ شیرشاہی مشہور ہیں۔ مادھون اور کام کندلا مونی رام کوی شیر کی تکمی میونی برج میں موجود تھی۔ ولانے اسے اردو کا جامہ پہنا یا بتیان چپیسی ایک مشور کتاب ہے کہا جاتا ہے کہ محرثاہ بادشاہ کے زمانے میں کسی نے اسے برج بھاشاہی میں لکھا اور اسی سے دلکش آردو میں لے لیا۔ اس کے ترجمہ میں ان کے مددگار اللوال جی تھے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ ترجمہ ہو جانے پر بھی اس میں برج بھاشاہی کے نقطہ رو گئے ہیں اور بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے نہ جانے کتنے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس وقت کی اردو کا ایک بہت دلکش نمونہ ہے۔ ولانے تاریخ شیرشاہی کا ترجمہ فارسی سے کیا تھا۔ گارسان قیہاہی نے اس کا فارسی ترجمہ ۱۸۷۶ء میں فرانس سے شائع کیا۔

مرزا کاظم علی جوان بھی فورٹ ولیم کا بخ میں ملازم تھے۔ دلی ہی کے رہنے والے تھے اور گلکنڈہ آگے تھے۔ ۱۸۵۷ء میں گل کرسٹ کی استدعا پر کامی دا اس کی لازوں تخلیق انجگیان شاکنڈم کا ترجمہ شکنڈلانامک کے نام سے کیا۔ فخر سیر کے زمانے میں سنکریت یہ ہاک قصہ کی صورت میں برج بھاشاہی میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے مصنف کا نام یا تخلص نواز تھا۔ اس ترجمے میں بھی اللوال جی نے جوان کی مدد کی۔ یہ بادر کھانا چاہیے کہ یہ تصنیف نامک کی شکل میں نہیں لکھی گئی ہے کیونکہ غلط فہمی اور لاعلمی کی بنیاد پر کچھ نقادوں نے اسے اردو کا پہلا دراما قرار دیا ہے۔ جوان نے اور کتاب میں بھی لکھیں اور ان کے علاوہ اللوال جی کو نگماں بتیسی کے لکھنے میں مدد دی اور کئی دوسرے مصنفوں کی زبان کی اصلاح کی۔

نہال چندلا ہوری اس کا بخ کے ایک اور مصنف تھے۔ وہ بھی دلی ہی کے رہنے والے تھے۔ مسحی چنگاپ میں رہنے لگے تھے اس لیے لاہوری کہے جانے لگے۔ انہوں نے ۱۸۷۶ء میں گل کرسٹ کے کہنے پر گل بکاؤلی کی مشہور کھانی کا فارسی سے آردو میں ترجمہ کیا۔ یہ کھانی ہندوستان کی لوک کنمہاذ میں بڑی شہرت کھلتی تھی جسے عربت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھ لیا تھا۔ نہال چند نے اسے آسان، صیغح اور شیرین آردو میں لکھ کر اس کا نام مذہبِ عشق رکھا۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۸۷۶ء میں نکلا اور اس کے بعد نہ جانے

کتنی تربہ مختلف جگہوں سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کو پنڈت دیاشنکرنیم نے ۱۸۲۵ء میں اپنی مشہور رشنوی گلزار نسیم کی شکل میں پیش کیا۔ اس منظوم تخلیق کے آگے لوگ ندہب عشق کو بھول گئے۔

لاہور کے ایک شاعر بھی نرائن جہان بھی فورٹ ولیم کا بخ میں اس وقت پنجھ جب گل کرست وہاں سے جا پکے تھے مگر انہوں نے کانج کے لیے دوستا بیس تیار کیں ایک تو عشقیہ داستان تھی جس کا نام چارلکشن تھا اور دوسرا کتاب شرعا، کا ایک تذکرہ تھا۔ جو کپتان روڈکت کی فرانش پر مرتب کیا گیا اور ۱۸۳۸ء میں تمام ہوا۔ اس میں لکھی گئیں شاعروں کا مختصر حال ہے اور جہان نے اپنے کلام کا بڑا حصہ بھی اس میں جمع کر دیا ہے۔ غالباً اسی لیے اس کا نام دیوان جہان رکھا۔

گجرات کے ایک برہمن تلوالی حی جنھیں جدید مندی نشر کا بانی کہا جاتا ہے، فورٹ ولیم کا بخ میں ہندی کتابیں لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے پریم ساگر، راج نیتی اور کھد دوسرا کتابیں ہندی میں لکھیں۔ یہ وہ ہندی تھی جس کی بنیاد کفردی بوی پر تھی۔ ان کتابوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کی تصنیف سے ہندی نثر میں اس نئی روایت کی بہر دوڑ گئی، جو تھوڑے فرق کے ساتھ اردو ہی کی نقل تھی ہندی اور کے ناتھ بھاروں نے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں اس کی طرف محض اشارہ ہی کافی ہو گا۔ تلوالی حی اردو بھی جانتے تھے، انہوں نے کاظم علی جوان کی صد سے اردو میں نگہا سن پتیسی تھی اور یہ کتاب اردو اور مندی دونوں رسم الخطوط میں شائع ہوئی۔

ان مصنفین کے علاوہ تاریخ چون متر، امانت اللہ شیدا، حفیظ الدین، اکرم علی خلیل علی اشک اور مزرا جان پتیش نے بھی کئی کتابیں لکھیں اور تھوڑے ہی عرصے میں فورٹ ولیم کا بخ کی سر پرستی میں اردو نثر کے خزانے میں بڑا سرمایہ جمع ہو گیا۔ اب اگر ہم اس کا بخ میں بھی ہوئی کتابوں اور اردو نثر کے ارتقا کا جائزہ لیں تو ہمیں کئی باوں لٹکاہ میں رکھنا ہو گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزوں نے یہ کانج بدیکیوں کے لیے قائم کیا تھا اور یہاں اسی قسم کی کتابیں بخواہیں جوان کے کام کی تھیں۔ ان کتابوں میں اس وقت کی حالت یا عوام کی بدحالی اور آزادی کے خوابوں کے بارے

میں کچھ دھونڈھنابے سوڑھو گا۔ ان کا پلا مقعدہ سی تھا کہ انگریز اردو زبان سیکھ جائیں یہ اور بات ہے کہ ان میں کی کچھ کتابیں اعلیٰ درجہ کی تصنیفات ثابت ہوئیں اور نشری ادب کے ارتقا میں ان کی اہمیت مسلم ہو گئی۔ دوسری بات جن کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے حکام نے ترجیح پر زور دیا اور سخیدہ موضوعات پر کتابیں نہیں لکھوائیں ان کا تعلق کچھ تو اس مقصد سے ظاہر ہے جس کو پیش نظر رکھ کر کے کتابیں لکھوائی جاتی تھیں اور کچھ اس وقت کی سیاسی اور سماجی صورت حال کا پستہ دیتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں زیادہ تر کالج کے اندر محدود رہیں اور باہر کے لوگ ان کے بارے میں زیادہ واقفیت حاصل نہ کر سکے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نشرنگاری نے عموماً اردو نشر کے ارتقاء پر کوئی کمیرا اثر نہیں ڈالا یہ ضرور ہوا کہ کچھ معمولی مصنف جو دنی اور بخنوں کے ماحول میں صرف لکیر کے فقیر شاعر ہو کر رہ جاتے، اُنہے امول میں ایک نئے نثری اسلوب کے بانی بن گئے۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج کی ایک خاص اہمیت ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

فورٹ ولیم کالج کے باہر بھی اردو نشر میں جو کام ہو رہے تھے رفتہ رفتہ ان کے بارے میں اب ہماری واقفیت بڑھ رہی ہے۔ اس مختصر تاریخ میں ان کا ذکر اخصار ہی سے کیا جا سکتا ہے۔

یہ تحقیقی میر کے ایک رشتہ دار محمد حسین کلیم اپنے زمانے کے مشور شاعر تھے انہوں نے تصوف کی بہت ہی مستند اور بادن کتاب قصوص الحلم کا اردو میں ترجمہ کیا۔ بندہ ابن حکیم محمد شریف، بہرخپد اور بھبور وغیرہ نے بھی نشر میں کتابیں لکھیں۔ پچ تو یہ کرنجی نے کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، مگر یہ تمکہ بہت کم پہنچی ہیں کیونکہ اس وقت تک ہندوستان میں پریس نہ ہونے کے برابر تھے اور قلمی کتابیں غائب ہو جاتی تھیں پھر بھی جو کتابیں دستیاب ہیں، ان کے نام یہے جاسکتے ہیں۔ بخنوں میں نظر کے ساتھ نشر کا بھی ارتقا ہو رہا تھا۔ مخدوش چہبور نے کمی داستانیں لکھیں، جن میں گلشن نوبار، اور نورتن شہر ت پاکی ہیں۔ اس طرح حقیقت کے کارنامے جذب عشق اور نشر کی تصنیف ہفت سیاچ بھی اپنے زمانے میں مشور تھیں۔ انہیوں مددی کے آغاز میں لکھی ہوئی کتابوں میں انشاء اللہ خان انشائی تصنیف، رانی گیتکی اور کنور اور دے بجان کی گہانی

ایک خاص اہمیت رکھنے والی کتاب ہے، جسے مہدی اور اردو دنوں کے نقاد اپناتے ہیں۔ انشا کا ذکر لکھنؤ اسکول کی شاعری کے سلسلے میں آچکا ہے، یاں صرف یہ بتا نا ہے کہ انہوں نے یہ کہانی ایسی مہدوستانی زبان میں لکھی جس میں فارسی عربی کے الفاظ سے پرہیز کیا ہے پھر بھی ساری کہانی بڑی صاف تحریر نظر میں بخوبی ممکن ہے۔ یہ کتاب دیوانگری رسم الخط میں بھی شائع ہو گئی ہے اور اگر کسی دوسرے سبب سے نہیں تو زبان کے اعتبار سے پڑھنے کی چزیرے ہے۔ انشا کی جودت عقل، ان کے تخیل کی قوت اور خیالات کی جدت اس کتاب سے بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے۔ انشا کی دوسری اہم تصنیف دریائے لطافت ہے جو فارسی میں ہے مگر اس میں اردو نثر کے منونے ملتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک ناصل اہمیت یہ بھی ہے کہ کسی مہدوستانی مصنف کی لکھی ہوئی اردو کی پہلی قواعد سمجھی جاتی ہے۔ یہ سمجھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک قواعد نہیں ہے بلکہ سالیات کا ایک بڑا قاموس بھی ہے اور اس سے اب تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس میں زبانی کی زبان کے دلچسپ نونے دیے گئے ہیں اور مختلف مقامات کی بویوں کے فرق کو بڑی بھیت کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ انشا کی ایک اور کتاب سلک گھر دستیاب ہو گئی ہے یہ نثر میں ایک مختصر کہانی ہے مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشق و حروف کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ کہانی معمولی اور عام ہے۔

مہدوستان میں وہابی تحریک کے ایک رہنماؤں کی تبلیغ تھے یہ تحریک سکھوں اور انگریزوں کے خلاف انسیوں صدی کے آغاز میں کافی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے رہنماؤں میں ایک خاص طرح کی اصلاح چاہتے تھے اور اپنے خیالات کی تبلیغ میں جوش اور دولہ کا مظاہرہ کرتے تھے اس کے بالے میں فاتحی اور اردو میں ان کی تعینیتاً بھی ملتی ہیں۔ مولوی سمیعیل شہید نے اردو میں ایک کتاب تقویت الایمان لکھی جو ادبی نہیں مذہبی حیثیت سے مشہور ہوئی۔ اس سلسلے میں کچھ مختصر سائل اور سبی ملتے ہیں جن سے اندادہ ہوتا ہے کہ فارسی کے بجائے اردو نثر کا استعمال زیادہ کیا جا رہا تھا۔

اس عهد کی سبے اہم نشری تصنیف مرزا جب علی بیگ سرور کی لازوں تخلیق فرانز جیاٹ ہے۔ سرور لکھنؤ کے سبے اہم نشرنگار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ ہی میں رائج وقت تعلیم میں کمال حاصل کیا۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے

اور احترام کی نظر سے دیکھتے جاتے تھے۔ اودھ کے بادشاہ غازی الدین جیدرنے کسی بات پر زیارت اپنے ہو کر انھیں تکھنو بدر کر دیا اور سرور کان پور چلے گئے، وہیں اپنے دوست جیکم اسد علی کی فرمائش پر فاسٹہ مجاہب تکھی۔ جب واجد علی شاہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے سرور کو معافی دے دی اور تکھنو بلا کر ان کو عزت خوشی۔ غدر ہونے پر سرور کو تکھنو حجوم پڑا۔ جملہ کے بعد سے وہ اپنے دوسرے کمالات ملا شہسواری، خطاطی، تیراندازی دغیرہ کے باعث ہمارا جہ بنا رس، ہمارا جہ الور اور ہمارا جہ پیالہ کے یہاں عزت کے ساتھ رہے۔ جملہ میں آنکھوں کے علاج کے نیے سلکتے گئے۔ وہاں سے واپسی پر جملہ میں انتقال کیا۔

سرور کی کئی تصنیفیں ملی ہیں جن میں سب سے پہلی اور سب سے اہم فاسٹہ مجاہب ہے۔ یہ کہانی تکھنہ و میں تھکی گئی اور جیسا کہ اس زمانے کی کہانیوں میں ہوتا تھا یہ بھی داستانی زندگ میں غیر فطری باتوں سے پڑتا ہے۔ اس پر پروات اور الف لیلہ کا اثر حاف طور سے دکھائی پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہس کو قدیم داستانوں اور جدید ناول کے بچ کی کردار کہا ہے تھغرد حقیقت پر اనے افسانوں کی طرح اس میں بھی کچھ اخلاقی فضائل کی تبلیغ اور مختلف اقسام کے نامکن واقعات کے خیالی بیان سے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا اسلوب برازگھن اور بھیپیدہ ہے اور اکثر عبارت مقلی ہے اس میں سیر گھن کی سهل زبان کی سہی اڑائی گھٹی ہے کیونکہ مصنف کی نظر میں سیدھی سادی شرمنگاہی کوئی ہنر نہیں اسے صنائع سے پر ہونا چاہیے۔ سرور کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے کے مطابق افاظ ڈھونڈنے کرتے ہیں اور ضرورت ہو تو ہندی افاظ کا استعمال بھی فن لا طریقہ سے کرتے ہیں۔ اس کتاب سے تکھنو کی تہذیب کے متعلق بڑی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ولادت، موت، شادی کے رسم، رہن سن، عقائد، توبات اور مردو جہلوم کے بارے میں سب سی تابیں بڑی خوبی سے اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں مگر افانے کے واقعی زندگی سے دور ہونے کے باعث آج کے قاری کو عام طور سے اس میں لطف نہیں ملتا۔ پھر بھی یہ تخلیق اور دو ادب کی غلطیم تخلیقات میں سے ہے اور بیسوں بار شائع ہو چکی ہے۔

فاسٹہ مجاہب کے علاوہ سرور نے اور کئی تصنیفات کیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:-

سرور سلطانی، شر عشق۔ شگوفہ محبت، گلزارِ سرور، بستانِ بسرور، اور ان شاہی میں سرور سلطانی ۱۷۳۶ء میں واحد علی شاہ کے حکم سے لکھی گئی۔ یہ شاہنامہ فردوسی کے ایک فارسی خلاصہ کا ترجمہ ہے۔ شر عشق میں چڑیوں کی محبت کی کہانی بڑے دلچسپ طریقے سے کہی گئی ہے۔ اس کی تصنیف ۱۷۸۵ء میں ہوئی۔ اسی سال شگوفہ محبت بھی لکھی گئی۔ یہ بھی ایک داستان محبت ہے جسے میر خند کھڑی اس سے پہلے لکھ کر کے تھے۔ گلزارِ سرور ایک صوفیانہ کتاب کا ترجمہ ہے جس پر مرا زانگالت نے پیش نظر بھی لکھا تھا۔ بستانِ بسرور میں الف یلہ کی کچھ کہانیوں کا ترجمہ ہے اور ان شاہی سروران کے مکاتیب کا مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد مرتب ہوا۔

ای زمانے میں اودھ میں کچھ اور تصانیف بھی کی گئیں جو اہم تر کھتی ہیں۔ فیض محمد خاں گویا شاہی فوج میں رسالدار تھے اور بڑے امر اور بڑے گئے جلتے تھے۔ وہ اس وقت کے اچھے شاعر تھے اور ناشخ کو اپنا کلام دکھاتے تھے ۱۸۵۰ء میں ان کا انتقال ہوا۔ گویا نے ۱۸۲۰ء میں فارسی کی مشورہ کتاب انوارِ سیلی کا ترجمہ بستان حکمت کے نام سے کیا۔ اس میں بھی ہتھ پدشیں اور ڈیچ نتر کی کہانیاں ہیں، گویا کا ترجمہ بہت سہل اور سادہ تو نہیں ہے مگر اس کی زبان سرور کی زبان کی طرح صنائع سے بھری ہوئی بھی ہے۔ اس کے چند سال بعد میثم خند کھڑی نے ایک فارسی کہانی کا ترجمہ قصہ گل دصنور کے نام سے کیا اور شائع ہوا۔ کچھ دوسرے مصنفوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ مگر یہاں ان کا ذکر نہیں کیا جاسکتا۔

اردو نشر کے ارتقاکی کہانی ادھوری رہ جائے گی اگر وہی کانج اور اس سے متعلق وزناکلریز انسٹیشن سوسائٹی کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اگر فورت ولیم کانج میں قصص، تاریخ اور نہ ہی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو اس سوسائٹی نے ریاضی، سائنس، بخوم، منطق اور فلسفہ کو بھی ترجمے کے منصوبے میں شامل کر لیا۔ ۱۸۴۰ء کے بعد ولی ایک طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حلقة، اثر میں آچکی تھی اور وہاں بھی انگریزوں نے وہی جال بچانا شروع کر دیا تھا۔ جو اور مقامات پر بچا پاتھا۔ ولی کا اعلاقہ سہندر مسلم ثقافت کا قدم مرکز تھا جہاں دونوں مل جل کر محبت، کے ساتھ رہتے تھے۔ مگر پورے ملک میں جوئی صورت حال پیدا ہو رہی تھی اس کا اثر یہاں پڑنا بھی قدرتی تھا۔ قدیم روایات کا یہ شہر آسانی سے سب کچھ قبول نہیں کر سکتا تھا مگر صورتیات زندگی نے نئی طرح کی تعلیم گاہیں کھولنے پر مجبور کیا۔ ۱۸۴۰ء میں

دلتی کا بخ قائم ہوا جس میں ہر صورت کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی اور زور یعنی تعلیم اور دوزبان تھی۔ سرکاری روپرتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصوبہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے میں اس کا بخ میں انگریزی جماعت بھی کھوں دی تھی۔ دلتی کے باشندوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس حکم میں ترمیم کرنی پڑی۔

یہ وقت تھا کہ ہندوستان میں اردو سرکاری دفتروں کی زبان قرار دی جا چکی تھی اور اگرچہ تعلیم کی زبان انگریزی تھی مگر دلتی کا بخ میں ساری تعلیم اردو ہی کے ذریعے دی جا رہی تھی۔ جو ایجنسیشن نیشنل کا بخ کا نظم و نسق چلاتی تھی وہ کچھ کتابوں کے ترجمے اردو میں کراچی تھی کہ ہندوستان میں درنما کلرٹر انسلیشن سوسائٹی کی تشكیل ہوئی جس کی نگرانی میں سوسائٹی زیادہ کتابیں تیار ہوئیں۔ یہ سوسائٹی زیادہ تر عوام کی مدد سے طبقی تھی اور کبھی کبھی سرکاری مدد بھی مل جاتی تھی۔ جن کتابوں کا یہاں ترجمہ ہوا یا جو کتابیں یہاں مکھوانی اور چھپوانی ہیں ان کی فہرست نہیں دی جاتی تھی مگر کچھ کتابوں اور موضوعوں کے نام دیے جاتے ہیں جس سے اس سوسائٹی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکے گا۔ زبان مابھارت، بیلودتی، دھرم شاستر، شکنلا، رکھوٹش وغیرہ کے ترجمے، سودا، میر، درد، جرأت وغیرہ کے دیوان، بندوستان، ایران، یونان، انگلستان، روم کی تاریخیں، سائنس کے بھی شعبوں پر کتابیں، جز افیہ، کمائی، شرعا، کے تذکرے اور مذہبی برائلی بھی اصناف کی کتابیں اس سوسائٹی نے تیار کرائیں۔ ترجمے زیادہ تر انگریزی، فارسی، عربی اور سکرنت زبانوں سے ہوتے تھے۔ انہوں اس بات کا لے ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کتابیں بہ نہیں ہیں۔ صرف انڈیا آئیس لائبریری (لندن) میں ان کا بڑا حصہ موجود ہے۔ مترجموں میں دھرم نارائن، ہایو ھیما پرشاد، ہری دمن وال، خشیل پرشاد، وزیلی خلام علی، محمد عین الدار رام خنڈر کے نام ملتے ہیں ان میں ماستر رام خنڈر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

رام خنڈر دلتی کا بخ کے پڑے ہوئے تھا اور تعلیم ختم کرنے کے بعد اسی کا بخ میں پڑھنے سائنس کے استاذ ہو گئے۔ انھیں ریاضی سے خاص لذتاً تھا اور انہوں نے ریاضی کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا۔ ریاضی کی ایک تصنیف کا انگلستان میں منتقل کیا گیا۔ رام خنڈر نے کئی علمی کتابیں بھی تھیں جن میں جا سب دوسرے کار اور تذکرہ ان کا میں

بہت مشور ہیں۔ وہ عیاں ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے دل کے سماں پر
یعنی ان کی عورت بھی کم ہو گئی تھی بکریہ جذبہ ان کی لیاقت اور علم کے سامنے قائم نہ رہ سکا۔ اس
نام خپڑ کو بدی مونی صورت حال کا پورا احساس تھا۔ اس یہ انہوں نے فوائد اناظرین
اور محبہ ہند کے نام سے رسائی بھی شائع کیے اور سنسی خیالات کے پھیلانے کی کوشش کی
یہ کنا اعلان نہ ہی گا کہ رام خپڑ ایک ترقی پسند فن کار تھے، جن کے مضمایں نے خیالات
کے لیے لاستہ صاف کیا۔

یہ اردو نشری ترقی کا ایک مختصر خاکہ ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ اگرچہ اس کا آغاز
پندرہویں صدی میں ہو چکا تھا مگر اس کا ہمہ گیرا اور مہہ جبت ارتقا انیسویں صدی کے
نصف اول میں ہوا۔ جونقاد دلی کالج کے نصاب تعلیم کو بغور دیکھنے کا سے پیدا کیوں کہ حضرت
ہو گی کہ سائنس اور دوسرے مضمایں اردو میں کس طرح پڑھائے جاتے رہے ہے ہوں گے
اور جو اس کی کامیابی کا حوال رپورٹوں میں پڑھے گا اس سے معلوم ہو گا کہ اردو زبان میں اسی
طاقت اسی وقت آپکی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کا دریعہ بن سکے۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے نثر کا ارتقاء جیسا احوال چاہتا تھا وہ تہذیبی اور تاریخی
کی وجہ سے ہندوستان میں پیدا ہو چکا تھا اور ہندوستان کی ہر زبان میں شاعری
علاوہ نثر کی جانب بھی توجہ کی جا رہی تھی۔ تعلیم، پریس، اخبارات اور بعض دوسری
آسانیوں نے بھی نشری ترقی کے لیے راہ ہموار کر دی تھی، لیکن اس کا ذکر تفصیل سے
آگے آئے گا

نوں باب

نئے دور سے پہلے : نظم اور نثر

اُردو زبان کی ترقی جن سماجی اور سیاسی اسباب سے دائرۃ تحفی ان کے اثر سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ دہلی اور لکھنؤ کے مرکزوں میں خدود نہ تھی، بلکہ اپنے نئے نئے مرکز بناتی جا رہی تھی۔ سیاسی اخطاوں کے باعث جو تبدیلیاں ملک میں ہو رہی تھیں ان کا فلسفیانہ اور تاریخی اور اک بہت تھوڑے سے لوگ کر سکتے تھے۔ شاعر و ادیب پرانی روایات سے چنے ہوئے، اسی زندگی کے مثالی تصورات پیش کر رہے تھے جو پارہ پارہ ہو رہی تھی۔ مہدوستان میں انگریزی راج کے قائم ہونے، نئی معاشرتی صورت حال کے پیدا ہونے کے باعث جو نئی لہر انیسویں صدی کے وسط میں آئی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس باب میں طوفان سے پہلے کی اس حالت کو دیکھنا ہے، جو ایک طرح کے ضحاکاں و تعطیل کا پتہ دیتی ہے۔

دلی اور لکھنؤ کے مرکزوں تو تھے ہی، رام پور اور حیدر آباد میں بھی بڑے بڑے ادبی مرکز قائم ہوئے۔ معنوی اعتبار سے غور کیا جائے تو ایک دربار سے دوسرے دربار میں کوئی بڑا فرق معاوم نہ ہو گا اس لیے ادب کے اسالیب میں جو جدت آئی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ادب کی اصل بنیادوں میں کوئی تبدیلی ہو رہی تھی۔ دلی میں غالب، ودقہ اور موتمن کے شاگرد اور لکھنؤ میں آتش اور ناخن کے طرز سے تعلق رکھنے والے شاعر کوہ تو پر نہ ناستے پر سی چل رہے تھے اور کچھ نئی صورت حال کو سمجھ کر نئی راہ کی تلاش میں نکل پڑے۔

تھے ۱۸۵۷ء کے خدر کی وجہ سے ولی اور بخنوں کی سلطنتیں ختم ہو چکی تھیں۔ واحد علی شاہ ٹیا بر ج (کلکتہ) میں قید کی زندگی سرکر رہے تھے، مگر بخنوں کے کئی شاعر اس عالم میں بھی آن کے ساتھ تھے۔ بہادر شاہ ظفر زنجون میں پڑے ہوئے بھجوبس ہندستانی زبانوں کے علاقے سے بہت دور تھا جید ر آباد میں شعرا کی بڑی تعظیم و توقیر ہوتی تھی اور اپنے اپنے وزیفوں پر شاعر وہاں بلائے جاتے تھے۔ پرانی روایات کے باعث وہاں اردو زبان کی ترقی کے لیے زمین سپلے سی سے تیار تھی رام پور کے نواب خود شاعری کرتے تھے اور اد بیوں، فنکاروں اور عالموں کو بلا کر اپنے دربار کی رونق بڑھاتے تھے۔ ان کے علاوہ پشتہ، مرشد آباد، فرخ آباد، ٹونک، بھوپال، منگول اور آلو روغیرہ بھی شعروں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس محل پر تسامم شعرا، اور اد بیوں کے نامہ کے کوئی بڑی تصویر سامنے لانا ناممکن ہے۔ صرف ممتاز شعرا کا ذکر کر کے یہ بتایا جاسکتا ہے کہ اردو ادب کس طرح دیں کے کونے کونے میں پہنچ رہا تھا اور اس کی ترقی میں بھی فرقوں اور مذہبیوں کے لوگ حصہ لیتے تھے۔ تخلیق نظر کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر شہر کی ترقی بھی ہو رہی تھی کیونکہ اردو عام طور سے ملک کی قومی زبان سمجھی جانے لگی تھی اور انگریزی حکومت نے فارسی کو نکال کر اردو کو سرکاری زبان قرار دے دیا تھا جس کا سبک زیادہ اثر پر پڑا، بہت سے نئے نئے مطبعے کھل گئے اور رسائل شائع ہونے لگے۔ اگرچہ اس سے بہت سچے نشری تصنیفات پڑا، تعداد میں تیار مولکی تھیں مگر ان کے شائع کرنے کی سہولت نہ ہونے کے باعث ان کی اشاعت رکی ہوئی تھی۔ نظیں جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتی تھیں مگر نشری مضامین مخطوطے کی شکل میں ایک ہی جگہ پڑے رہ جاتے تھے، زیادہ تر مذہبی اہمیت کی حوال تصنیفات کی نقل کی جاتی تھی۔ پریس قائم ہو جانے سے نشر کی ترقی کو مدد ملی۔

ہندوستان کے لیے یہ دور عجیب و غریب سائل کا دور تھا۔ ایک طرف اس جدت کا طوع ہو رہا تھا جو سیمعی معاشی صورت حال سے پیدا ہو رہی تھی اور دوسری طرف اسی پر لانے والے پر طپنے والا ہندوستان تھا جس کی دیہی زندگی ابھی سوئی ہوئی تھی اور شہری زندگی نئے اور پرانے کے درمیان اپناراستہ ٹوٹی رہی تھی۔ اس عمد کا تجزیہ اس لیے بھی آسان نہیں ہے کہ ملک کا جا گیر دارانہ عہد مٹ کے بھی مٹا نہیں تھا اور

نئی بیداری ابھی کچھ لوگوں کے ذہنی افق ہی کو چھوکی تھی۔ اس بینے نئی اور پرانی لہریں متوازی چل رہی تھیں۔ نئی لہر کا مفصل بیانِ الحکم باب میں ہو گا۔ بیانِ اس سلسلے کو چوڑا رکھنے کی کوشش کی جائے گی جو کئی صدیوں سے چتا جا رہا تھا۔ دلی میں غالب، ہون اور ذوق کے شاگرد شیفۃ، محروم، نسم، تیری، انور، ساکت، داع وغیرہ اور لکھنؤیں آسیں۔ برق، تحریر، تیزی، شوق، قلق، امانت، جلال، امیرپناہ وغیرہ اسی ڈھرے پر چلے جا رہے تھے جو ان کے اساتذہ کا بنا یا ہوا تھا۔ ان کے شعور میں کوئی تازگی نہیں ہے۔ لکھنے کا انداز ضرور کسی قدر نیا ہے۔ ان شعراء نے قصیدہ، شنوی، غزل اور مرثیہ وغیرہ بھی اصناف میں وسعت پیدا کی مگر ان کا بڑا حصہ رہا یعنی زندگی کے جمود اور سماجی پڑ مردگی کا شکار تھا۔ انھیں میں سے چند شاعر ام پور حیدر آباد اور دوسرے دیواروں میں پنچھے اور ان کے سبب سے شاعری کی دنیا وسیع ہوئی۔ احترام کے ساتھ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ تھیمل سے طوالت بھی ہو گی اور کوئی نئی حقیقت بھی سامنے نہیں آئے گی۔

نواب محمد مصطفیٰ خاں شیفۃ آردو میں اور مومن فارسی میں غالب کے شاگرد تھے۔ ان کے والد کو بہت بڑا علاقہ انگریزی سرکار سے ملا تھا۔ اس وجہ سے ان کا کتبہ بڑی حرمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شیفۃ نے دلی کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں کے بھی صفت اول کے علا اور شعر سے ان کی دوستی تھی۔ خدر میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا مگر بعد میں وہ بے قصور ثابت ہوئے اور چھوڑ دیے گئے ان کے علم و فضل کو غالب ایسا شاعر بھی تسلیم کرتا تھا۔ انہوں نے اپنا دیوان اکیس برس کی عمر میں تیار کر لیا تھا۔ تیتیس سال کی عمر میں حج کرنے لگئے اور وہاں سے آگرشاہی بہت کم کر دی سلطنت و میں ان کا انتقال ہوا۔

اُردو دیوان کے علاوہ شیفۃ کا ایک فارسی دیوان اور فارسی ہی میں کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں ذکرِ شعراء، ہلکتیں بے خار سب سے زیادہ مشور ہے اس میں اُردو شعراء کے سوانح حیات اور ان کے کلام پرچل تبصرہ بزرے اچھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعے سے شیفۃ کی قوتِ انتقاد کا پتہ چلتا ہے اس ضمن میں تعجب کی بات ہے کہ وہاںک اچھے شاعر ہونے کے باوجود کبھی بہت مقبول نہ ہو سکے۔ جاں تک اُردو شاعری کا نسلن

ہے انھوں نے زیادہ تر غزلیں کئی ہیں جو پتے جذبات اور پر اثر خیالات سے بے لبرز ہیں وہ جذبات کی خیالی تصویر پری خوبصورتی سے پش کرتے ہیں۔ انھیں خود اس بات پر ناز تھا کہ وہ مبالغہ گوئی سے کام نہیں لیتے پھر بھی ان کا کلام دل نشین ہو جاتا ہے۔ غالباً، مومن اور رحائی سبھی ان کی شاعری کے مذاع ہیں۔ کچھ شعر مثال کے لیے دیے جلتے ہیں:

شاید اسی کا نام محبت ہے شیفۃ اک آگ سی ہے یعنے کے اندر گئی ہوئی

وہ شیفۃ کہ دھوم تمیٰ حضرت کے نہیک میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھٹلتے

ہزار دام سے کھلا ہوں ایک جنپش میں جسے غزوہ ہوا آئے کرے شکار مجھے

انہارِ عشق اس سے نہ کرتا تھا شیفۃ یہ کیا کیا کہ دوست کو دشمن بنا دیا

کس لیے بطف کی باتیں ہیں پھر کیا کوئی اور ستم یاد آیا
محروم جن کا نام میر جدی تھا، غالباً کے بڑے عربز شاگرد تھے۔ پانی پت
میں رہتے تھے مگر وقت زیادہ دلی میں گزر زما تھا۔ غالباً نے ان کے نام بہتے
خلا کھی ہیں جن سے دونوں کی دستی اور تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ خدر کے کھروں گزرنے کے
بعد وہ ہمارا جہ الور کے یہاں ملازم ہو گئے اور آخر میں رام پور چلے آئے اور وہیں پنا
دیوان ترتیب دیا، جو ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا۔ محروم نے طویل عمر پائی اور بہت بُٹھے
پہنچ کرستہ کے قریب را ہی آخرت ہوتے۔ ان کی زبان دلی کی بول چال کی زبان تھے
محروم اسی آسان زبان میں اچھے اچھے شرکہ لیتے تھے، مولانا حائلی جو اردو کے دو بول
کے تعدادوں میں اہمیت کے حامل ہیں، محروم کے کلام کے حد درجہ مذاع تھے۔ مثال
کے لیے یہ شعر دیجیے:

صبر کے فائدے بہت ہیں وہ دل ہی بس میں نہیں تو کیا کیجے

دل کو کوئی بچا سکے کیونکر اس کے انداز، میں قیامت کے

دل ہی سمجھے ہے کچھ تڑپ کے فرے برق میں بطف اضطراب کیاں
 تیسم جن کا نام اصغر علی خان تھا، دلی کے رہنے والے تھے اور سومن کے مقابلے
 تلامذہ میں شارہوتے تھے۔ کھاتے پتیے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بڑے بڑے
 شاعرے منعقد کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بھائیوں سے ان بن ہو گئی
 اور وہ لکھنؤ پہنچے آئے بیہاں بڑا نام پیدا کیا اور بہت سے شاگرد جمع کر لیے۔ خدر کے
 وقت لکھنؤ ہی میں تھے اور اپنے دن سے دو را فلاں کے عالم میں زندگی ببر کرتے
 تھے۔ نوکشور پر پس میں الف نیلہ کی کہانیوں کو نظم میں منتقل کرنے کے لیے ملازم
 ہو گئے تھے مگر اسے پورا نہ کر سکے، بعد میں نشی طوہار آم نے اسے آنام تک پہنچایا۔
 لکھنؤ میں رہ کر وہ بڑے فرز سے دلی کی زبان اور اسلوب شاعری کی نشر و اشاعت
 کرتے تھے مگر تقاضوں کا خیال ہے کہ ان پر لکھنؤ کی زبان اور طرز کا اثر بھی پڑا تھا۔
 ان کے نگ شاعری پر سومن کا اثر بھی صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کا دیوان شائع
 ہو چکا ہے، مگر عموماً لوگ ان سے واقف نہیں ہیں ان سے زیادہ شہرت ان کے
 ایک شاگرد امیرا شد تیسم کو مال ہوئی تیسم کے دل شعریہ ہیں:-

نام میرا سنتے ہی شرما گئے تم نے تو خود آپ کو روکا

جب دیکھیے قرار نہیں ایک حال پر بیرسا اب تو حال ہوا روزگار کا

دل ہی کے ایک اور شاعر نظریہ تھے۔ چودہ برس کی عمر میں ذوق کے شاگرد ہو گئے
 تھے اور خدر کے وقت تک دلی ہی میں رہے۔ اس کے بعد بلاش معاش میں مارے مارے
 پھرے، چار سال رام پور میں، ہجار سال اور میں، اُسیں سال بچ پور میں پندرہ سال
 ڈینک میں اور آخری دنوں میں حیدر آباد میں رہے۔ نظریہ عموماً غزلیں لکھتے تھے
 مگر جو شاعر اتنے درباروں کی خدمت کر چکا ہوا اس کے لیے قصیدہ کہنا ناگزیر ہے۔
 آئنے بہت سے قصیدے اور دوسرے اصناف میں نظمیں بھی تھیں۔ مگر درحقیقت

غزل ہی کی وجہ سے شہرت پائی۔ انھوں نے اپنے چار دیوان تیار کر لیے تھے جن میں سے تین شائع ہو چکے ہیں۔ شاعری سے زیادہ شہرت انھیں اپنی کتاب داستان غدر کی وجہ سے ہوئی جو آپ بیت کا انداز رکھتی ہے۔ ظہیر تھے تو ذوق کے شاگرد، مگر ان کے کلام میں مومن کارنگ جملکتا ہے۔ مومن ہی کے ماں وہ سبھی محبت کے احساسات و تجربات کو بڑی خوبصورتی اور فراز اکت سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی زبان فارسی آمیز ہوتے ہوئے بھی سهل ہے۔ ظہیر کے چھوٹے بھائی آنور بھی ایک اچھے شاعر تھے، پیلے ذوق کو اپنا کلام دکھاتے تھے پھر غالباً کے شاگرد ہو گئے۔ دل کے بڑے اچھے اور مقبول شاعر لئے جاتے تھے۔ غدر کے بعد وہ بھی جے پور چلے گئے تھے مگر جوانی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سبھی دو دیوان تھے جو صائع ہو گئے مگر خام خائن جلوہ کے مشہور مصنف لالہ شری رہنمے ان کا کلام تلاش کر کے جمع کیا اور ایک جھوٹ ماسا مجموع شائع کر دیا۔ ان کی غزوں پر سبھی ظہیر کی طرح مومن اور غالباً کا اثر زیادہ معالم متوہہ ہے۔

ویسے تو دل شاعر سے بھری ہوئی تھی اور سیکڑوں شاعر تخلیق ادب میں لگئے ہوئے تھے، مگر اس کے آخری دور میں جنم اور داعن کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی داعن کا نام نواب مرتضیٰ خان تھا۔ وہ فیروز پور کے مشہور امیر نواب تمس الدین کے بیٹھے تھے ابھی صرف چھوپرس کے تھے کہ باب کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیوہ ماں نے دل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ نظر کے بیٹے مرتضیٰ پور سے شادی کر لی۔ اس طرح داعن کی غدر تک کی زندگی قلعہ معلیٰ میں گزری۔ وہیں انھوں نے تعلیم حاصل کی اور وہیں شاعری کا آغاز ہوا۔ دل کے قلعے میں اس وقت ذوق کا بول بالا تھا بادشاہ شہزادے اور شہزادیاں سب ان کے شاگرد تھے۔ اسی یہے داعن بھی اپنا کلام انھیں کو دکھانے لگئے۔ جب غدر میں مغل حکومت کا خاتمة ہو گیا تو داعن اپنے خاندان کو لے کر رام پور چلے آئے۔ وہاں انھیں ایک نوکری دے دی گئی اور چوبیس برس تک بڑی شان سے وہیں اپنی زندگی گزاری۔ رام پور میں ان کا ایسا اعزاز داکرام ہوا اور ہمیشہ دارام کے ایسے موقع ملے کہ وہ اس کو آرام پور کہتے تھے۔ رام پور کے نواب کلب علی خان جو داعن کو بہت عربیز رکھتے تھے جب شہزادیوں چلنا پسے تو

داغ بھی وہاں سے بکھل پڑے۔ کچھ دن، لکھنؤ، پٹسٹ اور رکھاتی میں رہے کچھ وقت
دی میں گزارا ہر جگہ ان کا احترام کیا گیا، مگر وہ ۱۸۸۰ء میں حیدر آباد پہنچے گئے ایں
دریان وہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں ان کے بھت سے شاگرد ہو گئے۔ ابتداء میں
حیدر آباد میں ان کی کچھ زیادہ پوچھ گئی نہ ہوئی اور وہ دلی لوٹ آئے، مگر ۱۸۹۱ء میں
حیدر آباد کے نظام محبوب علی خان نے انہیں بلا بھیجا اور ایک ہزار روپیہ ماہوار طفیلہ
مقبرہ کیا ۱۸۹۵ء تک وہ حیدر آبادی میں رہے وہیں ان کی وفات ہوئی حیدر آباد
کے دریا سے ان کو کسی خطابات بھی نہیں۔ داغ کو جوا عزادار حیدر آباد میں حاصل ہوا
وہ شاذ ہی کسی شاعر کو میسر ہوا ہو گا۔

داغ صرف ایک شاعر ہی نہ تھے بلکہ بڑے نہیں ملک، فراغ دل اور عاشق مزاج
انسان بھی تھے۔ وہ احباب کے ساتھ انکار کا برتاؤ کرتے تھے مگر دلتنندوں کے
ہاتھے خود دارن جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب اردو شاعری کا زنگ بدلتا تھا
اس وقت بھی وہ بڑے احترام کی نظر سے دیکھ جاتے تھے۔ ان کے سیکڑوں شاگردوں
یہ اکثر تو اپنے تھے جو صرف خط و کتابت کر کے اپنے کلام کی اصلاح لے لیا کرتے
تھے۔ ان کے ہر ہشتاگردوں میں دکن کے نظام، داکٹر اقبال، سائل (جو ان کے داماد بھی
تھے) بخود دہلوی، آمن مارہروی، فتح ناروی، آغا شاہر، سیاہت اکبر آبادی،
بہت مشہور اور صاحبِ دیوان ہیں اور ان میں سے کسی کا شمار خود اساتذہ میں ہوتا
ہے۔

داغ کی غر. لوں کے چار دیوان شائع ہونے میں جن کے نام ہیں، گلزار داغ
آفتاب داغ، ہتاب داغ، ہیادگار داغ، ان کے علاوہ ان کی ایک مشنوی فرید داغ
اور مکاتیب کا بجود ہائشائے داغ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے چار دیوانوں
میں قھائی اور پھوٹی پھوٹی نظموں کو پھوٹکے زیادہ تر غر. لیں ہیں اور دوہری غزلی کے
ایک بڑے شاعر مانے جلتے ہیں۔ داغ کے پہلے دو دیوان گلزار داغ اور آفتاب داغ
نام پر ہی میں شائع ہو چکے تھے۔ ان میں جو خزلیں ہیں وہ بڑی رنجین، مشیریں
او رعنیہ جنبات سے بریز ہیں۔ ان میں چبلائیں اور پھیریچاڑ، مزاج اور شوچی
کے انداز پھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے نظمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بے فکر

وجوان نے جو زندگی کے عیش و عشرت اور آرام میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے قلبی جذباتی کی متصوری بڑی واضح شکل میں کی ہے۔ دل کی بول چال کی زبان اور محاوروں کا نفیس استعمال اور جذبات محبت کھلم کھلا بیان داعن سے زیادہ اور کسی کے بیان نہیں مل سکتا۔ ان کی شاعری میں تفکر کا وزن نہیں ہے، حسن و عشق کے علاوہ دوسرے جذبات کا بیان ان کے بیان بہت کم ہے۔ بعد کے کلام میں کہیں کہیں تصوف، اخلاقیاً اور زندگی کے درمرے مسائل پر بھی کچھ خیال مل جاتے ہیں، مگر وہاں داعن کا اپنا طرز نہیں رہ جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض کسی فقرے یا محاورے کے لیے شعر کرتے تھے۔ اردو کے نقادوں نے داعن کی قدر و تیزیت کا اندازہ کرنے میں بڑا اختلاف ظاہر کیا ہے، مگر یہ ہے کہ داعن جس سماجی انحطاط اور پست ماحول میں اپنی زندگی بس کر رہے تھے اس میں اخلاقی عنصر عمیق علم اور اونچے آدراش کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قتوظیت کے خلاف ایک طرح کی رجایت کی تبلیغ کی اور زندگی کو خود کشی سے بچانے کے لیے تفریح اور شوخفی کی طرف اشارہ کیا۔ اس عزم ناک دور میں محبت کے جذبات کو شایستہ کاشکار ہونے سے بچالینا بھی بڑا کام تھا اور داعن جو داعنی زندگی میں محبت کے کھیل کھیل چکے تھے۔ اس میں کامیاب ہوئے۔ وہ اردو کے ان مقبول عام شرایط سے ہیں جن کی غزلیں سبھی طرح کے لوگ پڑھتے اور لطف انھلتے ہیں۔ ان کی مقبولیت کا راز ان کے عام اور معنوی خیالات کو سہل، صحیح شیریں اور اثر انگریز زبان میں ظاہر کر دینے میں ہے۔ ادب کی تجاه سے یہ بات ہر شاعر کو میسٹر نہیں ہوتی اور داعن چاہے کچھ بھی نہ ہوں ایک بہترے فنکار صفر و رہیں نونے کے لیے ان کے کچھ شرپیش ہیں:

شب و صل صند میں بس رہ گئی	خیں ہوتے ہوتے سحر ہو گئی
لگاتے ہیں دل اس سے اب ہمارتے	ادھر ہو گئی یا ادھر ہو گئی
تمہیں کیا، ہماری بس رہ گئی	برے حال تے یا بھلے حال سے

ادھر آئینہ ہے ادھر دل ہے جس کو چاہا اٹھا کے دیکھ دیا

بُت کو بُت اور خدا کو جو خدا کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں تو اسے دیکھ کے کیا کہتے ہیں
چلے تو داعی کی تعریف ہوا کرتی تھی اب خدا جانے وہ کیوں اس کو بر لکھتے ہیں

داعی کا نام سن کے وہ بولے آدمی کا یہ نام ہوتا ہے؟

زباناکہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی ہر بار آتے آتے

پیامی کا میاب آنے نہ آئے	خدا جانے جواب آئے نہ آئے
شار اپنی خطاؤں کا بتا دوں	تحییں شاید حساب آئے نہ آئے
پیوں گا آج ساقی سیر ہو کر	میر پھر شراب آئے نہ آئے

اتسی ہی تو بس کر ہے تم میں کہنا نہیں مانتے کسی کا

لکھنؤیں اگرچہ بڑے شاعروں کی پیدائش بند ہو چکی تھی، مگر اتنی اور زنانے کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے زیادہ تر شاعری کو نظر ٹوکا کیا۔ مگر زندہ رکھا تھا۔ موضوعات محدود ہو گئے تھے اگرچہ ان میں شاذ و نادر تھیں زندگی سے تعلق رکھنے والی نکایات بھی ابھر آتی تھیں۔ بات یہ تھی کہ اودھ کے بادشاہ اور امراء ایک مخصوص ہندوستانی زنگ میں ڈوب چکے تھے یہاں کے ہندو مسلمان سبھی بڑے اشتیاق سے تقاضتی زندگی کے انہماریں حصہ لیتے تھے۔ اگر مسلمان ہوں اور دیوالی مناتے تھے تو ہندو دھرم کے تھوار میں پچھے دل سے شریک ہوتے تھے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ معلوم ہوتا۔ ہے کہ اودھ کے بادشاہوں نے ہندو مسلمانوں میں کبھی امتیاز نہیں برتا اور بلند سے بلند ہجہ سے پر ہندوؤں کو بھی اسی طرح رکھا جیسے مسلمانوں کو اس میں شرپ نہیں کر دنوں کی مدد میں زندگیوں میں برابر فرق تھا، مگر رعن سمن رسم و رذاق اور رکھانے پینے میں ایسی یکسا نیت پیدا ہو رہی تھی کہ سب ایک ہی خاندان کے معلوم ہوتے تھے۔ اصف الدله کے ہوتی کھیلنے پر کئی شعراء نے تخلیقیں لکھی ہیں۔

ہندوادیوں نے سلطان نسب اور زندگی کے بارے میں انہا رخیاں کیے ہیں۔ راجہ مکیت رائے، ہمارا جم جھاؤ لال، راجہ نول رائے، راجہ خوشحال رائے، ٹیکارام تسلی منخل سین افت، کنور سین م Fletcher، بخشی بھولانا تھہ وغیرہ یہاں کی زندگی پر اسی طرح چھلئے ہوئے تھے جس طرح مسلمان اُمرا۔ یہاں کی زندگی کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو ان دھاروں کا سراغِ مل سکے گا، جنہوں نے یہ صورت حال پیدا کی تھی۔

بادشاہ خود علم و فن اور ادب میں اتنی دلپی لیتے تھے اور اپنے علم کی سرپرستی اور اکرام اس محبت سے کرتے تھے کہ ان کی حوصلہ افرانی ہوتی تھی مگر بد نصیبی سے زندگی بعد عنوانیوں سے پر تھی اور آگے بڑھنے کے سب راستے بند تھے اس لیے یہ شاعر اور ادیب اندھیرے میں اپنے تھیل کے سوارے جی رہے تھے۔ سعادت علیخان، غازی الدین حیدر، نصیر الدین حیدر سب خود شاعر تھے اور ان کے درباروں میں شرا کی تو قیر ہوتی تھی۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے عہد میں سائنس کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوتے، نئے مطبع بھی تکھلے اور سائنس کا ایک دارالتحفہ بھی کھو لا گیا جس میں خنوم اور دوسرے علوم پر کام ہوتا تھا۔ محمد علی شاہ اور راجہ علی شاہ بھی علا کی قدر کرتے تھے مگر ان کی خاص رغبت نسبت نہیں سے تھی۔ اس لیے ان کے عہد میں نسبتی ادب کی خوب سمت افرانی ہوئی۔

۱۸۳۴ء میں واجد علی شاہ بیس سال کی عمر میں اودھ کے سرپلطنت پر بیٹھے ان کے عہد اور زندگی کے بارے میں بہت سی غلط فہمی پھیلانے والی باتیں مشہور تھیں میں جبکہ تاریخ کے علا نے بے بنیاد قرار دے دیا۔ مگر یہاں ان کے ذکر کا محل نہیں پھر بھی آنا جانتا ضروری ہے کہ اودھ کے اس آخری بادشاہ نے بہت سی رکاوتوں کے ہوتے ہوئے بھی علم و فن کی ترقی میں حصہ لیا۔ اس وقت کے بھر ان کو دیکھتے ہوئے اسے عیش و عشرت بھی کہا جاسکتا ہے۔ مگر پچ یہ ہے کہ واجد علی شاہ کو ادب و فن سے دلی محبت تھی۔ یہاں تک کہ ٹیکا، پیچ میں قید کر دیے جانے کے بعد بھی وہ ان سے دلپی لتے رہے۔ واجد علی شاہ کا خلص آخر تھا۔ فارسی اور اُردو نظم و نثر میں انہوں نے تقریباً سو کتابیں تصنیف کیے۔ ان کے چھوڑ یوان بہت سی مشنویاں، مرثیوں کے کئی بھوئے اور قصیدے ملتے ہیں۔ فن سیقی اور فوجی تنظیم پر بھی انہوں نے کئی

کتابیں لکھیں۔

واجد علی شاہ آختر کی شاعری کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، جو ان کو اس عمد کے لکھنؤ کے حامِ زنگ سے انگ کر سکے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی غزیب اور شنویاں آپ میتی کا عکس یہ ہوئے ہونے کے باعث بہت پراشر ہو گئی ہیں۔ ان کے مکاپیب اور دوسری تصنیفات کے مطالعہ سے کبھی کبھی اس وقت کی سیاسی صورتِ حال کا پتہ بھی چل جاتا ہے آختر کو بڑا شاعر نہیں کہا جا سکتا مگر ان کی تمام تصنیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ مانتا پڑتا ہے کہ ان میں ایک فنکار کی روح تھی۔ جسے انہار کے لیے مناسب باحوال نہیں ملا۔

لکھنؤ کی شاعری کی عمومی شکل وہی تھی جو اس سے کچھ دن پہلے رہ چکی تھی، پھر بھی کچھ شعراء نے اس روایت کو قوت عطا کر کے اہمیتِ خوبی جو انحطاط کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہاں کے مشہور شعراء میں میر شکوہ آبادی تھے جو نام خانشہد اور دبیر کے شاگرد تھے اور ہر طرح کی نظمیں آسانی سکتے تھے ۱۸۵۰ء کی جدوجہد میں ان کو بھی باغی سمجھ کر کا لے پائی کی سزادی بھی اور جب ایک طویل سزا بھگت کر دہلوئے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ۱۸۵۱ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خالات جو کچھ بھی رہے ہوں ان کی شاعری رسم و ردا یعنی اسی طرح گھری ہوئی تھی کہ اس میں ان کے ترقی پذیر خیالات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت کے دوسرے شرکی طرح وہ بھی نفطوں، ہوا رونوں اور صنعتوں کے چکر میں پھنسنے ہوئے تھے مبنظومات کے تین دیوانوں کے ماں و ایک مشنواری معراج المضامین بھی لکھی ہے جن میں پیشوایاں دین کے محاذات کا بیان بڑی عمدگی سے کیا ہے۔ ایک موقع پر صبح بنارس کی ایسی حیثیں تصویر کیا ہے جو اردو شاعری میں بہیشہ یادگار رہے گی۔ ان کی غزلوں کے کچھ شعر یہ ہیں؛

غمٹی چور کی طرح چھپ کر جوانی دغادے کے گھر سے یہ ماں نکلا

وہ بے جبر ہیں شرم سے ہم پاٹمال ہیں جیت ہے کام آئے گی نبی مجاہد کب

غربت ہیں کس سے چشم کرم کی آمید ہو آنکھیں چڑا رہا ہے زمانہ غرب سے

سب کو عبرت ہو گئی میری مصیبت دیکھر ہم سے لے بٹ تو پھر اتجھ سے خدا کی پھرگی

کل ترک میں نے شیخ و بیہن کی پیروی دیر و حرم میں مجھ کو ترا نام لے گیا

لکھنؤ کے اس عمد میں لایک ایسی نظم بھی شنوی کی شکل میں لکھی گئی جو ہمیشہ قلب انسانی کو متاثر کرتی رہے گی۔ یہ کیمی تصدق ہے جنوب مزاکے نام سے مخالف یکے جاتے تھے اور تخلص شوّق تھا، لکھنؤ کے پچھے شاہوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے غرب نیں بھی ہیں مگر غرب لوں سے زیادہ وہ اپنی شذیوں کے یہ مشور ہیں، خاص طور سے ان کی شنوی رہر حق ماس عہد کے عام زنگ سے بالکل الگ ہے اس میں محبت کی ایک سچی کہانی بڑے ہیں دل پیپ، آسان اور جذباتی انداز سے کہی گئی ہے۔ محبت کے جن جذبات کی تصویر کشی اس شنوی میں کی گئی ہے وہ سدا بیہار ہیں۔ اس کی اصلاحیت اور سادگی دو ایسے وصف ہیں جو اس زمانے کی نظلوں میں کم ملتے ہیں۔ اس میں وصالوں بھی ہے جو ایک عیش پسند اور زوال آمادہ سماج میں نمایاں ہوتا ہے اور وہ سچائی بھی جو لازوال ہے۔ کچھ نقاووں نے اسے فرش بھی بتایا ہے، مگر یہ غلط فہمی ہے۔ یہ اردو کی ان زندہ رہنے والی کتابوں میں سے ہے جو اپنے ادبی حسن کی وجہ سے ہمیشہ مستوجہ کرتی رہتی ہیں۔

اس وقت لکھنؤ میں سیکڑوں چھوٹے بڑے شاعر موجود تھے اور ایک بیطتا یخ میں ان میں سے بہت کچھ جگہ پائیں گے مگر یہاں دو ہی چار کا ذکر ہو سکتا ہے۔ آسیر، آمات، قلق، ذکر، قاضی، اختر، عشق، رشید، امیر اور جلال وغیرہ اپنی اپنی جگہ پر بڑی ہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں صرف امیر جلال اور امامت کے بارے میں کچھ لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ منتظر امیر احمد آمیر میانی ۱۸۲۸ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی۔ اس وقت جو اعلیٰ تعلیم رائج تھی ان سب میں امیر کامل تھے۔ یہاں کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے ان کا تعلق تھا۔ وہ لڑکپن بھی سے شاعری کرتے تھے اور یہاں کے مشور شاعر آسیر کے شاگرد تھے۔ آسیر ہی کے ذریعہ دربار تک رسائی ہوئی، مگر یہ واحد طی شاہ کا آخری زمانہ تھا اور ابھی پورے چار برس بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ

حدروہ جانے کے باعث دربار سے ان کا ربط ٹوٹ گیا۔ انھوں نے دوکتا میں بادشاہ کی فرماش پر تکمیلی تھیں، جس سے ان کا نام دور دور پھیلا اور ان کو اعزاز بھی ملا۔ کچھ دن بیکار رہنے کے بعد انھوں نے رام پور کی راہی، جہاں نواب یوسف علی خان دلی اور حننو کے شوا کا آخری سماں بنبے ہوئے تھے۔ رام پور میں امیرپناہی کا وقت بڑے سکون آرام سے گزرا۔ نواب نے ان کو اپنا استاد بھی بنایا۔ ایک عالم، مصنف، شاعر اور بزرگ شخصیت رکھنے کی وجہ سے چھوٹے بڑے سمجھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اس طرح تیناں میں سال انھوں نے رام پور میں گزارے۔ تسلیم میں نظام حیدر آباد نے داعی کے کہنے پر ان کو پختے دربار میں بلا لیا۔ امیرپناہی وہاں گئے تو ضرور مسخر ابھی چند ہی نہیں بھی نہ گزرے تھے کہ حیدر آباد ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

امیرپناہی کو تہذیب، بخیدگی اور فیض عام کا محبتمنہ کہا جا سکتا ہے۔ سچائی اور ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ علم، اور دوسرے فضائل کے ساتھ ان میں اتنا انکسار تھا کہ نواب سے لے کر چھوٹے چھوٹے ملازمین تک سمجھی ان کے پاس بینھ کر محفوظ ہوتے تھے۔ مختلف لوگوں کے ادبی سوالات کے جواب ٹری خوش دلی سے دیتے تھے اور کثر پن کے بغیر اپنے ذہب کی پابندی صدق دل سے کرتے تھے۔ ان کے ملاندہ سیکڑوں سے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں استادی شاگردی کا رشتہ عام تھا اور لوگ چند اصلاحیں لے کر شاگرد بن جاتے تھے۔

مگر ان میں رام پور کے نوابوں کے علاوہ، ریاض حیلیل، دستیم، صدر دل، مفطر حفظ، آہ، اختر اور قمر ہی مشہور ہیں۔ ان میں سے تو کئی بہت بڑے شوار میں گئے جاتے ہیں۔

امیرپناہی نے نظم و شرودنوں میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ تصنیفات خدر میں اور کچھ گھر میں آگ لگ جانے سے ضائع ہو گئیں پھر بھی جو موجود ہیں ان کی تعداد بیس سے اوپر ہے۔ سب سے زیادہ مشہور لو ان کی غزلوں کے دو دیوان ہیں جن کے نام مرآۃ الغیب، اور صنم خانہ مکشق ہیں۔ ایک تیرا دیوان بھی ہے جو شائع نہیں ہوا۔ انھوں نے بہت سی مذہبی نظیں بھی لکھی ہیں جن میں زیادہ تر حجیر اسلام

کی مرح میں ہیں۔ جذبات عشق سے بھری ہوئی کئی شنویاں اور وا سوخت سمجھی ہیں تیر میں اختیاب یادگار، شعر اکا ایک تذکرہ ہے جس میں رام پور کے دربار سے والبستہ شاعروں اور صنفوں کی زندگی کے حالات اور تخلیقات کے نمونے دیے گئے ہیں۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ وہ مشور لغت ہے جس کے صرف دو حصے امیر اللغات کے نام سے شائع ہوتے تھے۔ امیر پینائی نے یہ لغت بڑے مبوط طریقے سے تکفی کامضیوبہ بنایا تھا۔ شائع شدہ حصوں میں حرف الف سے شروع ہونے والے الفاظ دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر پینائی کے مبلغ علم کا اندازہ ان کے کلام سے نہیں بلکہ اس لغت سے لگا یا جاسکتا ہے۔ ان کے کئی شاگردوں نے ان کی سرگزشت جیات لکھی ہے جس سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے وہ ایک بڑے عالم تھے مگر دنیا سے شاعری میں ان کا نام بعض ان کی غزلوں کی بدولت زندہ ہے۔ اپنی زندگی کا بڑا حقہ رام پور میں سبر کرنے پر بھی امیر پینائی لکھنؤ کے شعر، میں شمار ہوتے ہیں اور اسی اعتبار سے داعی سے جو دلی کے شاعر تھے۔ ان کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ابتدا لکھنؤ کے شعر اور شاعری کا جو تذکرہ ہو چکا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہو گئی کہ لکھنؤ کی شاعری سے متعدد کن خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چوتا ہے اس لیے ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اتنا کہنا ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ لکھنؤ اور دلی کے اسایب کا امتیاز کم ہو رہا تھا اور رام پور میں دونوں مرکزوں کے شوارع مجمع ہو کر ایک نئے اسلوب کی تخلیق کر رہے تھے جو اپنے احساسات کے لحاظ سے لکھنؤ سے قریب تھا۔ امیر پینائی کی غزلوں کا پہلا دیوان مرۂ العیب لکھنؤ کے گردے ہوئے رنگ کا نونہ ہے۔ اس میں واقعی جذبات کے بھائی صنوعی تاثرات اور صنائع کی بھرمار ہے مگر دوسرے دیوان صنم خانہ عشق میں ان کی شاعری نئی سستوں میں داخل ہوتی ہے۔ ان میں شیریں، سہل اور خوبصورت غزلیں بہری تعداد میں ملتی ہیں۔ جذبات نگاری کچھ گھری ہو گئی ہے اور صنائع کے آتمال میں پہلا تصنیع نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا دیوان داعی کے اسلوب شاعری سے تاثر ہو کے تیار کیا گیا تھا۔ امیر پینائی کی شاعری میں کہیں کہیں تصوف بھی ملتا ہے، اخلاقی پند و نصائح کو بھی اپنے خجالت میں جگہ دی ہے، مگر جذبات عشق میں ڈوبی ہوئی غزلوں

یہ جو مزاج اور لطف ملتا ہے وہ ان کے دوسرا کے کلام میں نہیں ملتا۔ عالم ہونے کی وجہ سے وہ قواعد زبان، اصول شاعری اور الفاظ کے صحیح استعمال میں کامل تھے اور جس طرح داعنگ کو دستی کی زبان کے لیے سند مانا جاتا تھا بے اسی طرح آمیر بینائی کو لکھنؤ کے لیے اس وقت کا تمام شعری ادب فلسفیات و وزن سے محروم تھا تو آمیر بینائی کے یہاں کسی طرح کی گہرائی کیسے پیدا ہو سکتی تھی جبکہ وہ لکھنؤ، رام پور و چیدر آباد کے درباری احوال سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے اپنے خطوں میں تجھی، جن کا مجموع شافع ہو چکا ہے، اپنے خجالات ظاہر کیے ہیں، اور شاعری کی نسبت اپنے نے میخار کو واضح کیا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رسوم و روایات سے باہر کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے کچھ اشعار مثال کے لیے یہاں دیے جاتے ہیں،

آئی سحر ادھر کے ادھر شام ہو گئی رو دو گھر دی کے ہونے گے۔ ن وصال کے

ان کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصہ پے پیار آتا ہے

میں جاک رہا ہوں ہجر کی شب پر میرا نصیب سورہ ہے

تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر سرفوشی کی تنا ہے تو سر پیدا کر

لپک ہے شاخوں میں جنش ہوا سے پھولوں میں بھار جھول رہی ہے خوشی سے جھولوں میں

**جونگاہ کی تھی ظالم تو پھر آنکھ کیوں چرانی
دھی تیر کیوں نہ مارا جو جگر کے پار ہوا**

ہم چڑے دیر سے کبھے کو تو وہ بت بولا جا کے لے لیجئے کبھے میں خدا کھا ہے

یاد لو ایں وہ آنکھیں شہرِ صحرا کے ہم وطن سے ہیں اسی درد کے مارنے کلے

لکھنؤ کے ایک اور مشہور شاعر سید ضامن علی جلال ہیں وہ حکیم اصغر علی کے صاحب تھے جو رام پور دربار میں داستان گوفی پر مقرر تھے۔ جلال نے فارسی عربی کی تعلیم حاصل کر کے لکھنؤ ہی میں طبابت شروع کی لہ کپن ہی سے شعر کتے تھے۔ اور ناسخ کے مشورہ تاگر درشت کو اپنا کلام دکھاتے تھے۔ تھوڑی ہی مدت میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کر لی اور اساتذہ تسلیم کیے جانے لگے۔ خدر کے بعد نواب یوسف علی خاں نے انھیں رامپور بلاایا۔ جلال کی بڑی ہوئی جذباتیت نے انھیں کئی مرتبہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر نواب نے ہر مرتبہ ان کو بلا کے پھر اپنے یہاں مقصر کر لیا۔ اس طرح کم و بیش میں سال تک رامپور میں رہے اور رام پور دربار کے چار مشہور شعرا میں شمار ہونے لگے، جن میں سے اور تین دفعہ، اتیر، اور تسلیم تھے۔ ۱۸۸۴ء میں رامپور سے چلے آئے اور کچھ دن مغروں میں رہے وہاں سے پٹ کے کچھ لکھنؤ آئے اور ۱۸۹۱ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جلال انیسویں صدی کے اچھے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے کلام کے چار جمیعے اور کئی لغت شائع ہو چکے ہیں۔ وہ فن شاعری اور سایا کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اس بات پر اس وقت کے دوسرے شعرا اور مصنفوں سے ان کا بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ ان میں بکتر اور خودستائی کی اتنی فراوانی تھی کہ وہ اپنے سامنے نہ کسی دوسرے شاعر کو شاعر نہ کسی دوسرے ادیکنے دی سمجھتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ زبان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ سب درست ہی ہے۔ ان کے کلام کا کچھ حصہ بہت اعلیٰ درجے کی منظومات میں رکھا جاسکتا ہے۔ ان کا اظرِ شاعری لکھنؤ کے عام زمگ سے کچھ ادگ تھا۔ الفاظ اور صنائع کے ساتھ ساتھ وہ جذبات کو پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اس لیے کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ ان پر دلی نکے شعرا کا اثر بھی پڑا تھا۔ ان کے کچھ شعروں کے لیے ذیل میں دیے جاتے ہیں،

اک قدم جا ناجدِ حرم دشوار تھا شوق لے کر سیکڑوں منزل گیا

تم لا کہ چھپو ہم سے مگر چھپ نہیں سکتے جو دل میں ہے آنکھوں سے نہ مونیں گا

جھنی عشقی کہہ کے لاتی ہوں زلف یار کی پُو پھری تو باد صبا کا دماغ بھی نہ طا

جس روز وہ امتحان لیں گے سوچے ہونے ہوں کہ جان لیں گے

آنکھتے ہو جس کے خواب میں تم خواب اسے رات بھر نہیں آتا

وعدہ کیوں بار بار کرتے ہو خود کو بے اعتبار کرتے ہو

لکھنؤ کے شرار کا یہ ذکر ختم کرنے سے پہلے امانت کا نام لینا ضروری ہے یا آنٹ کا نام آغا حسن تھا۔ وہ اسدا میں مرثیہ لکھتے تھے مگر بعد میں غز نیں بھی لکھنے لگے۔ صرف میں، برس کی عمر تھی کہ کسی بیماری کے باعث قوت گویا نی ختم ہو گئی۔ دس برس کے بعد آپ ہی آپ بولنے لگے مگر لکھت باتی رہی۔ مذہبی خیالات کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کربلا زیارت کرنے کے لیے گئے وہیں یہ طاقت انھیں واپس ملی وہ ۱۸۵۷ء میں راسی عدم ہوئے۔ امانت کی غزوں کا دیوان ایک واسوخت اور کچھ مرثیے شائع ہو چکے ہیں، مگر جس کتاب نے ان کو جادوں بنایا وہ اندر سبھا ہے۔ امانت کی غزوں میں انفاظ و صنائع کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صنائع کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ شاعری محض گور کہ دھنھن معلوم ہونے لگتی ہے۔ مگر اندر سبھا اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اردو کا پہلا ناٹک ہے جو ۱۸۵۷ء میں تیار ہوا مگر اتفاق سے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں جو تقدیری نظر سے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ کہا جاتا ہے کہ واحد علی شاہ کی فرمائش پر امانت نے یہ نامک لکھا اور اس کا بنیادی خیال ان کو کسی فرانسیسی آپریا سے ملا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قیصر پراغ میں کھیلا جاتا تھا اور واحد علی شاہ خود اس میں راجہ اندر رہتے تھے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ جس وقت امانت کی قوت گویا نی جاتی رہی تھی

ان کے ایک دوست نے ان سے استدعا کی کہ مجھے جی گھبراتا ہے کوئی ایسا ہے تیار کرنا چاہیے کہ دوچار گھر ہی جی بیلے، آمانت نے ان کا مشورہ قبول کیا اور یہ نامک مکھڑا۔ انھوں نے اس نامک کے بارے میں یہ مضمون بھی لکھا تھا جس کے شائع ہو جانے سے اس کے بارے میں بھی شکوہ دور ہو گئے ہیں۔

اس میں شہر نہیں کہ اندر بھاٹکھنؤ کے اس عیش پند ما حول بھی پس جنم پا سکتی تھی، جو راگ و زنگ میں غرق تھا بہنڈ مسلمانوں کے میں سے یہاں جو ثقافت بن رہی تھی اس کا نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ اندر بھاٹیں مہدوں کے دلوں تا اندر کو اس طرح دکھایا گیا ہے، جیسے وہ کوئی ایرانی یا اغلوں باشا ہو۔ اس کا ہیر و گلفا اپنی رفتار و گفتار میں اودھ کا کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے حقیقت کی نگاہ سے یہ ایک طرح کا نقص ہے مگر جو بھی اس خیالی نامک کا مطالعہ کرے گا اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ثقافتی پس منظر دبی ہے جو اودھ میں مل سکتا تھا۔ اس کی زبان اتنی آلتی گیت اتنے میٹھے اور کھانی اتنی دلچسپ ہے کہ اس وقت کے عوام اسے دیکھ کے سب کچھ بھولتا تے تھے۔ سینگیت اور رقص پر مبنی یمنظوم تخلیق ایک خاص تاریخی اور ادبی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو دیکھ کے اور بہت سی بھائیں تکھی گئیں، مگر کوئی بھا اس کی عام قبولیت کو نہیں پہنچ سکی۔

رام پور ارجمند رآ باد کے دربار دل کا تجویز اجاتی ذکر ضروری ہے، کیونکہ دلی اور لکھنؤ کے دربار دل کے خاتمے کے بعد بہت سے شاعر اور مصنف انھیں دونوں مقامات سے وابستہ رہے اور وہاں کے ماحول کو بنائے رہے۔ رام پور کے نواب یوسف علیخان کا تخلص ناظم تھا۔ وہ پہلے موتمن کو اور اس کے بعد مرزا غالب تو اپنا کلام دکھانے لگے تھے۔ غالب اور نواب میں جو مراسلت ہوئی ہے وہ شائع ہو چکی ہے اس کے مطابعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعروں اور عالموں سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ ان کا دیوان شائع ہو چکا ہے اور اس وقت کی شاعری کو دیکھتے ہوئے ان کا معیار شاعری مسموی نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے فرزند نواب کلب علی خاں بھی ایک اچھے شاعر اور شعر کے سر پرست تھے۔ ان کا عبد رام پور کی ترقی کا عبد زریں کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی ریاست میں جاں زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی تھی وہاں دوسرے

فنون کے کامیں بھی موجود تھے۔ سبھی مشہور شاعر کسی نہ کسی طرح رامپور سے وابستگی رکھتے تھے۔ آسیر، امیر، داغ، جلال، تیسم، قلق، جان صاحب وغیرہ بڑے بڑے وظیفے حاصل کرتے تھے۔ نواب کلب علی خان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور کئی کتابوں کے مصنفوں تھے وہ فارسی اور اردو دونوں میں کامیں تھے اور انفاظ کے معنی اور محنت کے بارے میں اپنے علم سے تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ ان کے چار پانچ دیوان چھپ چکے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ رام پور میں دلی و لکھنؤ دونوں مرکزوں کے اسلوب ایک دوسرے میں اس طرح سے مل گئے کہ ان کو اگ کرنا دشوار ہے وقت بھی وہ آگیا تھا کہ اردو زبان مرکزوں کے باہر حل کر ملک کے سبھی حصوں میں مقبول ہو چکی تھی۔ اس لیے اردو ادب کی تاریخ میں رامپور کی خدمات قابل ستائش ہیں کیونکہ اس نے زبان کے اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی جس نے دلی اور لکھنؤ کو دو اگ اگ خانوں میں بانٹ رکھا تھا۔

جیدر آباد کی ریاست انھمار ہوئی صدی کے وسط میں اسی جگہ قائم ہوئی تھی جہاں ایک صدر ابھلے تک گولکنڈہ کے بادشاہ راج کرتے تھے۔ دوسرے باب میں وہاں کی ادبی زندگی کی تقدیر وی جا چکی ہے۔ درمیان میں کچھ زمانے کے لیے وہاں شعرو ادب کا زور کچھ ٹھنڈا اپڑ گیا تھا لیکن سوتے سوکھے نہیں تھے اور جب نئی ریاست قائم ہوئی تو پر اپنی ردایات از بر نوزندہ ہو گئیں۔ وہاں کے فرمانرواؤں نے بھی شرما اور دوسرے فن کاروں کو اپنے دربار کی رونق بڑھانے کے لیے بلا یا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ نظام کے علاوہ ان کے وزراء اعظم نے بھی شرعاً کی سرپرستی داعز از دا کرام میں بڑا حصہ لیا تھا۔ ہمارا جہ چند دلائل شاد آں خود ایک اچھے شاہر تھے اور انہیں کے دعوت نامے پر کئی شاعر اور مصنف جیدر آباد پسچے انہوں نے ذوق، ناسخ اور نظیر اکابر اپنے کو بھی بلا یا تھا مگر یہ لوگ سنے گئے۔ شاه نصیر اور دوسرے شامروہاں گئے اور ان کا اعز از ہوا۔ ہمارا جہ کے ایک اردو اور دو فارسی دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً تین سو شاعر جیدر آباد میں مجمع ہو گئے تھے۔ آئی طرح راجہ گردھاری پر پاد باقی بھی اچھے شاعر اور شاعروں کے سرپرست تھے ان کی بہت سی کتابیں لیتی ہیں جن میں زیادہ تر فارسی میں ہیں جیدر آباد کے دوسرے شواہ میں فیض، مآل، توفیق اور کیفی غیرہ بھی ہو رہیں۔

تقریب کی طرح نہیں سمجھی ترقی کا انتزکرہ عصر حاضر کے مصنفوں کے سلسلے میں کیا جائے گا مگر اس مقام پر یہ لکھنے دینا ضروری ہے کہ حالات نے نہیں ترقی کے لیے فضایا ہوا رکھی اور فارسی زبان کا تمہرا شر ہوتے ہوئے بھی اردو ادبی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت تک پڑھے لکھنے لوگوں میں وہ ہندو ہوں یا ملک خلقت اپنے فارسی میں کتنا تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر انیسویں صدی کے وسط میں اردو میں لکھنے ہوئے خطابی ملنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بچپنی ہے کہ مرد افالب جو اردو کے ممتاز شاعر تھے ایک بڑے مکتب گزار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں غائب کے حالات زندگی کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں صرف ان کی اردو نشر کے بارے میں کچھ اشارے کیے جائیں گے۔ وہ فارسی نشر کے ایک عظیم المرتب ادیب تھے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ہندوستان میں فارسی کے ایسے علم رکھنے والے بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ مگر جب غالب کو فارسی میں مراسلات کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اردو ہی میں لکھتے تھے۔ کچھ وقت غزر نے کے بعد لوگوں نے ان کے اردو مکاتیب کی تعریف کی تو وہ اپنے زیادہ ترا حباب تلاندہ اور سرپرستوں کو اردوی میں لکھنے لگے اور آخر میں تو یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فارسی میں خط و کتابت تقریباً چھوڑ دی تھی۔ ان کے خطوط کے کھنچ بھروسے شائع ہو چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ خطاب بھی ملتے ہی جاتے ہیں خطوط کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابوں کے دیباچے اور کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اردو میں لکھی ہیں۔ اس طرح اب تک ان کے اردو نشر کے جو مجموعے شائع ہو چکے ہیں، وہ یہ ہیں، عودہ نہ دیا اردو کے عملی (اردو حصے) مکاتیب غالب، خطوط غالب، نادر خطوط غالب، نامہ غالب، طائف غیری، تھا تیرز۔ آخر تیین کتابیں ایک ادبی مباحثے کے سلسلے میں لکھی گئی تھیں جس میں اس وقت کے بہت سے ادیبوں نے غائب کی مخالفت یا حمایت میں حصہ لیا تھا۔ کتابوں کے جو دیباچے غائب نے لکھے ہیں، وہ زیادہ ترا اسی ہے قسم طرز میں ہیں جس میں اس وقت کی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ انہی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ایسی کتابیں احباب کی فرمائش پر لکھ دی جاتی تھیں اور اسی میں حسب و ستود تعریف کے کچھ روایتی الفاظ ہوتے تھے اور ہیں۔

شہزادہ کے قریب غائب نے اردو میں خط لکھنا شروع کیا اور ہمیں عطا ہو گلمہ بہت

یوں ہی لکھ دیے جائی کرتے تھے آج اردو ادب کے انہوں رتن بن گئے ہیں۔ ان کے خطوط کی تعداد تقریباً ایک ہزار تک پہنچتی ہے، ان سے غالباً کے بارے میں سبھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ معاصر تاریخ، سیاسی واقعات، ادبی مہا صہیں بھی ان میں جگہ پاتے ہیں۔ اپنا زندگی کی ہر بات انہوں نے دل کھول کر ان خطوط میں بیان کر دی ہے۔ ان میں کسی کی درح ہے تو کسی کی مذمت اور کسی سے ہمدردی ظاہر کی گئی ہے، کسی کی مخالفت کی گئی ہے، کہیں اہانتی نے دوسروں کو تخت الشرمی تک پہنچا دیا ہے، اور کہیں کسی کی تعریف میں زمین و آسمان ٹال دیے ہوتے ہیں، کہیں بخیدہ مسائل پر خیالات نظاہر کئے گئے ہیں اور کہیں کسی بڑی بات کو چنکیوں میں اڑا دیا گیا ہے کہیں پر مذہب کے عین فلسفیانہ حقائق بیان ہونے میں اور کہیں کثیرین کا مسئلہ کہ اڑایا گیا ہے، کہیں رجائی بن کر زندگی سے لطف اٹھانے کے خواب میں اور کہیں قتوطیت میں مر جانے کی تنا۔ اس طرح یہ خط غائب کی سرگزشت حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتے اور مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی نقاد یا ادیب جو اس تو کے لوگوں کی ذہنی کیفیت کو بھانجا ہے اسے غائب کے مکاتیب میں بہت کچھ ملے گا۔

غائب ایک انقلابی مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے مراسلت کے ان تمام قاعدوں کو توڑ دیا، جو محمد شام کے وقت تک رائج تھے۔ وہ اپنے دل کی بات خط کی ابتدا ہی سے شروع کر دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھ کو محمد شاہی روشنیں پسند نہیں خطوط میں میں تو دل کی بات لکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خصوصیت جس نے ان کے خطوط کو دلچسپ اور مقبول عام بنادیا ہے وہ ان کی بدلہ سمجھی ہے جو ایک نگ کی طرح تمام تحریریوں پر پھیلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ ان کے خط ان کی غربوں ہی کی طرح اہم ہیں۔

غائب خط و کتابت کے بڑے مشتاق تھے۔ اس وقت تک ڈاک کا اچھا انتظام نہ تھا اور خطوط کو ہو جاتے تھے اس لیے وہ اکثر خط بیرنگ لکھتے اور منگاتے تھے اپنی ناموری کا انھیں لاتنا ہوا تھا کہ اگر کوئی پتہ پوچھتا تو ناراض ہو جاتے اور سمجھتے کہ صرف میرزا نام اور دل کو دینا کافی ہو گا۔ یہاں بادشاہ سے لے کر ڈاک کے ہر کاری تک کون ایسا ہے جو غائب کو نہیں جانتا۔ وہ خط کا جواب جلد دیتے اور چلہتے کہ ان کے خطوط کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے۔ یہ سب باتیں مل جل بکر غائب میں وہ

انفرادیت پیدا کرتی ہیں جو اُردو کے کسی اور اہل قلم کو نصیب نہیں ہوئی ہے اسی عہد میں غالب کے ایک رشته دار خواجہ امان بھی اُردو نشر کے ایک اچھے مصنفوں ہوئے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں ان کا نام کئی جگہ لیا ہے اور ان کی تعینات سے احباب اور تلامذہ کو واقع کرنے کی کوشش کی ہے خواجہ امان نے فارسی شہرستان بوستان خیال کا ترجمہ اُردو میں کیا ہے۔ یہ فارسی داستان وسیعوں میں تھی خواجہ امان نے اور کے ہمارا جو شیودان سنگھ کی فرماںش پر اس کے پانچ حصوں کا ترجمہ پورا کیا۔ مگر زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور یہ کام ناتمام ہی رہ گیا۔ ان کی زبان ہل، شیریں اور بامحاورہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں خود خواجہ امان کی طبع زاد کتاب ہے۔

غالب کے دوستوں میں خواجہ غلام غوث بنے جبرا ایک طبائع شخص تھے اور ترقی کر کے وہ گورنر نے میراثی ہو گئے تھے۔ انہوں نے پنیتا لیں برنس نوکری کر کے ۱۸۸۶ء میں نپشن لی اور ایک طویل عمر پا کے ۱۹۰۵ء میں بمقام الہ آباد وفات پائی۔ یہ خبر عربی فارسی کے بہت بڑے فاضل تھے۔ ان کا فارسی کلام ایرانیوں کی نگاہ میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا ہے وہ غالب سے سن میں چھوٹے تھے مگر غالب ان کا بڑا اخراج کرتے تھے۔ انہوں کے علاوہ ان کے خطوط اور مضامین کا مجموعہ فغان بنے جس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کے لکھنے کا نداز قدیم ادبیوں سے متعارف جلتا ہے، کیونکہ انہوں نے فارسی، عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ صنائع کا استعمال بھی بہت کیا ہے یہ خبر کے خسر غلام امام شیعہ بھی ایک اچھے شرکار تسلیم کیے جاتے ہیں اور ان کی دو کتابیں مولود شریف اور اثنائیں بھار بے خدا میں مشہور ہیں۔ اس وقت جنوبی ہندوستان میں بھی کئی نشر بگار موجود تھے جن میں شمس الامر اکا نام آفابل ڈکر ہے۔ انہوں نے دکن میں سائنس کی کئی کتابیں ترجمہ کر کے شائع کیں جواب دستیاب نہیں ہوتیں۔

اس باب میں جن شعرا اور مصنفوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سمت سے پرانی لیکھ پڑھنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کے بیان میں زمانے کا بہت خیال نہیں رکھا گیا ہے اور انہیوں صدی کے وسط سے لے کے بیسویں صدی کی ابتداء تک کے ایسے ادبیوں

کو شامل کریا گیا ہے جن کو نیا نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، وہ بے حد مقبول تھی۔ بندوں، مسلمان، سکھ، پارسی، انگریز اور دوسرے یورپیں اور دوسرے بڑے شوق سے نظریں لکھتے تھے کئی انگریز شاعروں کے دیوان شائع ہو چکے ہیں، مگر جہاں تک شرکا تعلق ہے اس میں کوئی اہم ترقی نہیں ہوئی۔ اگرچہ نظریں اس نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، جو تھوڑے ہی زمانے میں بڑی ترقی تحریکی، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی تعلیم، نشادہ نانیہ اور سائنس کے اثرات جب نظریں پوری طرح ظاہر ہو چکے تھے، اس وقت زیادہ تر شعراء پرانے ڈھرنے پر ہی چل رہے تھے۔ سیاسی اور سماجی مسائل نے شاعری میں اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، بلکہ نظریں ان کے نشان دکھانی دینے لگے تھے۔ پریس اور دارالاشرافتوں کے قائم ہو جانے کی وجہ سے اردو ادب کی ترقی بڑی تیزی فتحی سے ہو رہی تھی۔ اگر کوئی اس کی تصویر دیکھنا چاہے تو اسے گارسان ڈیمی کے خطبات و مقالات دیکھنا چاہیے جو پرس میں پیش ہوئے ہر سال کی ترقی کا خاکہ پیش کیا کرتے تھے۔ اس مختصر کتاب میں ترقی کی تفضیل نشان دہی۔ امکن ہے پھر بھی اتنا ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ اس وقت اس عظیم عہد کا آغاز ہو چکا تھا جو سندھ و سستان کی نشادہ نانیہ کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ آئندہ ابواب میں ادب کی اسی رفتار کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی جس نے نئے شعور کو حنم دیا تھا۔ اس کی پوری تصویر دینے کے لیے کہیں کہیں ان رحماناٹ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا جو پرانے ادبی نقطہ نظر سے دانتہ ہونے یا کسی اور وجہ سے بد لے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔

دسوال باب

نیاشور اور نیاشری ادب

انیسویں صدی کے وسط سنتے ارنخی، سماجی اور ذہنی تغیرات کا جواہر سب سے زیادہ نمایاں ہوا اور جس نے تاریخ ادب کے دھارے کا رُخ بدل دیا۔ نشر نگاری کا سروج اور نشری اصناف کا ارتقا تھا۔ عصر حاضر کو نشر کا دور کہا جاتا ہے۔ کیونکہ نشر ہی کے ذریعہ سے زندگی کی ذہنی اور علمی کش کشم کا مدل اظہار زیادہ آسانی اور ہٹ سے ہوتا ہے۔ نشر جذبات کو مسترد نہیں کرتی لیکن اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور خیالات کے باہمی مکملاؤ سے لوب کی خلائقی قوت کو اور زیادہ غذا بھی پوچھاتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ دوسری ہندستانی زبانوں کی طرح اردو نشر نے بھی اسی وقت ترقی کی جب کش کشم اور تصادرم کی شکلیں زیادہ واضح اور گہری ہوئیں۔ گزشتہ باب میں تبلیغ کے آغاز کا ذکر کیا جا چکا ہے لیکن دو رجید کے مطالعہ کے وقت ان مسائل کو نظر سے او جھل نہیں ہونے دینا چاہیے جو ہندوستان کے مختلف طبقات، مذاہب اور تصورات اور کیفیات کو ایک دوسرے سے تصادرم کرتے ہیں اور نئے نظریات پیدا کرتے ہیں۔

اگرچہ انیسویں صدی کے نصف اول میں انگریزوں کا سیاسی اقتدار ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر چھپیل چکا تھا اور طاک کے معاشری حالات بدل چکے تھے مگر ادب اور فن نے اس اقتدار کو کلیتاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ ارنخی ارتقانے اس بات کو واضح کر دیا

ہے کہ اقتصادی تبدیلیوں اور سماجی اور کے مادی وسائل پر قدرت حاصل کرنے کی بدولت انسان کا طرزِ فکر بدلتا ہے اور طبقات کے باہم تعلقات میں رد و بدل ہوتا ہے اگرچہ ادب اور فن میں بوتمندیاں سماجی اور معاشرتی اثرات سے ہوتی ہیں وہی بہت سست رفتار ہوتی ہیں اور کبھی آئندی تیز رفتار کر دنوں کے تعلق کا بتائنا کاناڈا شوار معلوم ہوتا ہے بتوازی تبدیلیوں کا نفع اس کا سبب یہ ہے کہ عادی روایات ایک بارہ جاتی ہیں وہ مشتمل ہے مثلاً ملکیتی ہیں اور عوامِ انس کو آئندی عزیز ہو جاتی ہیں کہ حالات بدل جانے پر بھی دل ان کی طرف کفچمار ہوتا ہے اور بہت سے لوگ تفہیماتی طور پر ان سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اولیٰ تبدیلیوں کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔

تاریخی اور معاشری تغیرات کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ انگریز ستر صویں صدی سے تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے گئے اور انہاروں میں صدی کے ختم ہوتے ہوئے ملک کے کچھ حصوں کے حاکم بھی بن چکے۔ انگلستان میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے ایک منعی انقلاب ہو چکا تھا اور ہندوستان اس کی مشینوں کے لیے کچھ مال کی بہت بڑی منڈی بن رہا تھا کیونکہ یہاں نہ سائنس تھی اور شطاقت کے اپنے گھر کی پونجی کو باہر جانے سے روکا جا سکے۔ اس کے اثر سے معمولی مقامی صنعتیں بھی تباہ ہونے لگیں۔ سیاسی نقلہ نظر سے یہ مغل حکومت کے انحطاط اور ایک نئے تجارتی اور صنعتی عمد کے وہود میں آنے کا پیش خبر تھا جو انگریزی سامراج اور ہندوستانی زندگی کے ارتباٹ سے پیدا ہو رہا تھا جو کہ ناگلطان ہو گا کہ اس وقت ایک طرح کی دو عملی تھیں جس میں یہاں کی اقتصادی ترقی جگدی ہوئی تھی۔ قدیم روایتیں اس کو قدیم زرعی محشیت اور گھریلو صنعتوں کی طرف کیفیت رعنی تھیں اور پورپ کی سرمایہ داری سے اس کا ابطا سے فتنی مشینی زندگی کی طرف سے چلنے کا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ کتنی صدیوں سے ہندوستان کی معاشری حالت اور اس کی بیانی زندگی بندھے ہوئے پانی کی طرح ساکن ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ اخلاقی، سماجی اور علمی قدیمیں بھی بے فیض ہو گئیں تھیں جو کچھ دن پسلے سکون بخشا کرتی تھیں۔ بعد و تایزوں کی بڑی آبادی ایسی تھی جو اپنی قدیم تہذیب کو فخر کی نداہ سے دیکھتی تھی۔ انھیں اس بات کا اساس بھی نہیں تھا کہ ان سیاسی انحطاط اس تہذیب میں کو خاتمے کی طرف یہے جا رہا ہے جو انھیں عویز ہے حکومت کی کمزوری کے ساتھ تعلیمیں اور تہذیبی پسست حالی بھی پیدا ہو گئی تھی جس کا نتیجہ

ایک طرح کی پاس پرستی تھی۔ ان میں یہ بہت نہیں رہ گئی تھی وہ بدی ہوئی حالت میں اپنی پرانی پونچی کے بل پر دوکان سجا کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو اپنی طرف کی صفحے سلکیں کیونکہ پرانے اقتصادی اور سماجی رشتے فوٹ رہے تھے اور عامۃ الناس اپنی روزی کے لیے نئے راستے ڈھونڈ رہے تھے۔ انیسویں صدی کے وسط تک بہت سے شاہی محل گرد کچے تھے اور ان سے والبستہ فوجی اور اہلکار بے کار ہو گئی طازہ طازہ کی تلاش میں محل کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نئی زندگی کے بھر ان کو تھوڑا بہت سمجھ لیا تھا اور اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو تیار تھے۔ انگریزوں نے جو تعلیم دنیا شروع کیا تھا اس کا نصب العین بھی یہی تھا کہ سندھستانیوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جائے جو نہ صرف ان کے خیالات سے متفق ہو بلکہ ضرورت کے قوت ان کا معاون اور مرد گار بھی ثابت ہو۔

ایسٹ انڈیا کمپنی جو آہستہ آہستہ زندگی کے مختلف شعبوں پر چھاتی جا رہی تھی، اب تاریخ کی میزان میں سب سے بڑی قوت تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ سندھستان کی تھیری ہوئی زندگی میں ہو کے تیز جھونکے اور تمازہ لبر کی طرح آئی تھی اگرچہ اس ہوا میں زہر اور اس لہر میں نش کے ساتھ نئی توانائی خبشنے والے رجحانات بھی گھلے لئے تھے۔ ترقی، روزِ عمل اور تعطل کا یہی ملا جلا جذبہ ہے جس کے باعث اس عصر کے تجزیہ دشوار ہو جاتا ہے اور جو نقاد یا مورخ محض سطح پر نظر رکھتا ہے وہ جذباتی ہو کر کبھی مغربی اشوات کی نہ سرت کرنے لگتا ہے اور کبھی ایسی ستائش کرنے لگتا ہے جیسے انگریز نہ آتے تو سندھستان جہالت اور وحشت کا ایک جنگل ہوتا۔ سچ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی لیٹریوں کی ایک تنظیم تھی جس نے اپنے ایک صدی کے مجرمانہ عہد اقتدار میں ملک کو اچھی طرح بوٹا۔ اگر با واسطہ اس سے کچھ فائدہ بھی پہنچ گیا اور کسی طرح کے نئے شعور کا ظور بھی ہو تو اس کے تاریخی اسباب تھے جن سے روگردان نہیں ہوا جا سکتا تھا جس نئی تعلیم کا آغاز منگال سے ہوا اس نے مذہبی اصلاح اور نشاۃ ثانیہ کے جذبات پیدا کیے جو اس وقت کے معاشی معاشرتی انحصار کو دیکھتے ہوئے بیش بہا ہیں۔ اس میں مشک نہیں کہ اس بیداری میں انگریزی تعلیم کا بھی ٹہرا ہے تھا جس سے جاگیر اماں اور نظام ہی کے بطن سے وہ متوسط طبقہ پیدا

ہورہا تھا جس کے سامنے نئی راہیں اور نئی منزليں تھیں۔ راجہ رام موسن رائے اور ایسے ہی دوسرے رہنا اس دورِ اصلاح کی علامت کے جاسکتے ہیں۔ ان کی مشرقتیت نے علم سے کچھ اور فزوں ہو گئی تھی۔ ہندو اور مسلم سماج پر اس نئی تعلیم کا جواہر پڑا اس کا تفصیل بیان ضروری نہیں مگر یہ ضروری یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستانیوں کی صرف ایک قلیل تعداد نئی زندگی کا دراک شوری طور پر کیا تھا۔ کچھ یہی سمجھی تھے جن کے یہاں شدید رہ عمل خلاف سمت میں ہوا لیکن عام لوگوں کی بڑی تعداد اس تبدیلی سے واقع ہی نہ ہو سکی اور اپنی روایات سے حمپی رہی۔

انگریزی تعلیم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاشی رابطے نے جواہم کام کیے اُن میں نئے متوسط طبقے کے وجود اور اس کی سیاست کو ایک انقلابی واقعہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی میں تسلیم کا مرکز بننے والا تھا۔ یہ نیا متوسط طبقہ ایسی روایتیں چاہتا تھا جو اپنے دلک کی ترقی کو مغربی تصورات کے بناءٰ نہ ہوئے ضابطوں کی بنیاد پر سوت دے۔ وہ قدیم نظریات سے مطلۇن نہ تھا اور معاشیات میں زرعی نظام سے، مذہب و اخلاق میں تسلیم شدہ روایات سے ادب میں محدود فتنی تجربوں سے اور انہنا چاہتا تھا اس لئے شعور کو اپنا کر عنعتی سرمایہ دارانہ طرز فنکر کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح اس نئی زندگی کی تحریریت زیری ہونے تکی جو تھوڑی بھی مدت میں بگ و بار لائی۔

فلسفہ تاریخ کے بانے والے اسے بانتے ہیں لقدیم روایتیں کچھ تو خود فرسودہ موکر جانی ہیں، کچھ نئے حالات کے مقابلہ میں غیر ضروری ہو کر ختم ہو باتی ہیں ہندوستان کے سنتی مفردم ٹوٹ ہے تھا اور پرانے راج و ربار اپنی روایات سمیت مٹ ہے تھے اس میں شبہیں اسلام اعلیٰ اور متوسط طبقے کے لوگ ہندو، سکھ تھا جنہیں زیاد بہت دھرمی کے ساتھ جاگیرداری اور قدامت کی لاش سے پسے ہوئے تھے بلکہ جہاں تک ان کے شعور کا تعلق ہے دونوں ہیں کوئی خاص فرق نہ تھا دونوں میں سے کوئی بھی بیٹے بوئے سیاسی اور اقتصادی سائل کو پوئے طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا انجام یہ تو اکہ ہندوستان زرعی اور صنعتی معیشت کے درمیان متعلق رہا اور قدیم جاگیردارانہ روایات نئے نظریات میں اس طرح کھل مل گئیں کہ نشاۃ ثانیہ کی تکمیل نہ ہو اپنی سہی ہتھیپر ہے حالت ہے جسے اچھی طرح نہ سمجھنے کے باعث نئی زندگی اور نئے ادب سے معاشر بہت سے اندازے غلط ہو جاتے ہیں

ایک بڑھتی اور ہمیلیتی ہوئی بدیٰ حکومت کی تھی دبے ہوئے عوام کے غم و فصہ کا سہارا کر بھی کچھی جاگیردارانہ طاقتوں اور ان کی فوجوں نے شہزادہ میں انگریزوں سے ٹھپکا پانے کی ایک عظیم اشان کو شش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ ترقی کی آمدی طاقتیں مغرب کے ساتھ تھیں، ہندوستان کی عوامی طاقت منظر طور پر اس انقلاب میں شامل نہیں تھی اور بغاوت کرنے والوں کے اندر خود بھوت تھی۔ کچھ جاگیردار انگریزوں کے ساتھ تھے اور کچھ مخالف گروہ کے اس وقت انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پر معاشری تہذیبی اور قدیم ذہنی رہنمائی کو مٹادی ہے کے خوف تک بعد و تھا اگرچہ اس کے پیچے اقتصادی تباہی کے ذریعے ایک لاشوری لہب بھی تھی جو مستقبل میں نمایاں طور سے سامنے آئی اور بدیسوں کے خلاف ایک طوفان بن گئی۔ جو مسلمان جاگیردار اور زمیندار اس جدوجہد میں پیش میش تھے وہ بڑی بربریت سے کچھ گئے مگر جاگیرداری شکل بدل کر زندہ رہی اور انگریزوں نے ایک ایسا وفادار طبقہ پیدا کر لیا جو قدیم جاگیرداروں کا قائم مقام ثابت ہوا۔ مسلمانوں کو وہابی تحریک چلانے اور اس کے پردے میں حکومت کی مخالفت کا الزام لگا کر کچلا گیا۔ انگریزوں نے زیادہ تر مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کی تھیں اور حکومت سے انھیں محروم کیا تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے کی طرف سے چوکتے تھے۔ کچھ دنوں کے اندر قومی جذبات سیاسی رنگ میں بیدار ہوئے، ۱۸۵۷ء میں شیشل کانگریس کا جنم ہوا اور نئے سائل پیدا ہوئے۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہندوستانیوں کی حب الوطنی کے جذبے اور قوم پرستی کے جوش کو روکا جائے اس لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی کوششیں کیں، دونوں قوموں میں انھیں ایسے عناصر مل گئے جو نہ ہب کی بنیاد پر عالمگیری کے جذبے کو ہوادیتے تھے۔ انگریز اس کی داعی بیل پلے ہی ڈال چکتے تھے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد جب حکومت براہ راست ملکہ و کشوریہ کے ہاتھوں میں پوچھ گئی تھی سب کے حقوق کی نگہداشت کے قوانین بنائے گئے تھے۔ بظاہر یہ بڑا ترقی پسندانہ اقدام تھا لیکن اس نے نہ سب کے نام پر الگ الگ منظم ہونے کا موقع فراہم کر کے رجحت پسندی کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں فرقوں کے بڑے بڑے رہنمیا اور اوادیب اس کا شکار ہو گئے اور نئی صورت حال کا پوری طرح اندازہ کیے بغیر

تندگ نظری اور فرقہ پرستی کی عینک سے ہر مسئلہ کو دیکھنے لگے۔

ہندوستان کی سہ زبان کے جدید ادب کے ارتقا کو اسی پس نظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی مبوحی دفادریوں کا عہد تھا اس لیے ہر ادیب اور شاعر شور کی ایک نئی منزل میں تھا جہاں اسے اپنے خیالات کو استوار رکھنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ زندگی تجربات کی نئی منزل سے گذر رہی تھی اور کچھ ادیب ان کا خیر قدم کر رہے تھے۔ کچھ ایسے ادیب بھی تھے جو اپنے طبقاتی، درباری روایتی و جسم سے پرانا ہی راگ الائچے جارہے تھے ان کے نقطہ نظر سے اوب چند مسلمہ روایات فن کا نام تھا جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں تصویرات کے لیے قومی زندگی میں وجہ جواز موجود تھی۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ تبدیلی کے احساس نے فن اور ہیئت پر بھی اثر کیا۔ آج کے نئے پن یا جدیدیت کو دیکھتے ہوئے اگر چہری تغیرات پر اనے معلوم ہوتے ہیں لیکن اس وقت ان کی حیثیت روایات سے انحراف اور حراثت مند تجربات کی تھی۔ وہ عہد انقلاب کا نہیں، سست روایت پسندی کا تھا، اس کے اپنے نشیب و فراز تھے اور ادیبوں کا اپنا ذہنی اور طبقاتی روایہ جو ہر جگہ یکسان انداز میں ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں جب کسی نے نئے راستوں پر قدم انٹھایا، ہاضمی کی مسلمہ صدائتوں پر شک کا انٹھا کیا، نئے صنعتی عہد کا استقبال کیا، وہ اس وقت کو دیکھتے ہوئے جدید اور ترقی پسند کھلانے کا مستحق ہے۔

کئی ہیئتتوں سے ہندوستان میں اگریزی راج تاریخ کا ایک تاریک عہد تھا مگر اس سے بھی انکھار نہیں کیا جاسکتا کہ اسی رابلے سے ہندوستان میں نئے ملوم و فنون سامنے نئے طرز فکر، نئے ادبی تجربات کو بڑھاوا الا اور ٹھہری ہوئی اقتصادی زندگی میں حرکت میدا ہوئی جو بہگ حقائق واضح ہیں تھے اور تبدیلیوں کی نوعیت پھیل تاریخی تبدیلیوں سے مختلف تھی اس لیے کچھ ہی مفکر اور ادیب لیے تھے جو روح عصر کو سمجھ سکے اور اپنی سوچ بوجہ کو ادبی شکل دے سکے۔ ایسے ادیبوں میں بھارتیں دو، سرستید، حائل، آزاد، بنکم چند، مرشار، نذر احمد، ارڈشیر، خبردار وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو وقت کی نسبت کو پچانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان ادیبوں سے ایک طرف وہ لوگ متھاوم تھے جو بدنانہیں چاہتے تھے اور دوسری طرف وہ جو مغرب سے آئی ہوئی ہیرات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ ان کے شور کی سطیں بھی مختلف تھیں لیکن

ان کے خیالات میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر تاریخ میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ مجھس ادیب اور شاعر نہیں، اپنے عمد کے ذمہن رہنا بھی تھے اس حقیقت کو ایک بار پھر واضح کر دینا ضروری ہے کہ طبقاتی جدوجہد کے لحاظ سے اس عمد کو سمجھنے کے لیے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہو گا کہ اس وقت طبقوں کے ذہان پر شیک شیک اس طرح کے نہیں تھے کہ ان کے خیالات اور احساسات کی واضح ترجیحی کی جاسکے۔ اس لیے ہمیں اس الحسن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ایک ہی ادیب یا شاعر ایک ہی وقت میں انگریزی حکومت کی برکتوں کی شاخوانی بھی کرتا ہے اور اپنی تہذیب، اپنے اہل وطن کی بدعالی کا انھیں ذمہ دار بھی نہ ہرا تا ہے۔ غدر کے بعد کی شکست اور مظالم نے شکست خوردگی اور قنوطیت کے جذبات پیدا کر دیے تھے مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے معاشی حالات اور سماجی ضروریات کو سمجھ کر ان ادیبوں نے ایوسی کے جذبے سے جنگ کی اور زندگی کی راہیں دکھائیں، مااضی پر فخر کر کے پڑھید مستقبل کی بشارت دی، جدیات میں شرک مونکرا پنے دکھوں پر قابو حاصل کرنے کی ہمت بندھائی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سے وفادار رہنے کا جذبہ بھی آگے بڑھنے اور زندہ رہنے کا ایک سہارا تھا۔ وہ مغربی خیالات یا انگریزوں کی تعریف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انھیں اپنے ملک یا اپنی تہذیب سمجھتے نہ تھی بلکہ اس کا مقصد ترقی اور تبدیلی کے لیے ذہن کو آمادہ کرنا تھا۔ ایسا کر کے انھوں نے ملک کو جذبائی سوت سے بچا لیا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس متوسط طبقے کی پیدائش دور رسم اثرات کرتی تھی۔ مذہبی آزادی کے فلک طصور اور حکومت کی پشت پناہی کی امید نے سیاست کو فلک را ہوں پڑوال دیا اور عام قومیت کے تصور سے ہٹ کر انہیں ہم نہ ہوں کی فلاں بہبود پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اگر ایک طرف وہ انگریزی سامراج کے دباو اور یکاں معاشی سائل کی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کی نظر سے سوچنے پر مجبور ہوتے تھے تو دوسری طرف اپنے مذہبی گروہ اور طبقاتی دائرے کے اندر ہی ترقی کا جذبہ بیدار کر کے پنے خیالوں کو محدود بنایتے تھے۔ بھارتیندو، ہریش چنڈ اور ان کے ساتھی ہندو قوم پرستی کے ترجمان نظر آتے ہیں تو مرتضیٰ، حائلی، مذیر احمد، شبیلی مسلمان قوم پرستی

کے دو نوں درمیان طبقے کی نہایت بندگی کرتے ہیں اور دونوں میں خیالات کی ہم آنگنگی دلکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف آری سماج تحریک کا جنم ہوا تو دوسری طرف مسلم لیگ وجود میں آئی ان باتوں کو انگریزی سماج کے ارتقا اور تحریک آزادی کی کشمکش کے ریتنظر میں دیکھا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ انگ انگ اصلاح اور ترقی چاہنے کی تحریکوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس بات پر حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ”ہندو، ہندوستان“ کا تعریف نہ ہبی مصلحتوں نے لگایا بلکہ اس عہد کے ہندی کے اچھے اچھے مصنفوں اور شاعروں نے بھی اسے دُہرا یا۔ سلمان علما اور ادیبوں نے بھی دو قومی نظریہ پیش کرنے سے احتراز نہیں کیا۔ نوگریوں میں مسلمانوں کے لیے تحفظات، انگریزی حکومت سے مراعات کا مطالبہ علیحدگی پسندی کے رحجان کو تقویت بخشتاتھا۔ ادب میں اس کا انعام اور حقیقت بیداری ہی کا ایک عکس تھا۔ اس وقت کے تقریباً بھی اردو ہندی مصنفوں اور شاعروں کے یہاں یہ دُہرا رحمان دیکھا جاسکتا ہے، ایک طرف وہ قدامت پرستی اور کثرپن سے بُرد آن ما دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری طرف نہ ہبی نصب العین اور افتخار ماضی کے گن گا کر اپنے ہم نسب عوام کو جھنجھوڑتے ہیں۔

جهان تک حب الوطنی، کشور کی خالفت، صنعتی کاروبار اور تجارت — سماج سدھار، نئی تعلیم سے وابستگی نئے ادبی خیالات وغیرہ کا تعلق ہے یہ ادیب نئی زندگی کے ایک ہی ذخیرے سے مفاد حاصل کرتے تھے جو اس وقت کی تاریخ نے فراہم کیا تھا اس پس منظر کو سامنے رکھ کر شاعری، تنقید، ناول، سوانح، چیات، ڈراما، تاریخ اور مقالہ نگاری کو فروع گھاٹل ہوا تھا اس کی روشنی میں نئے خیالات کی مدد سے نزدیک کو نئے انداز پیش کرنے کا سلیقہ پیدا ہوا تھا۔ سماجی اصلاح کے متعلق ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ اپنی ادبی روایات کی وجہ سے البتہ ہندی اور اردو اصناف ادب کے ارتقا میں اختلافات ہیں جن کا ہونا نظری تھا۔ یہ فرق اردو کی غزل اور ہندی کے گیتوں میں خاص طور سے نمایاں ہے۔ ہندی کے گیت چمارا پیار شستہ توک گیتوں سے آسانی سے جوڑ سکتے ہیں اور اردو میں یہ آسانی نہیں ہے اسی طرح اردو میں غیر نہبی نظم جوئی کی روایت ہندی میں سانی سے تلاش نہیں کی جاسکتی بوجود دعیرین الجہہ دونوں یک دوسرے کے قریب ہیں۔

بیوی صدی کی دسخادہ اٹ تک کر دیش یہی حالت رہی پھر قومی اور بین الاقوای اڑا
یں بزرے بزرے، تغیرات پیدا ہوئے جمد آزادی کے قومی تصورات میں نئے سیاسی خیالات
کی آمیزش ہندوستانی ادیبوں کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ انگریزوں کے معاشری استعمال کے
کے ساتھ ہندوستانی سرمایہ داری کا استعمال بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ معلوم ہوتا
تھا اور مجبوری اور بغاوت کی نفیات کو حتم دے رہا تھا۔ آزادی کا تصور محض سیاسی
نہیں رہتا، زندگی کے وہ سرے ہجتوں میں نہیں اس کی بستجو ہو رہی تھی، کسانوں اور مزدود اور
کے مسئلہ نئی سلطح پر آ رہے تھے وہ سرے ماہک میں جو انقلاب ہو رہے تھے وہ روشنی کی
نئی کرن کی طرح آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ایران ترکی اور چین کے انقلاب، پھر
روس کا عظیم اشتراکی انقلاب ایشیا میں بیداری کے نقیب بن گئے اور ہندوستان کی
جمد آزادی تیز ہو گئی۔ ہندوستان کے ہر ادب میں بیداری کی یہ لہریں کہیں اونچی کہیں
نیچی صاف نظر آتی ہیں۔ غدر کے بعد سے یہ سلسلہ نئی کڑیاں جوڑتا، نئی
و سعیتیں اختیار کرتا اور ادیبوں کو نئی نئی مشکلوں میں متاثر کرتا رہا۔

ایشیوی صدی کی آخری تین دہائیوں میں اردو نثر نگاری جن را ہوں سے گزری اس کی
داستان ادب اور زندگی کے ایک نئے تعلق کی داستان ہے، اس کی ہمہ گیری اور پھیلاویں بان
و بیان، اسالیب اور موضوعات سمجھی آ جاتے ہیں۔ ادبی اور فکری نقطہ نظر سے اس کے
رہنماء سرید احمد خان تھے اس لیے اگر اسے انھیں کے عمد سے موسم کیا جائے تو بے جا نہ ہو گا
سرید احمد خان یعنی سرید (۱۸۹۸ء تا ۱۹۱۴ء) دلی کے ایک علم دوست اور
معز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے یہاں اعلیٰ عہدوں پر
مامور تھے۔ تھیاں میں بھی محترم اور مشہور علماء موجود تھے۔ سرید کے ناماریا ضی اور بخوم
کے ماہر تھے جاتے تھے۔ علم و فضل ہی کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی اس خاندان
کا احترام کیا جاتا تھا۔ سرید کی والدہ ایک صاحب اوصاف خاتون تھیں جیسے کی
تعلیم انھیں کی نگرانی میں ہوئی۔ دلی کے بڑے بڑے علماء سے بھی سرید نے کسب فیض
کیا، شعر کی صحبت میں بیٹھے، فارسی میں کچھ شعر بھی کہے، جوانی کا کچھ حصہ زمینیوں میں
بھی گذرائیکن جب تقریباً اکیس بُیس نی عمر میں انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت
کر لی تو زندگی بخیدہ اور باکار گذرنے لگی۔ بہت جلد منصف ہو گئے اور مغل دربار سے

خطابات عطا ہوئے جسکے میں صد این ہو کر بجھوڑ گئے اور جسکے مکان بگاہر انھوں نے وہیں دیکھا۔ یہیں ان کے ساسی شور کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے انھوں نے چند کتابیں لمحی تھیں، کمپر ترجمے کیے تھے لیکن بجھوڑ میں تاریخ ضلع بجھوڑ اور تاریخ سرستی بجھوڑ ان کے نئے ذہنی مود کا پتہ دیتی ہیں: بجھوڑ میں انھوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں، آفت زدہ لوگوں کی مدد کی اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر رفاه عام میں گئے رہے۔ دلی پنج پتو گھرث پکا تھا لیکن وہ ہمت نہ ہارے اور انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کرنے پر صدر الصدور ہو کر مراد آباد پہنچے وہاں بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ تبادلہ غازی پور ہوا اور وہاں انھوں نے سائنسی فکر سوسائٹی قائم کی جب ۱۸۶۷ء میں علی گڑھ پہنچے تو سوسائٹی کا دفتر وہیں آگیا جس کا مقصد مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کرنا اور سائنسی خیالات کا عام کرنا تھا۔ سر سید نے ۱۸۶۶ء میں ایک اردو یونیورسٹی کا خاکار بھی بھیشی کیا اور کچھ ہی دنوں بعد اردو ہندی تنازعہ میں اردو کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔

سر سید ہندوستانی تعلیم سے مطمئن نہ تھے ۱۸۶۷ء میں اپنے بیٹوں کو کیا لگھستان گئے، اس کا مقصد جہاں یہ تھا کہ لڑکوں کی تعلیم کا انتظام وہاں کریں وہاں یہ بھی تھا کہ انگلستان کے نظام تعلیم کا مطالعہ کر کے اپنے لکھ کے طریقہ تعلیم میں اصلاح کریں۔ وہاں سے واپس آگر سر سید نے اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس نے نئی اردو نشری بیانی دہائی۔ کچھ دنوں بعد اپنے تعلیمی خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے انھوں نے کچھ دوستوں کی مدد سے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا، جو ۱۸۶۸ء میں کامی ہو گیا اور کچھ دنوں کے اندر اعلیٰ تعلیم و تربیت کا مرکز بن گیا (یہی کامی ۱۸۶۹ء میں مسلم یونیورسٹی بنایا تھا) اسی زمانے میں سر سید و اسرائیل کے کوئی کے مہر بدلنے گئے۔ جہاں انھوں نے مفید قومی خدمات انجام دیں۔ ان کے اہم کارناموں میں محمدن ایجوکشنل کانفرنس کا قیام بھی ہے جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم پر گہرا اثر ڈالا۔ سر سید مسلمانوں کے کامیگری میں شریک ہونے کے خلاف تھے، ان کا خیال تھا کہ فدری میں تباہی کے بعد مسلمانوں کو اپنی حالت درست کرنے کے لیے انگریزی حکومت سے مراحت حاصل کرنا چاہیے۔ گویہ بات فرقہ پرستی یا تنگ نظری پر بھی نہیں تھی لیکن سر سید کے اس ابتدائی

رویتی سے مختلف ضرورتی جس میں وہ مذاہب کی تغیریق کے بغیر منہدوستان کی ترقی کا ذکر کرتے تھے۔ تمام حالات پر نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ وہ فرقہ پرست ہوئے بغیر آہستہ آہستہ صرف مسلمانوں کی بہبودی، ترقی اور اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے جاتے تھے۔ ایک بہت ہی کامیاب پژشت اور باعمل زندگی گز اور کرانخوں نے موہلہ میں علی گڑھ آسی میں رحلت کی۔

سرسید ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مخالف بھی ان کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم کے بغیر منہدوستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بیٹے انگریزوں کا تعاون حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتے رکابوں انگریزی حکومت کے حلیف اور وفادار سمجھے جاتے تھے۔ سرسید نے اس طرح اس نشانہ کو فائدہ پوچھا یا اور نقصان بھی کیونکہ انخوں نے عوای زندگی اور اس کی معاشی نامہواریوں پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ بلکہ اصلاح اور ترقی کی دہن میں صرف علی اور متوسط طبقہ کو پیش نظر رکھا۔ وہ ایک بے خوف، باشور، باعمل، انسان دوست عالم اور مفکر تھے۔ ان کے دائرہ عمل کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تہذیبات میں کئی انسانوں کی قوت عمل تھی اور ان کی فکر کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ یہ نے چھوٹی بڑی تیس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں خطبات، تقاریر اور مکاتیب کے بھی کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ ابتداء میں انخوں نے بیشتر نہیں تاریخی ہزاروں میں سائل پر کتابیں لکھیں یا قلم فارسی تاریخوں کی تصحیح کر کے انھیں نئے انداز سے شائع کیا۔ ان میں سے زیادہ اہمیت آثار الصنادید کو حاصل ہوئی۔ یہ کیونکہ یہ نہدوستانی زبانوں میں پہلی تحقیقی کتاب تھی جس میں ہلی کی تاریخی عمارتوں کی تفصیل وہی تھی۔ اسی کے ساتھ اہل دہلی کا ایک تذکرہ بھی تھا۔ اس کے تخفیف میں انخوں نے کچھ مدد امام غیث سہب آنی سے بھی تی تھی۔ اس کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں بھی ہوئے اور سرسید کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ غدر سے پہلے کی کتابوں میں تاریخ صلیع بخوبی سمجھی اہم ہے۔ غدر کے بعد سے سرسید کی حیثیت ایک مفکر اور رہنماؤں کی بھی ہو گئی اور ان کے عمل کا دائرہ سیاسی اور تعلیمی۔ اصلاحی اور ادی سنتوں میں پھیلا۔ تھوڑی ہی مدت میں انخوں نے تاریخ مکتبی بخوبی، رسالہ اسباب بغاوت مہدوں اور لائل محدث اف انڈیا شائع کیں۔ علی گڑھ سائنس فکر گزت

اور تہذیب الاخلاق کے لیے مضمایں لمحے۔ انجیل کی تفہیم بین الکلام مرتب کی اور دوسرے مختصر رسائل کے علاوہ خطبات احمدیہ اور تفہیم قرآن کی جلدیں شائع ہیں اپنے تعلیمی اور سیاسی نقطہ نظر کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں مقاہمت بھی چاہتے تھے اور اسلام کی برتری بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ادبی نقطہ نظر سے مرسید کی وہ تحریریں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جو مضمایں کی شکل میں تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئیں۔ اس رسالے کے شائع کرنے کا خال مرسید لندن سے لے کر آئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپکنے اور میلر دیکھے تھے، ان کے اصلاحی اور ادبی مضمایں نے انہیں تاثر کیا تھا اور انہیں اپنی تحریک چلانے کے لیے ایک تجہان کی صورت بھی تھی، اس طرح تہذیب الاخلاق جدید نقطہ نظر کی آواز بن گیا۔ اس نے فٹی تعلیم، سائنس، عقل پرستی اور اصلاح رسم کے لیے راہیں ہموار کیں اور وہ سوالات اٹھائے جن کے جواب پر آئندہ کی علمی اور ادبی ترقی کا انحصار تھا۔ جب مرسید نے لکھنا شروع کیا اس وقت اردو نشر میں عام طور سے پرانا اسلوب رائج تھا، اگرچہ کسی حد تک مرزا غائب، ماسٹر رام خپڑا اور دوسرے ادیبوں نے ایک نئے اسلوب کی بنیاد پر اپنے اسلوب کا ذہن ایک عمل پسند کا ذہن تھا جسے ادبی حسن سے زیاد شعوس تھا، ذور بیان اور غیر مسمی طرز اپنے ریاضہ عزیز تھا اس لیے ان کی نشر اپنا ایک الگ اسلوب اور روزنگتی تھی۔ یہ اسلوب بڑھتے ہوئے سائنسی میلان اور عقلی رجمان سے ہم آہنگ تھا اور کسی نئی شکل میں آج کا بنیادی اسلوب ہے۔

اردو نشر کو پر وال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد (۱۸۷۸ء-۱۹۴۶ء) نبی ہے۔ وہ ولی میں وہاں کے ایک مشہور عالم اور دینی پیشوامولانا محمد باقرؑ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کے تیرہ سو سال مولانا محمد باقرؑ نے اردو کا پلا اہم اخبار دہلی اردو اخبار کے نام سے کمالا۔ آزاد نے فارسی عربی کی تعلیم اپنے باپ سے حاصل کی اور شاعری میں انہیں کے مشورہ سے شیخ ابراہیم ذوقؒ کے شاگرد ہوئے۔ جدید تعلیم کے لیے جو نئے افکار و خیالات پر بینی تھی انہوں نے دل کا بیس داخلہ یا جہاں و کاء اللہ، نذر احمد، پیارے لال آشوب بھی متعلم تھے۔ آزاد نے طالب علمی ہی کے زمانے سے مضمون نگاری اور شامی شروع کر دی تھی۔ غدر میں ان کے باپ پندرہ

کا الزام لگا کر انگریزوں نے انھیں گولی اردوی۔ آزاد کی زندگی بھی خطرے میں تھی، وہ مگر با رچوڑ کر اور صرف اپنے اس تاد و دوق کا بے ترتیب کلام کے کرکھنے، ہیدر آباد اور لاہور میں پھرتے رہے جسکا نام میں لاہور میں انھیں حکمۃ تعلیمات میں ایک ملازمت مل گئی، وہاں انھوں نے فارسی اور اردو میں کچھ نضانی کتابیں لکھیں اور اس کے انگریز افردوں نے ان کی ادبی اور علمی صلاحیت کا اعتراف کیا۔ بعض ضروری کاموں سے انھوں نے کابل اور ایران کا سفر بھی کیا۔ اور جدید فارسی کام طالعہ بھی کیا۔ بعض بھروسے اہل علم کے تعاون سے انھوں نے لاہور کی آجنبی پنجاب کو فروغ دیا۔ اور کرنل ہالر انڈ کے مشورے سے ان مشاعروں کا آغاز کیا جن میں نئے طرز کی نظیں پڑھی جاتی تھیں۔ لاہور میں آزاد کی ادبی زندگی چک اٹھی اور وہ غالغوں کے باوجود علمی دائرے میں اپنی جگہ بناتے رہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فارسی عربی کے پر فیر متقد کیے گئے، ہمسال العلما کا خطاب ملا اور بعض ذاتی حادثات کی وجہ سے ذہنی اختلال کا آغاز ہوا۔ ۱۸۹۰ء کے بعد سے بالکل مجنون ہو گئے، لیکن اس عالم میں بھی لکھتے رہے۔ اس وقت کی تحریروں میں فلسفہ، مذہب اور ادب کے الجھے ہوئے تصورات کی آیینش ہے۔ میں برس دیوانِ نجگی کی زندگی گز۔ ارکر آزاد نے ۱۸۹۱ء میں لاہوری میں نقال کیا۔ آزاد کی تصنیفات کی تعداد تو بہت ہے مگر ان میں قصص ہند آبِ حیات، نیرنگ خیال، دربارِ اکبری، سخداں فارس، دیوانِ دوق اور مجموعہ کلام نظم آزاد بہت مشہور ہیں۔ آبِ حیات اردو شاعری کی پسلی تاریخ ہے جس میں سماجی پس منظر، معاشرتی ماحول تاثری اور ادبی شعور کا لحاظ رکھتے ہوئے شوا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تحقیقی نقطہ نظر سے اس میں خامیاں اور غلطیاں بھی ہیں لیکن اپنے عمد میں آزاد نے تحقیق کا حق ادا کیا۔ اس کا ادبی مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بقول ایک نقاد اگر اس کے بیانات علط شابت ہو جائیں تو بھی اس کی ادبیت بہتر ار رہے گی۔ دربارِ اکبری شہنشاہ اکبر کے عمد کی دلپشت تاریخ ہے جس میں آزاد نے اس تہذیب کا خاک کھینچنے کی کوشش کی ہے جو مہدوؤں مسلمانوں کے تہذیبی میں جوں سے پیدا ہوئی تھی۔ اردو میں اگرچہ تیلی نشر کے نونے موجود تھے لیکن عام نہ تھے اور جو تھے ان کا تعلق زیادہ تر فارسی کے صوفیانہ ادب سے تھا، آزاد نے پہلی بار انگریزی کے رمز یہ مضامین کے خاکے اور ترجمے نیرنگ خیال میں پیش کیے

اس کے بعض حقیقی نشانی اسلوب کے لفاظ سے قدرت اظہار کا معجزہ ہے۔ انھیں سانیات سے غیر معمولی دلپھی تھی خان آرزو کے اس خیال کو انھوں نے بڑی تفضیل سے واضح کیا کہ فارسی اور سکرت ایک ہی اصل سے تعلق رکھتی ہے، یہ دو بہنس ہیں جو ہندوستان میں آگر دوبارہ ایک دوسرے سے ملی ہیں۔ بخدمان فارس اس کی اعلیٰ شال ہے۔ انھوں نے ایک ڈراما اکابر بھی شروع کیا تھا جو کمکن نہ ہو سکا۔ دیوانِ ذوق کی ترتیب و تدوین بھی اس عمد کو دیکھتے ہوئے ایک اعلیٰ پایہ کا کام ہے۔ آزاد کی زندگی اس طالعِ علم کی زندگی تھی جو ہمیشہ کچھ سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے۔ ان کا تعلق براہِ راست مرشد کی تحریک سے رہتا تھا لیکن وہ بھی اس ادبی اور فکری رہنمائی کے نقیب تھے جو نئی تعلیم اور نئے حالات کی بدولت زندگی کے ہر گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ آزاد کے مخالف بھی ان کے اسلوبِ نثر کے مدائح ہیں کیونکہ اس میں جو زیگیزی، روانی، حسن، جوش اور اظہار خیال کی رعنائی ملتی ہے وہ بنے نظیر ہے۔ کھٹی زبانوں سے واقفیت کے باعث وہ ہندی الفاظ کا استعمال بھی موزوں طریقے سے کرتے تھے۔ آزاد کا اسلوبِ مصنوعی نہیں ہے بلکہ ان کے طرزِ فکر اور شعورِ فن کے لیے فطری ہے۔ وہ اپنے عمد کے دوسرے ادیبوں کے مقابلہ میں انحریزی کے الفاظ کم آنکھ کرتے تھے۔ الفاظ ان کے قابو میں اس طرح ہیں جیسے کہا رکے ہاتھ میں گیلی میٹی۔ مختصر یہ کہ آزاد اردو کے عظیم مصنفوں میں ہیں اور اس نشانہ تھا کہ نمائندگی کرتے ہیں جو انہیں صدی کے وسط میں وجود میں آیا تھا۔

خواجہ الطاف حسین حائل (۱۹۲۶ء تا ۱۹۳۷ء) پانی پت میں خواجہ جان انصاری کے ایک سورج گھر نے میں پیدا ہوئے۔ ماں دماں بیماری میں بتلاستھیں، باپ کا کم عمری میں انتقال ہو گیا، بھائیوں نے سروش کی لیکن تعلیم بے ترتیب رہی۔ ابھی سترہ سال کے تھے کہ شادی کا جواب بھی خلیے میں پڑ گیا۔ حائل ابھی اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس بندھن سے چھکارا حاصل کرنے کیلئے وہ ایک دن چکے سے پیدل دلی چل گھر سے ہوئے اور تکلیف سے زندگی بسر کرتے اور علاس سے فیض حاصل کرتے رہے دلی کانج جو اس وقت نئے خیالوں کا مرکز تھا، حائل کی دسترس سے دور رہا۔ جب عرب زبان کو معلوم ہوا کہ وہ دہلی میں ہیں، جا کر انھیں پانی پت واپس لائے ۱۸۵۷ء میں ضلع حما

کے دسپی کشز کے دفتر میں توکری کر لی۔ کچھ سی دنوں بعد خدر ہو گیا۔ حال جان بچا کر بدوواری پانی پت پنچے۔ اسی زمانے سے صحت کی خواہی کا سلسلہ شروع ہوا لیکن حال نے وقت پر باد نہیں کیا اور مشرقی علوم و ادب کا مطالعہ نہ کرتے رہے۔

خدر کے بعد حالی تلاش معاشر میں پھر دلی آئے تو نواب مصطفیٰ خان شیفختہ کے یہاں ان کے لڑکے کے آمایق ہو گئے۔ توکری تو صرف بہانہ تھی حالی کو شیفختہ غائب اور بہت سے علمائی صحت نصیب ہوئی۔ غائب کی شاگردی ہی نہیں ان کی زندگی کا قریب سے دیکھنے کا فخر حاصل ہوا۔ ۱۸۶۹ء میں غائب اور شیفختہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حالی بے سہارا ہو گرلا ہو رپنچے اور وہاں محمد حسین آزاد کی مدد سے پنجاب بکڈ پو میں ایک چھوٹی سی طازمت مل گئی۔ وہاں وہ ترجمہ کی ہوئی تباوب کی زبان درست کرنے لگے اور مغربی ادب سے واقفیت بھم پنچی۔ حالی نے خود لکھا ہے کہ اس زمانے میں انھیں مشرقی ادب سے نفرت اور مشرقی ادب سے دلچسپی ہونے لگی۔ یہی زمانہ تھا جب سرستید نے اپنے خیالات سے تاثر کرنا شروع کیا اور حالی باقاعدہ تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھنے اور سرستید کے نقطہ نظر کی اشاعت کرنے لگے۔ لاہور میں صحت کی خواہی نے ایک بار پھر دلی آنے پر محصور کیا۔ یہاں وہ دلی کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ پھر حیدر آباد سے ایک ادبی وظیفہ ملنے رکھا اور طازمت ترک کر کے حالی نے اپنا سارا وقت تصنیف و تایف میں نگاہ دیا۔ ۱۸۷۰ء میں شمس العلماء کا خطاب طلا اور ۱۸۷۳ء میں انتقال ہو گیا۔

حالی کو نشر و نظم دونوں میں اہمیت حاصل ہے۔ گزشتہ سو سال کے اندر اُردونی کے سرمایہ میں جو اقسام ہوئے ہیں ان میں حالی کا بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے ۱۸۶۴ء سے نظرخواری شروع کی؛ اور پہلی کتاب مذہبی موضوع پر لکھی۔ ۱۸۷۰ء میں مجلسِ لسان تصنیف کی جس میں ناول کے پیرا یہ میں تعلیم نسوان کے مسئلہ پیش کیے گئے ہیں، اسی سے ان کی شہرت کا آغاز نظرخوار کی خلیفہ سے ہوا۔ پھر انہوں نے چاراہم کتابیں لکھ کر اردو ادب کی تبلیغ میں اپنے یہے ایک لاقانی چکر بنالی، یہ میں حیاتِ سعدی، مقدمہ شروع و خاتمی، امدادگار فائدہ اور حیاتِ چاویدہ۔ ان کے علاوہ ان کے مقالات اور خطوط کے مجموعے بھی اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ حیاتِ سعدی ۱۸۷۲ء میں لکھی گئی اور اردو میں سوانح بخاری کے

فڑنگر سے ایک نئے ماز کا پتہ درتی ہے۔ مقدمہ شعروٹ شاعری ان کے مجموعہ نظم کا مقدمہ ہے لیکن یہ بھائی سے خود اور دشمنی کی ایک اہم تصنیف ہے جس میں بھلی ہار منظم اور علی اہم از میں شاعری کی پر کہ کے بعض محرومی اصول پیش کیے گئے۔ اس کا شمار دور چدید کی ان بنیادی کتابوں میں ہوتا ہے جس میں سمجھدہ نظر میں تنقیدی طرز فکر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ حآل سماجی اور اخلاقی اقدار کو اپنے عہد کے آئینے میں دیکھتے تھے، پوری کتاب پر یہ انداز نظر چایا ہوا ہے اور شاعری کی اچھائیوں برائیوں کی کسوئی محض چند فنی قواعد نہیں رہ جاتے بلکہ زندگی کے نشیب و فراز بن جاتے ہیں۔ یادگارِ غالبات، مزا غالبات پر پہلی باقاعدہ تصنیف ہے۔ اس میں غالب کی سرگزشت حیات کے ساتھ ساتھ غالب فہمی کے نکات سمجھی سامنہ آ جاتے ہیں اور گوتمانی نے مزا کے حالات کے متعلق بہت زیادہ چنان بین سے کام نہیں لیا لیکن اس کتاب میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے ضرور پیش کیا ہے۔ حیات جاوید سر سید کی بسی طسوائی عمری ہے اور اسی عرصے کے باوجود کہ یہ کتاب الماقب بالمدل مذاہی ہے، سر سید کو ایک قوی رہنماء اور فکر کی حیثیت سے پیش کرنے میں ناکام نہیں ہے۔

حآل سر سید کے یا سی اور علیمی تصورات سے بہت کچھ متفق تھے، ادبی نقطۂ نظر میں بھی انھیں سر سید کی تحریک سے بہت فائدہ پہنچا تھا لیکن کچھ اپنی ذائقی تباہ است اور کچھ غالب اور شیفتہ کی صحبت کی وجہ سے ان کے ادبی کارنامے سر سید کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے یہ ہمی سادی باتوں اور غیر مصنوعی اسلوب میں زندگی کے دو مسائل پیش کیے جو ان کے عہد سے مطابقت رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مغرب سے آتی ہوئی تہذیب میں ہلم کی جو روشنی ہے وہ خند و تان کو سمجھی آگے بڑھا سکتی ہے لیکن انھوں نے اس کے لیے مدد ہمی اصلاح وضع قطع میں مغرب کی پیروی اور راجحہ زدی تہذیب کو برتر تسلیم کرنے پر زور نہیں دیا۔ انھیں زوال و انحطاط کا احساس تھا لیکن اس سے نکلنے کے لیے وہ ماضی کے اہلی کارناموں اور تہذیبی قدروں کی باز یافت پہنچی اصرار کرتے تھے۔ یہ مشرق و مغرب کی آمیزش کا ایک صالح تصور تھا۔ اسی خیال کے تحت انھوں نے شاعری تنقید، سوائی نگاری سہ رائیک میں نئی را ہیں ڈھونڈنکالیں۔ ان کی زندگی میں جو سادگی، بے ریاضی اور سچائی سکتی وہی اُن کے ادب میں بھی ہے۔ اس میں شک

نہیں کہ تنقید کے متعلق ان کا نقطہ نظر اصلاح اور اخلاق میں محدود ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں روحِ ادب سے دور جا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور سے ان کا اندازِ نظر سائنس فکر ہے اور اس کا سلسلہ آج کے تنقیدی شعور سے جوڑا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر مولوی نذیر احمد (ستارہ تاریخ ۱۹۱۲ء) اسی اس عہدکار اہم ادیبوں میں ہیں۔ ان کا اصل وطن بھنور تھا لیکن کم عمری ہی میں دہلی آگئے اور وہیں کے ہو رہے۔ مسجد کے مکتب سے شروع کر کے وہ دتی کالج پہنچنے۔ مدرسہ کی تعلیم اور غربی کی مشقت نہ ختن کا عادی بنادیا تھا۔ کالج کے اپھے طالب علموں میں گئے جانے لگے اور افکار کی بنیاد نہیں ہونے کے باوجود نئی تعلیم اور نئے خیالات سے تاثر ہوئے۔ نذیر احمد نے خود یہ خیال خلا کیا ہے کہ انہوں نے سچا علم، تحلیل، آزادی خیال اور سرکار پرستی کا سبق کالج کی تعلیم، ہی سے حاصل کیا۔ کالج چھوڑتے ہی ملازمت کا سلسلہ جاری ہوا۔ غدر میں تکلیفیں انھائیں لیکن ترقی کر کے بہت جلد ڈپٹی اسپکٹر مدرسہ پہنچئے۔ اپنے شوق سے انگریزی زبان میں ہمارت بھم پوچھا کر کئی قانونی کتابوں کے ترجیح کیے اور پہلے تعلیم اور پھر ڈپٹی سکلکٹر ہوئے جنہیں وہ کے قریب ان کی یا قوت سے تاثر ہو کر ریاست حیدر آباد نے ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ وہاں سے نشانے کر دہلی آئے اور باقی عمر تصنیف و تالیف میں گزر اردو۔ اذنرا یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی نے ایں ایں ڈی اور ڈی۔ اور ایں کی ڈگریاں دیں، حکومت سے شمس العطا۔ کاظماں ملا اور کامیاب زندگی گزدار کر ۱۹۱۲ء میں انتقال کیا۔

ڈاکٹر نذیر احمد سر سید کے ایک بہت بڑے مصنف اور بااثر خطیب تھے ان کی آواز بلند اور بھاری تھی اور حجب بڑے سے بڑے اجتماع میں وہ تقریباً کرتے تھے تو انہما چھا جاتا تھا۔ بولہ سنجی سے مجمع کو پہنچے قابو میں کر لیتے تھے۔ ان کی تقریبہوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کو پڑھ کر ان کے وسیع علم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے وہ سر سید سے بہت سی باتوں میں تتفق تھے اور ان کے تعلیمی منصوبے کے لیے ایک مبلغ کا کامیابی کرتے تھے، مگر ان کے نہ ہی خیالات سے تتفق نہ تھے۔ سرکاری نوکر ہونے کے باعث ہمیشہ انگریزی راج کے گئی گاتے اور انگریزوں کی سوجھ بوجھ، سیاست، رواداری وغیرہ کی درج سلسلی کرتے رہتے تھے۔

انھوں نے بہت سی کتابیں لکھیں اور قانون کی کمی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ جن میں تعریفات ہند اور قانون شہادت ان کی قوت ترجمہ کے شاہکار کے جاسکتے ہیں۔ نذیر احمد نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی اردو میں کیا، مگر جن کتابوں نے ان کو ام بنا یا ہے وہ کچھ ناول ہیں، جن میں زوال پریمر مسلمان متوسط طبقے کی اصلاح کے مسائل پر دلچسپ کہانیاں خلائق کی ہیں۔ ان کا سب سے پہلا ناول مراة العروس ہے جو ۱۸۶۸ء میں لکھا گیا۔ اگرچہ فنِ نقطہ نظر سے اس میں خامیاں ہیں لیکن پھر بھی اردو کے پہلے ناول نویس تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب تکھتفت و قوت انھیں اس کی اشاعت کا خیال نہ تھا بلکہ اپنی روز کے پڑھنے کے لیے ذاتی طور پر ایک نصابی کتاب تیار کی تھی۔ مگر اتفاقاً یہ کتاب ایک انگریز ناکثر کے ہاتھ لگ گئی، اس نے اسے شائع کرنے پر زور دیا۔

پھر یہ سلسلہ چلنے کلاؤ اور انھوں نے سات ناول لکھے جن میں سے کمی پران کو ب سے اپنی کتاب تکھنے پر انعام لے۔ مراة العروس اور نبات النعش دونوں میں لڑکیوں کو سمجھنے، تعلیم حاصل کرنے اور اچھی زندگی گزرا رنے کے پہلو پیش کیے گئے ہیں۔ نذیر احمد کے ناولوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ وہ بیچ بیچ میں مذہب اور اخلاق پر تقریر کرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی ناولوں کے کردار نشانی پسند معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ان کا تیرسا ناول تو سبتوہ الضوح (۱۸۶۸ء) سے زیادہ مشہور اور دلچسپی اس میں دلی کے مشتے ہوئے مسلمان گھر انوں کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور نذیر احمد اسی میں یہ خیال بھی ظاہر کرتے ہیں کہ صحیح تربیت کے بغیر زندگی کا میاب نہیں ہو سکتی۔ ان کے دوسرے ناولوں میں ابن الوقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ہندوستانیوں کے سوچے سمجھے انگریزی طرزِ معاشرت اور زور دنوش اختیار کرنے کی نہتی کی گئی ہے۔ نذیر احمد شاعر بھی تھے اور ان کے کلام کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے مگر اردو شاعری کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں۔ کمی نقادوں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اس کے مطابق انھوں نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی اور ناول نگاری ان کی عظمت کے خلاف تھی، مگر یہ نقاد اس بات کو سجھوں جلتے ہیں کہ اس وقت سماجی مسائل مسلمانوں کے درمیان طبقے کو بے چین کر رہے

تھے اور حنفی کے اصلاح کے منصوبے سریید تعلیم کے دائرے میں بنار ہے تھے۔ جسے حانی اور آزاد، اعلیٰ درجہ کی تصنیفیں کرنے کے پورا کر رہے تھے اسی طرح نہ میر احمد اپنی ناولوں سے لوگوں کو نئی راہ دکھانا چاہتے تھے۔ ان کے ہزاروں کے نہ جانے کتنے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اور بہت سی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں اس سے ان کی اصلاح پسندانہ مثالیت کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔

مذیر احمد کا اسلوب نثر اپنی خصوصیتیں رکھتا ہے۔ انھیں ولی کی بول چال، محاور اور بات چحت کرنے کے طریقے پر پوری قدر تھی، اس لیے وہ بڑی پڑا شر زبان کا استعمال کر سکتے تھے۔ عربی کے عالم ہونے کی بدولت کبھی کبھی ناموزوں عربی نفظ بھی اس میں ٹھوٹش دیتے تھے اور ایسے محاورے لکھ جاتے تھے۔ جو اس مقام کے لیے مناسب نہیں تھے پھر بھی عام طور سے ان کا اسلوب بہت دلچسپ ہے مزاج میں اُدوبی ہونے کے باعث ان کی باتیں بہت جلد اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اپنے خطبات میں انگریزی لفظوں کو نامناسب طریقہ سے استعمال کر جاتے ہیں۔ وہ اردو کے سیلے مصنفوں میں جس نے طبقہ نواں کے بڑے بڑے مسائل پر خیالات ہی خاہر نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی دکھانی انھوں نے مذہب کے اصولوں کو بھی سائنسی انداز سے لکھنے کی سعی کی اور یہ چیزیں سعی پیش کیے کہ آسان اور پسندیدہ طور پر پیش کیا۔ سب باتوں کو سامنے رکھ کے یہ کما جا سکتا ہے کہ وہ اردو کے صرف مہلے ناول نگار ہی نہیں بلکہ ان مصنفوں میں سے یہی جنوں نے فتنے عہد کے ادب کی بنیاد مبنیا۔

کی اور مستقبل کے لیے خطر راہ بن گئے۔

اردو کے مشہور مصنف مولانا شبیل نعیانی (۱۸۵۴ء - ۱۹۱۲ء) جو مندرجہ بالا بڑے مصنفوں میں سب سے کم عمر تھے۔ اعظم گروہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے عربی، فارسی مذہبیات اور قاسیہ وغیرہ کی تعلیمیں بڑے علماء سے حاصل کی تھی۔ ان کے باپ وکیل تھے اور ان کو بھی وکیل بنانا چاہتے تھے مگر اس میں ان کا بھی نہ لگا۔ باپ نے دوسرا شادی کر لی تھی اس لیے گھر بیوی زندگی میں بھی سکون نہ تھا۔ چنانچہ ۱۸۷۶ء میں شبیل علی گردھ کا بیوی میں فارسی کے استاد ہو کر پہنچے گئے۔ یہ زندگی ان کے لیے تعمیری متابع ہوئی۔ وہاں ان کو

سرسید، مولانا حاملِ محسن الملک اور پرنسپلیس آنڈہ سے لئے کاموں حاصل ہوا اور ان کی علم کی حدیں وسیع ہوئیں۔ یہیں انھوں نے ہندوستان کی تعمیر نو اور پرنسپلیس کا احساس بھی کیا۔ سرسید کی بیش قیمت کتب خانے سے استفادے کا موقع ملا اور انھیں کی فرمائش پر مسلمانوں کی بڑی شخصیتیوں کے سوابع جمیات لکھنے کا حوصلہ بھی میسر ہوا۔ اس وقت شبلی نبادہ ترقیں لکھتے تھے۔ مگر جب انھوں نے نظر لکھنی شروع کی تو تمہارے ہی وقت میں وہ بہت بڑے مصنفوں میں شمار کیے جانے لگئے تھے۔ ۱۸۹۶ء میں کے ساتھ وہ صرف شام اور دوسرے اسلامی مالک بھی گئے اور وہاں سے اپنی نئی کتابوں کے لیے بہت سامواد لائے۔ مولانا شبیل قدیم و جدید کام رکب تھے۔ سرسید سے ان کا تعلق ان کی زندگی تک تو ایک رفیق کار اور مداع کار ہاگمنان کے انتقال کے بعد شبیل ان کے خیالات کی مخالفت کرنے لگے۔ ۱۸۹۷ء میں علی گڑھ کالج سے استعفادے کر اعظم گڑھ پہلے آئے اور وہاں ایک نیشنل اسکول قائم کیا۔ ۱۸۹۸ء میں دن گزرنے کے بعد حیدر آباد کے شعبہ تصنیفات و تاییفات میں ان کو ایک اپنی جگہ مل گئی اور وہاں رہ کر شبیل نے کئی کتابیں لکھیں اسی وقت کچھ سلان علماء سے دین نے ایک عربی مدرسہ ندوۃ العلماء کے نام سے قائم کیا تھا۔ شبیل اس سے بڑی دلچسپی لیتے تھے مگر ان میں ہو ایک تجدید پسندی کی لہر تھی اس کے باعث پر اپنے خیال کے کفر رہنا ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہتے تھے یاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد مولانا شبیل کو اس سے بھی الگ ہو جانا پڑا۔

۱۸۹۹ء میں ان کو ایک بہت سالخی سے دو چار ہونا پڑا۔ وہ اعظم گڑھ میں تھے اور بیٹھے لکھ رہے تھے کہ گھر کی کسی حورت نے بندوق الگ رکھنے کے لیے اٹھائی، وہ جمل گئی مولانا کا ایک پاؤں بالکل بیکار ہو گیا۔ مگر اس نے ان کو بیکار ہیں کیا وہ لکھنے پڑنے کے کام میں مرتے دم تک لگے رہے۔ اعظم گڑھ ہی میں انھوں نے ایک بڑا ادارہ دار المصنفوں کے نام سے قائم کیا ہوا۔ بھی تک لہذا کام کر رہے ہے۔ شبیل نے محض ستاؤن سال کی عمر میانی لیکن ان کی تخلیقات کی تعداد بہت ہے۔ وہ صرف ایک پیشوائے دین تھے بلکہ ہندوستان کی سیاست سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے۔ مسلم لیگ کی مخالفت کرتے تھے اور

کاگریں کو آزادی کے لیے لڑنے والی جماعت سمجھتے تھے۔ وہ بہت فڈر اور ذہین و ذکری آدمی تھے اور اپنے خیالات بڑی مہبومی سے ظاہر کرتے تھے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے مولانا شبیلی کی تصنیفات کی تعداد بہت ہے۔ ان میں فلسفہ ادب، تاریخ، سوانحی مضمون، مکاتیب وغیرہ بھی موضوع پائے جاتے ہیں، لیکن جن تصنیفات سے ان کا نام زندہ ہے وہ وہ میں المامون، انفار وق، سیرت اہل علم، شیراع، معجم، موازنہ، دوسری شبیلی کے تاریخی نقطہ نظر اور مہبومی خیالات سے خود ان کے ہم مذہبوں نے اختلاف ظاہر کیا ہے مگر ادبی تخلیق کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ان کے ادبی تجزیوں میں غلطیاں بھی ہیں پھر بھی ان کی ادبی اہمیت سے روگردان نہیں ہوا جاسکتا۔ شبیلی کی تنقید سائنسی تو نہیں ہوتی مگر شعروادب سے محظوظ ہونے کے لیے بہت سے راستے دکھاتی ہے۔ انہوں نے فلسفیات مسائل پر جو کچھ لکھا ہے اس میں بھی غلطیاں ہیں مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی مغرب و مشرق کے علماء کے خیالات اس طرح جمع نہیں کیے تھے اور نہ ان کو اسلامی فلسفے کے نقطہ نظر سے دیکھا تھا۔ مولانا شبیلی کی زبان بڑی پر کیف نہ ہے اور نجیجن ہوتی ہے وہ اردو کے بہت بڑے مصنفوں میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کے ہر شعبے میں اپنا نقش چھوڑا ہے۔ ان کے مضمایں اور مکاتیب کے مجموعے بھی گہرے مطالعے کی چیزیں، ان سے شبیلی کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے معلومات حاصل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کی جور و ایت چلانی تھی اس وقت تک زندہ ہے اس لیے اب بھی ان کا نام بڑی حرمت سے لیا جاتا ہے۔

نشاۃ ثانیہ کے اس دور نے بہت سے مصنفوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے سب کا ذکر تفصیل سے یہاں نہیں ہو سکتا اگرچہ تخلیق ادب میں ان کا اتنا ہاتھ ہے کہ ان کا ذکر بھی نہ کرنا نامناسب ہی ہو گا۔ مولا ناذکار اللہ نے تقریباً سو کتابیں لکھیں جن میں بخشیر تاریخ اور یاضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بہت بڑے اہل علم اور اہل قلم تھے مگر ان کے اسلوب نوشیوں کوئی خصوصیت نہ تھی۔ عجمان الالک نے بہت کم لکھا ہے مگر جو کچھ لکھا ہے وہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ سید علی بگرامی سنکرتو، فارسی، عربی، انگریزی

فرنچ، اور دوسری زبانوں کے بڑے ماہر تھے انہوں نے فرانسیسی افاضل کی دو مشور کتابوں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ وہ خود ان کی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جیداً میں ایک معجزہ زہد سے پر رہ کر انہوں نے ادب کی ترقی کے بیانے بڑے تعمیری کام کیے۔ مولانا شبلی کے دوستوں میں مددی افادی تھے جنہوں نے تھوڑے سے مضمون اور خط لکھے ہیں، مگر وہ اتنے اہم ہیں کہ وہ نشر کی کسی تاریخ میں ان کو جھوٹا نہیں جاسکتا ان کا اسلوب بڑا لچک پ اور زیگن ہوتا ہے۔ ناصر علی ولہوی، دیگر اکبر آبادی اور ناصر نذر فراق بھی اُردو نشر کے بڑے اپھے لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی بہت کم تخلیق شائع ہو پائی ہیں۔

جس دور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں اردو ناول نے بھی بڑی ترقی کی تھی مولانا نذری احمد کے ناولوں کا بیان ہو چکا ہے اور ان کو پہلا ناول نگار کہا بھی جاتا ہے مگر حقیقت میں تن ناتھ سرشار اور مولانا عبد الحليم شتر نے اُردو ناولوں کو انگریزی فن ناول نگاری کی نظر سے دیکھا: ناول کو یورپ میں بھی موجودہ عہد کی پیداوار کہا جاتا ہے اور وہیں سے ہندوستان کی اور زبانوں نے اختیار کیا۔ اردو میں کہانیاں بہت سمجھی جا چکی تھیں جن میں سے کچھ کا حال اپنی اپنی جگہ پر آبھی چکا ہے مگر ایسے ناول جو حیات انسانی کی حقیقت پسندانہ عکاسی کریں اس نئے زمانے ہی میں لکھے جاسکتے تھے۔ نذری احمد کے ناول ان خایموں کے باوجود اس فن کی بہت سی خصوصیتیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں سیلی بارنا ممکن اور غیر فطری واقعات سے سخن کی کوشش کی جائی ہے اس طرح اُردو ناول کی بنیاد ۱۸۷۶ء کے آس پاس پڑھنی تھی اس کے بعد سرشار، شری، سجاد حسین، امرزادہ اور غیرہ نے اس نیو پریلائٹن محل کھدا کر دیا۔

پنڈت رتن ناتھ سرشار (۱۹۰۲ء - ۱۸۳۷ء) لکھنؤ کے ایک کشمیری بہمنیاندیں میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی تینوں زبانوں کی تعلیم حاصل کی تھی اُردو اپنی خالص شکل میں ان لی مادری زبان تھی۔ پہلے وہ ایک اسکول میں مدرس ہو گئے اور اپنے مضموم میں مختلف رسالوں میں بھیجنے لگے، پھر کچھ دنوں بعد وہ لکھنؤ کے مشور پرچے اور ہر اخبار کے مدیر بنادیے گئے اور اسی میں انہوں نے اپنی

مشہور تاب فساد آزاد مسلسل کیمی۔ وہاں سے اگ ہونے کے بعد انہوں نے الہاباد مائی کورٹ میں مترجم کی خلیت سے کام کیا ان کے بیان اور آزادی پسند مزاج نے ان کو وہاں لے گئے نہ دیا اور ۱۹۴۸ء میں وہ حیدر آباد پہنچ گئے جہاں ان کا بہت اعزاز و اکرام ہوا۔ ذوق بادہ نوشی نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا اس نے ان کو موت کے دروازے تک پہنچایا اور ۱۹۰۲ء میں ان کی زندگی ختم ہو گئی مرشاد کو شاعری سے بھی دلچسپی تھی اور لکھنؤ کے اتحاد شعرا میں شمار کیے جاتے تھے، مگر وہ اُردو نشر کے بہت بڑے اہل قلم ہونے کے باعث ہی ماریخ میں بہت بلند جگہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کی شعری تخلیقات سے نا آشنا ہیں۔ وہ بہت تیز زہن اور بے چین طبیعت کے تھے وہ کوئی کام اکدم کرنے نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے مضمومین میں کہیں کہیں ڈھیلاپن پایا جاتا ہے۔ شراب کی کثرت نے انہیں ہر چیز کی طرف سے بے پروا کر دیا تھا۔ اس کا اثر صرف ان کی زندگی ہی پر نہیں ان کی تخلیقات پر بھی ٹرا۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا مگر اس کا کچھ ہی حصہ اہم مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ تباوبوں کے ترتیبے بھی کیے ہیں مگر زیادہ تر طبع زاد تخلیق ہی کرتے تھے جن میں سے یہ مشہور ہیں فساد آزاد میرشاد، سیر کوہ سار، کامنی، بکھر دلمن، پی کھاں، کردم دھم۔ انہوں نے الف لیلی کا ترجمہ بھی کیا اور ان کو تک زوث کو خدا نے وجود ادا کرنے کے نام سے اُردو میں منتقل کیا۔

یہ یہ ہے کہ جو خصوصیت فساد آزاد کو حاصل ہوئی اور کئی ہزار صفحات کی تھا ہونے پر نہیں جس اشتیاق سے وہ پڑھی گئی ویسے شاذ ہی کوئی کتاب پڑھی گئی ہو۔ جس وقت میرشاد نے ادھر اخبار کے ایڈٹریٹر کا عہدہ قبول کیا تھا انہوں نے اپنے پرچے میں یہ داستان لکھنا شروع کی نہ انہوں نے سہت غور کر کے کسی ناول کا خاکہ تیار کیا تھا اور نہ وہ جانتے تھے کہ یہ قصہ بھیل کر کم و بیش چار ہزار صفحے گھیرے گا۔ انہوں نے لکھنؤ کی صرف اس زندگی کی تصویر کی تھی جو لکھنؤ کی نوابی کے ملنے کے بعد ایک روایت کی شکل میں زندہ تھی، وہ اس زندگی کو شروع سے آخر تک جانتے تھے اس ہر طبقے کے لوگوں سے واقف تھے، سب کی بات چیت کے دھنگ جانتے تھے اس لیے انہوں نے بڑی حقیقت پسندی سے ایسی تصویریں لکھنے دی ہیں جو اس تہذیب

کی قدر و قیمت آنکئے میں بہت مددگار ہیں مرشار پرسونیز کا اتنا گہرائی تھا کہ انہوں نے تبھی بڑی بڑی کتابوں میں اس اثر کے نشانات چھوڑے ہیں۔ فرانز آڈا کے کردار اسی طرح زندگی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں جیسی کارروں میں مٹتی ہیں لیکن ان کی تفصیل قاری کو حقیقت تک لے جاتی ہے چار حصوں میں مخفی ہوئی یہ داستان کچھ صفات میں بیان کی جاسکتی ہے مگر اس کا بہت ساختہ ایسا ہے کہ کہانی کا جزو ہوتے ہوئے بھی حدود جو ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حصہ اس میں سے بکال دیا جائے تو فساد آزاد کا سارا شعبدہ ختم ہو جائے۔ اس کو مختصر شکل میں پریم چند نے منہدی میں شائع کیا تھا مگر اصل تخلیق میں جوزبان کا مژہ ہے وہ ہندی کی عام اسالیب میں زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ بات خود مرشار کی دوسری کتاب میں جامِ مرشار اور سیر کوہ ساری ہی بڑھنے کے لائق ہیں لیکن ان کا غرض بھی یہی ہے کہ اچھے نادلوں کی طرح ان کا پلاٹ نجٹھا ہو اپنیں ہے۔

مرشار ایک بہت بڑے فنکار اور زندگی کے بہت بڑے رمزشناس تھے مگر ان کا سحر یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کہانی میں ابھرنے نہیں دیتے اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس تہذیب کی کتنی خصوصیات کو پسند کرتے تھے اور نَن کے ملنے کا انھیں ذکر نہ تھا۔ اتنا فضور معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرانے زمانگ درخواست اور زندگی کا استقبال کرنا چاہتے تھے زبان پر اتنی قدرت رکھنے والے اور وہ میں بہت کم ابل قلم ہوئے ہیں۔

اس عہد کے دوسرے زبردست نادل نگار مولانا عبد الحليم شریر ۱۹۲۶ء میں اپنے ہیں وہ کھنڈوں میں پیدا ہوئے تھے اور ابھی صرف نوسال کے تھے کہ اپنے کہانی کے ساتھ ملکتہ چلے گئے ان کے گھروالے اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ کے یہاں میا۔ بڑھ میں بہت تھے شتر نے وہیں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھوڑی بہت انگریزی بھی سیکھ لی تھی اور وہیں ان کو شاعری کرنے اور مضمون لکھنے کا بھی شوق ہو گیا تھا تقریباً بیس سال کی عمر میں وہ کھنڈوآئے اور یہاں بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اس وقت اور در آجائے کا بڑا ذریعہ تھا شتر نے بھی اپنے ادبی مضمون میں اسی میں لکھنے اور تھوڑی ہی مدت ہیں دور دوسرے ان کا نام پھیل گیا۔ شروع ہی سے وہ ایک طرح کی شاعر از نشر لکھتے تھے۔ یہ اسلوب اپنے دو کے لیے ایک نیا پا

رکھتا تھا اس یے جلد ہی لوگوں کی ان پر نظر پڑنے لگی۔ تھوڑے عرصے میں انھوں نے اس رنگ کو اور رواں بنالیا اور عام طور سے اُردو کے اہل قلم اس اسلوب میں لکھنے لگے ۱۸۸۷ء میں انھوں نے اپنا مشہور رسالہ دلگدراز، نکانہ شروع کیا اور اپنے ناولوں کے ابواب مسلسل اس میں لکھنے لگے۔ کچھ ہی دن میں یہ ایک مقبول رسالہ بن گیا اور شرمنے اپنے بہت سے ناول اور رسالہ مضمون میں اسی میں شائع یکے شرمنے کو سلانوں کی تاریخ سے سمجھ گھر انگاؤ تھا اور وہ سمجھی کمی تاریخی کتابیں سمجھی لکھتے رہتے تھے ۱۸۹۶ء میں وہ حیدر آباد اور وہیں سے پندرہ مہینے کے لیے ایک رُمیں کے ساتھ آنگستان گئے۔ وہاں انھوں نے فرانسیسی سیکھی حیدر آباد والپس آئے اور کئی سال تک حیدر آباد اور کھنڈ کا چکر لگلتے رہے۔ بیان نک کی ۱۹۰۳ء میں مستقل انگلستان پہنچے آئے اور تادم آخ ریہیں رہے۔

مولانا شرمنے تقریباً پیشہ سال کی عمر میں اتنا لکھا کہ بہت کم ادیب ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انھوں نے نوا یہے بفت روزہ اور ماہنہ پرچے نکالے جن میں کچھ کم زندگی کے ذکر ہے۔ انھوں نے چھوٹی بڑی ایک سود و کتابیں لکھیں جن میں سے سب سے زیادہ ناول ہی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے مضمون میں کے آٹھ حصے الگ شائع ہوئے ہیں جن میں ادبی، سماجی، ثقافتی، فلسفیاء اور تحریکی موضوعات پر مضمون جمع کردیے ہیں۔

شرمنے کے زیادہ تر ناول مسلمانوں کی قدیم زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مسلمانوں کی شجاعت، فراخ دلی اور مذہبی احکام کی تصویریں پروگنڈہ کی نظر سے پیش کیا گیا ہے اس طرح ان کی تنگ نظری جھلک رہی ہے۔ شرمنے کے زیادہ تر ناول ایک ہی طرح کے اور ایک ہی اسلوب میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ سمجھی کمی تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک ناول کے گرد دوسرے میں رکھ دیے جائیں تو کوئی بڑا فرق نہ ہوگا۔ نوجوان ناول بھج رہ کارروائی مزاج رکھنے والوں کے لیے ان کے ملکے چھلکنے ناول میں لذت کا بڑا سامان مل سکتا ہے۔ مگر ناول کو زندگی کے بنیادی نسب اتعین اور بڑی کشمکشوں کی مصوری کرنے والی ادبی مشکل ماننے والوں کو ان کے بیان بہت کمی ملے گی۔ ان کے گرد ارڈیلے ان کا پلات سپاٹ اور ان کا مقصد معنوی ہوتا ہے ان کا سب سے

مشہور ناول فردوس بس بریں ہے۔ اس کے علاوہ ایام عرب، حسن کا داکو، منصور موسیٰ ناول بغداد مشہور ہیں انہوں نے بنکم خذر چڑھی کے ناول درگیش نندی کا ترجمہ بھی اردو میں کیا تھا۔ شرمنے کچھ ناٹک بھی مکھے ہیں مگر شہیدوں کے سوا ان کو کسی میں کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کچھ نظمیں بھی لکھیں مگر لوگ ان کو بھول چکے ہیں ان سب باتوں کو ملحوظ خاطر کر کر دیکھیا جائے تو معلوم ہو گا کہ شرمنے ایک سہموی اہل قلم تھے گو ان کی تخلیقات کا تصور اہی حصہ وقت کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ ساتھ ہی وہ لکھنؤ کے بڑے بااثر اور محترم لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور جب تک زندہ رہے یہاں کی ادبی چیل ہپل کا مرکز بنے رہے۔

یہ بات گزشتہ باب میں کہی جا چکی ہے کہ اس وقت اردو میں بہت سے اخبار و رسائیں نکل رہے تھے ان کی بھی ادبی اہمیت ہے۔ ۱۸۷۴ء میں اردو کا مشہور مزادیہ ہفتہ وار اودھ پنج نکلا جس کے پہلے مدیر سجاد حسین تھے۔ تھوڑے ہی زمانے میں اس کے چاروں طرف بہت اچھے اچھے لکھنے والوں کا ایک ایسا حلقة بن گیا جو شاید ہی کسی پرچھ کو ملا ہو سیاسی اعتبار سے اودھ پنج بڑا ترقی پسند تھا اور نہیں ہنسی میں وہ انگریزی راج کے تشدد اور اقتصادی لوث مار پر شدید چوٹیں کرتا تھا، نماگھر میں کے آرڈر تو کو اپناتا اور قوم پرستی کی تحریکوں کا ساتھ دیتا تھا۔ ادب کے دائرے میں البتہ وہ کی طرح کی تجدید پسندی کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ جب مولانا حاتی نے نئی شاعری کا صور رکھنے کا لٹو اودھ پنج ان کے پیچے پڑا گیا۔ قومی اور بین الاقوامی مسائل میں سے شاذ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو گا جس پر اس وقت قومی اتحاد کی نظر سے طراحت میں ڈوب لے ہوئے مضمومین نہ لکھے گئے ہوں۔ اس کی زبان لکھنؤ کی بول چال کی زبان تھی اور اودھ پنج کے سب مضمون مگار زبان کے استعمال میں کامل تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اودھ پنج کے ذریعے اردو میں ظریفانہ ادب کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا اور یہ بات تیینی طور سے کہی جاسکتی ہے کہ در جمل اس وقت سے اردو میں لیے نشری ادب کی روایت قائم ہوئی ہے۔ اودھ پنج کے مضمون مگاروں میں یہ بہت مشہور ہیں۔ پنڈت ترکھیون ناتھ تھمر، مرزا مچھوبیگ، تم ظریف، نواب سید محمد ابراہیم مشی جوالا پرشاد برحق، مشی احمد علی، اکبرالہ آبادی، پنڈت رتن ناتھ سرشار، پنڈت

بزح نرائی چکبست ان میں سے ہر ایک نے ادبی دنیا میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کسی نہ کسی سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اودھ شیخ کے ایڈیر فاشی سجاد حسین (۱۹۱۵ء - ۱۸۵۶ء) لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی اندر میجیٹ سک انگریزی بھی پڑھی کچھ دنوں تک فوجیوں کو اردو پڑھانے کا کام کرتے رہے، مگر اس میں جی نہ گا اور (۱۸۷۸ء) میں انہوں نے اودھ شیخ نکالا اور تھوڑے سی دنوں میں یہ پڑھنڈوستان کے مشہور پرچوں میں شمار ہوتے گا۔ سجاد حسین (۱۸۷۸ء - ۱۹۴۰ء) میں کا انگریز میں شریک ہوئے اور ہمیشہ اس کے نصب العین کی اشاعت پنے مژاہیہ اخبار میں کرتے رہے۔ مظاہین کے مساواں انہوں نے کھٹی ناول بھی لکھے جن میں حاجی بغلوں کا یا پلٹ اور امتن الذی مشهور ہیں۔ یہ سب کے سب طرافت سے بہریز ہیں ان میں حاجی بغلوں سب سے اہم ہے اور سرشار کے فائدہ آزاد سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے بھی لکھنؤی تہذیب کو مفعلاً خیز پہلوؤں کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ ان کی زبان لکھنؤ کی بول چال کی زبان ہے اور معمولی کہاوتیں اس قوے اور محاورے ایسے موزوں طریقے سے ان کے جلوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ می سادی باتوں میں مزا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اُردو کے مژاہیہ شری ادب کی تاریخ مکھی جائے گی تو اس کی شروعات کرنے والوں میں سجاد حسین کو بھی ایک اونچی جگہ ملے گی۔ اس وقت سمجھی لکھنے والے کوئی خاص سماجی نظریہ نہیں رکھتے تھے، تنگ کسی نہ کسی صورت سے فرد کی خایروں کو دکھا کر وہ اصلاح کی طرف اشارہ ضرور کرتے تھے وہ بہت نیاں طور کر کسی نئے شعور کا پتہ نہیں دیتے کھر بھی سرشار اور سجاد حسین دونوں کے بیان اس کشمکش کی تصویریں ملتی ہیں جو نئے اور پرانے کے درمیان جاری تھیں۔

اس عہد کے ایک اور عظیم ناول بھاگر مرزا محمد بادی رسوائی (۱۹۳۱ء - ۱۸۵۹ء) ہیں یہ صرف ایک اتفاقی بات تھی کہ انہوں نے جس ایک احاث دل سے چار چھوٹوں لکھ دیے ہی ان کو اُردو ادب کی تاریخ میں متاز قابل فخر جگہ دلانے کا وسیلہ بنے نہیں تو وہ جتنے بڑے صاحب علم و فضل تھے و یہی سیکڑوں سال میں دو ایک ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے کھٹی علوم میں بغیر کسی تعلیم یا مدد

کے اپنی محنت سے مہارت حاصل کی تھی منطق و فلسفہ سے انھیں خاص رغبت تھی۔ ریاضی اور بخوبی کے وہ پتے شید اتھے۔ مشرق و مغرب کے سبھی علوم سے وہ آشنا تھے اور ان کے عین مطالعے کا شروع یہ تھا کہ وہ سبھی مسئللوں پر مستند بات کہہ سکتے تھے۔ مذکوب سے متعلق علوم کو انھوں نے گھری نظر سے پڑھا تھا اور بہت سی مذہبی کتب فلسفیات نگاہ سے لکھیں جو اب تک شائع نہیں ہو سکی ہیں۔

مرزا رسول نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور تھوڑی ہی مدت میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ انگریزی میں انٹرنس تک پہنچ کر انگلینڈ کا امتحان پاس کیا اور کچھ دن ملازمت بھی کی۔ اسی زمانے میں ان کو کمیسری سے دکپسی پیدا ہو گئی، اس لیے ملازمت چھوڑ دی اور گھر کا سب کچھ پیج کر ولایت سے سانسی آلات منگائے۔ نی اے کا امتحان بھی سراپیوٹ پاس کر لیا اور امریکہ سے ایک لی ایچ، ڈی کی درگری بھی منگائی۔ کچھ دنوں تک تھنٹوں کے اسکو لوں اور کابجھوں میں پڑھلتے بھی رہے مگر ان کا سارا وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا تھا۔ وہ بڑے اچھے شاعر تھے اور فنِ موسیقی سے بھی خوب واقف تھے۔ انھوں نے منطق، فلسفہ، مذہبیات وغیرہ پر بہت سی تصنیفات کیں مگر ادنی اعتبار سے ان کی کچھ نظریں اور کچھ نادل ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں مرقع یا الخیون، اور ششوی امید و بیم، مشہور ہیں اور نادلوں میں امراؤ جان، شریف زادہ، اور ذات تشریف، سب سے ممتاز ہیں۔ انھوں نے اپنے آخری دور زندگی میں حیدر آباد میں ملازمت کر لی تھی اور وہاں بہت سی تھابوں کے ترجیحے بھی کیے مگر ان کو ان کے علم و فضل نے ادب میں جگہ نہیں دلائی بلکہ ان کے نادلوں نے دلا دیئے۔

‘شریف زادہ’ نامی نادل میں انھوں نے ایک ایسے شخص کی رو رواجیات لکھی ہے جو بالکل انھیں کے مزاج سے ماثلت رکھتا ہے، بہت سے لوگوں کا خال ہے کہ یہ خود ان کی آپ بیتی ہے۔ یہ کہانی ایسے آسان اور لچک اندائز سے لکھی گئی ہے کہ اس میں کہیں کسی طرح کا تصنیع نہیں دکھائی دیتا ہے۔ ان کے دوسرے نادل ذات تشریف میں اور پچھے طبقے کے لوگوں کے حالات زندگی اس طرح لکھے گئے ہیں کہ غدر کے بعد اودھ کی بدحالی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ان کی سب سے عمدہ تصنیف ‘امراؤ جان ادا’

ہے جس میں ایک طوائف کی سگرذشت اسی کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ اس وقت تک لوگ اس موضوع کو اپناتے ڈرتے تھے، اور ادب کے عالیشان و پاکیزہ محل میں سے لانے میں انھیں تماں ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ سائنسی عہد میں زندگی کے بنانے اور بگاڑنے میں بمعنی فیضان کاروپ اختیار کر حکی تھی۔ رتوانے ایک طوائف کی زبان سے وہ سب با میں کہلوائیں جو اس کو زندگی کے ایک خاص بھرمان میں بتلا کر دیتی ہیں ایسا سلوم ہوتا ہے کہ رسوائی نظر میں سماج سدھار کا کوئی واضح نقشہ نہ تھا مگر جس لکھنؤ کو وہ جانتے تھے اس کی زندگی کے سب پہلوؤں کو پچھے فن کار کی طرح ہمارے سامنے لاکھڑا کیا ہے اور یہ سب کچھ ایسے سہل طریقے سے ہو جاتا ہے کہ ہم نہ صرف ان تصویروں میں کھو جاتے ہیں بلکہ ہمیں خود یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس مصوری سے رسوائی کام لینا چاہتے ہیں۔ اس بات پر سہی نقاد متفق ہیں کہ حقیقت پندی کے اعتبار سے یہ اُردو کے اہم ناولوں میں سے ہے ایک طوائف کی تصویر کے پچھے ہر طبقے کے لوگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور وہ لکھنؤ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جو انیسویں صدی کے او اخیر میں دم توڑ رہا تھا۔ اس وقت کی تہذیب، ادبی زندگی، سماجی اور زندہ بی حالت دیباںتوں کی معاشی بدحالی اور روٹ مار کے علاوہ جذبہ محبت کے بے نظیر نقشے بھی اس ناول میں ملتے ہیں۔ نفیاٹی نظر سے یہ ایک عورت کے اندر طوائف اور گھر یا عورت کا وہ تنازع ہے جو فن کار کو فیضان دیتا ہے۔ اُخڑ میں رتوانے ایک واعظاً اور مبلغ کی شکل اختیار کر لی اور وہی اس ناول کا کمزور حصہ ہے۔ ویسے یہ پورا ناول کسی مخصوص ہمارت کے حامل مصور کے شرپارے کا سحر رکھتا ہے جس میں زندگی اپنی بنتے تابی و احتراپ کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہے۔ رتوانے ایک منظوم ڈراما بھی لکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ یورپی ڈریوں کی طرح اُردو میں تھی منظوم ڈرامے رانچ کر سکیں گے۔ مگر اس میں انھیں زیادہ کامیابی میسر نہیں ہوئی۔ انہوں نے لیلی مجنوں کی مشورہ داستان عشق کو نامک کی شکل دی اس لیے اس میں رطف تھریخ ضرورتی ہے مگر اُردو میں تھری ڈراموں کی بتناخیر مقدم کیا گیا اتنا اس کا نہ ہو سکا۔

اس وقت دوسرے ناول نگاروں اور افاضہ نویسیوں میں مولانا راشد المختری کا

بھی بلند مقام ہے جنہوں نے ڈاکٹر ندیر احمد کی بتائی ہوئی راہ کی پروپری کو ہی مطلع نظر مانا اور نسوانی زندگی کی اصلاح کو اپنا مقصود بنانے کے بہت سی دردانیجیز کہانیاں لکھیں۔ ان کے بیان رنج و الم کا اتنا ذکر ہوتا تھا کہ ان کو صورِ عالم کہا جانے لگا تھا۔ ان کی نگاہ میں کوئی بھی خاص فلسفیاتِ گھبراٹی نہ تھی مگر وہ زندگی کے معنوی حادثات کا تذکرہ اس طرح کرتے تھے جس سے دردمندی کی ایک غیر معمولی فضایاں ہو جائی تھیں ان کی زبانِ دل کی خالص اور پرکیف بول چال کی ایمان تھی اور مسلمان متوسط طبقے کے کرب اور گھر یا زندگی کی آوازیش کو بڑی واقفیت کے ساتھ پیش کر کے، وہ ایک ہر دل عزیز اہل قلم بن گئے تھے۔

راشد النیحری نے اس مقصد سے دو رسائل بھی جاری کیے تھے جن میں زیادہ رخواتین ہی کے بارے میں مضمون اور کہانیاں ہوتی تھیں۔ ان دو رچوں میں عصمت بہت مشہور ہے، جو ان کے انتقال کے بعد بھی نکلنے والے، انہوں نے کچھ تاریخی ناول بھی لکھے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے مجموعے بھی تیار کیے اور بہت سے ناول لکھے ہیں۔ جو چھوٹی کہانیوں کے مجموعے بھی تیار کیے اور بہت سے ناول لکھے ہیں۔ جن میں سے ‘صبح زندگی’، ‘شام زندگی’، ‘شب زندگی’، ماہِ عجم، نوبتِ حج روزہ، منازل اساترہ، عروکس کر بلا بہت مشہور ہیں اور ان کے کئی ایڈنٹیشن چھپ چکے ہیں۔ اب بھی متوسط طبقے کی مسلمان خواتین ان کے ناولوں کو بڑے شوق سے پڑھتی ہیں۔ اس مختصر تاریخ میں دوسرے ناول نگاروں کا تذکرہ نہیں کیا جاسکتا۔ اہر ان کے نام دیے جاتے ہیں، جیسے محمد علی طیب، جوالا بر شاد برق، عباس حسین ہشتن شاد عظیم آبادی، قاری سفرزاد حسین، مرتضیٰ محمد سعید۔ پنڈت کشن پرشاد کول وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک آدھ ناول ایسے لکھے ہیں جن کی ادبی اہمیت ہے اور جن کو فتنی اعتبار سے بلند مقام دیا جاسکتا ہے، مگر اس جگہ پر ان کے تذکرے کا موقع نہیں ہے۔

جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے اور دنامک کا آغاز انیسویں صدی کے وسط میں امامت کی ‘اندر سبھا’ کے ساتھ ہو چکا تھا مگر کچھ زمانے تک نامک نہیں لکھے گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اکبر کے نام سے ایک ڈراما لکھا جو مکمل نہ ہو سکا۔ مگر ہیسویں صدی کے آخر میں جب مہدستان میں تجارت کا شوق بڑھا اور تفریح کے ذریعے

نفع اندوزی کا خیال پیدا ہوا تو بیوی کے کچھ پارسیوں نے انگریزی آئیش معنے سے متاثر ہو کر نئے طرز کی نامکن لپتیاں بنائیں۔ ہندوستان میں نوشنکی، رہس اور پیلاکی روایات چل رہی تھیں جو ایک بجھدی ہوئی صورت میں قدیم سنسکرت نامکوں اور آئیجوں کی نقلیں تھیں۔ اب جو نئے آئیش بنے اور نامکوں کی نئی منڈیاں قائم ہوئیں، وہ ملک کی روایات سے نہیں یورپ کے خیالات سے متاثر تھیں۔ یہ بات صاف ہے کہ نامک اور آئیش دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہیں یا اس جو آئیش بنادہ صرف روپیہ کانے کے لیے تھا اور اس کی جزوی ملک کی زمینیں بیس دوڑتک ہصلی ہوئی نہیں تھیں، اس لیے اس وقت جو نامک لمحے گئے وہ یا تو بدیسی نامکوں اور داتاںوں پر مبنی تھے یا ہندوستانی زندگی کا بیان کرتے تھے تو بڑے معمولی طریقے سے۔ ان نامک کپنیوں میں رونق بنا رہی، حسینی میان ظریف، محمد عبداللہ، مزا نظیر بیگ، طالب بنا رہی، احسن بختوی، پنڈت بنتا ب اور غلام علی دیوانہ، وغیرہ نے ڈرامے لکھے۔ ڈنڈ پرشاد طالب نے انگریزی کے کھٹی نامکوں کو اردو میں اپنالیا تھا۔ احسن بختوی نے شکریہ کے ڈراموں کو اردو نامک کی شکل میں ڈھال لیا کہیں کہیں انہوں نے ترجیح کی کوشش بھی کی ہے۔ مگر بیشتر وہ نامک کی کہانی کو ہندوستانی بناؤ کر لکھ دیتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں جان اور کیف کا اثر ہے۔ پنڈت نرائن پرشاد بنتا ب اور ہندوستانی مدرس سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو ٹھکو میں چلا لیا ہے اور احسن اور طالب کی طرح انہوں نے بھی اردو نامک کو بہت اور پڑھایا ہے۔

۱۹۲۱ء تک جو نامک لمحے گئے تھے ان میں ادب کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی تھی، وہ مخفی آئیش پر تفریح کی غرض پوری کرتے تھے۔ نامکوں میں کوئی سماجی مسئلہ شاذ ہی جگہ پا تا تھا۔ حب وطن یا اسی طرح کے اخلاقی مسائل کی طرف بہت کم دھیان دیا جاتا تھا۔ بحثت کے بھونڈے اور بھندے کھیل کیلے جاتے تھے اور اگر کبھی اخلاقی مسائل آجاتے تھے تو انہیں بڑے مضبوطی اور عام طریقے سے ملپیش کیا جاتا تھا۔ گانوں پر بہت زور دیا جاتا تھا اور آئیش کے ترقی پذیرہ ہونے کے سبب بہت سے منظر خیرفہری صورت میں دکھانے جاتے تھے۔ مگر دھیرے دھیرے الفریڈ اور رفائل کپنیوں نے اچھے آئیش بنائے اور اسی دقت نامک کے اچھے لمحے دا لے بھی پیدا ہوئے۔

الفرید نامک کمپنی میں آغا حشر کا شیئری نامی ایک اداکار تھے۔ انہوں نے نامک لکھنا شروع کیا اور تھوڑے سی عرصے میں اردو کے سب سے اچھے ڈرامہ نگار تسلیم کیے جانے لگے۔ انہوں نے بھی شپریک ڈراموں کو مندوستی نیشن پریش کیا اور سریان کی داستانوں کو نامک کی شکل دی۔ وہ اردو فارسی اور انگریزی کے علاوہ ہندی بھی خوب جانتے تھے۔ اس لیے وہ ہندی نفظ اور ہندی گھیت بھی بڑے موزوں طریقے سے اپنے ناٹکوں میں لاتے تھے۔ ان کے کچھ نامک اردو میں ہیں، کچھ ہندی میں اور کچھ ملی جملی زبان میں۔ انہوں نے سماجی مسائل کو بھی ناٹکوں میں جگہ دی۔ ان کے مشہور ناٹکوں میں سخیدخون، ترزی، حور، یہودی کی روزگار، خوبصورت بلا، آنکھ کا ذہن، عورت کا پیار، سور دا اس۔ بلو منگل، شرون کمار، اور سیتا بن بائیک زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے نامک اب تک بڑے اشتیاق سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک نامک کار کی حیثیت سے انہوں نے ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی جس پر بعد میں اور مصنفوں آگے بڑھے۔

اشیع کے علاوہ کچھ نامک صرف ادب کی نگاہ سے سمجھے گئے ہیں۔ ان میں شریر لکھنؤی، عبدالماجد دریابادی، پنڈت کیمی وغیرہ کے نامک مشہور ہیں۔ امراؤ علی اور کرشن چنڈ ریتیانی سیاسی مسائل پر ڈرائی سمجھے۔ آغا حشر کے شاگردوں میں حکیم احمد شجاع کی تخلیقیں نامک کنپیوں میں بہت مقبول ثابت ہوئیں، داکٹر عابد حسین، پروفیسر مجیب، داکٹر اشتیاق حسین، محمد عمر، نور آنی، آرزو لکھنؤی وغیرہ نے بھی اچھے ناٹکوں کی تخلیق کی۔ امتیاز علی تाज نے اپنا بہترین ڈرامہ انارکلی، بھی ادبی نظر سے لکھا اور بہت سے تقاضا اس کو اردو کا سب سے اچھا نامک سمجھتے ہیں۔ تقریباً اچھیں سال سے اردو میں ایک ایکٹ کے ناٹکوں کا رواج بھی ہو گیا ہے اور اس کے لمحے والے بہت ہیں۔ ایک ایکٹ کے ناٹکوں میں زندگی کے سبھی مسائل کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے جس طرح کہانیوں میں۔ ان میں سے کچھ نامک ریڈیو کے لیے لکھے گئے ہیں اور کچھ صرف ادبی روپ رکھتے ہیں۔ اشیع پر دکھانے کے لیے ان میں بڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔

سعادت حسن منتھو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، اوپندر زمان تھراشکت، خواجہ احمد عباس نے ایسے نامک لکھے ہیں جن میں طبقاتی استھصال، سماجی ناصلصانی، بھوک

بے میل شادی، سرمایہ اور محنت کی کشکاش، جگ آزادی اور زندگی کے لاتعداد مسائل بڑے حسن اور زنگنا نہ مہارت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ مگر ان کا تذکرہ ترقی پسند مصنفین کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔

اس عصر میں رسائل و جرأہ کا چرچا بہت رڑھ رہا تھا اور ان کا معیار بھی بلند ہوا رہا تھا۔ سیاسی مباحثت کے علاوہ ادبی، سماجی، تاریخی، سائنسی اور معاشی مسائل پر مضا میں اس عصر کی ضروریات کے مطابق ہوتے تھے۔ برستید کے زمانے سے یہ سلسلہ چلاتھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد حسن نظامی، مولانا محمد علی، ظفر علی خاں وغیرہ ایسے صحافی ہیں جن کا ادب میں بڑا بلند مقام ہے۔ مولانا آزاد نے (۱۹۵۸ء بـ ۱۹۸۲ء) الہلال اور البلاغ کے نام سے جود و اخبار نکالے انھوں نے ایک نئے طرز کی اخبار نویسی کو ختم دیا۔ اسی طرح مولانا محمد علی نے انگریزی اور اردو میں جو اخبار نکالے ان کا ذکر بھی ادب کی تاریخ میں ضرور کیا جائے گا۔

مولانا آزاد کی نشر عربی و فارسی نظفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں صنائع و تشبیہات کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ اس میں شاعرانہ رنگ ہوتا ہے اور نگینی پائی جاتی ہے اور اس سے ایسے زور اور ایسی قوت کا نہور ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے بہاؤ میں بہ جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ختنے پڑے عالم تھے اتنے ہی اچھے خطیب و اہل قلم بھی تھے۔ انھوں نے کئی کتابیں اردو میں لکھی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی پہلے کی تصنیفات میں تذکرہ نامی کتاب بہت مشہور ہے، جس میں انھوں نے اپنے اسلاف کا حال پڑے دلچسپ طریقے سے لکھا ہے قرآن شریف کا جو تفسیری ترجمہ انھوں نے کیا ہے، ان کے دیسے علم کا منظر کہا جا سکتا ہے اور جو شخص بھی اسلامی خیال اور علوم کا مطالعہ کرنا چاہے گا اس کو اس کتاب سے بڑی مدد ملے گی۔ ۱۹۳۷ء کے ایام ایسی میں انھوں نے کچھ خط اپنے ایک دوست کے نام لکھے اور لکھ کر رکھتے گئے، وہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اردو کے قاریوں نے اردو نشنگاری کی وہ جملک دیکھی جوان کی ابتدائی تصنیفات میں پائی جاتی تھی دیکھا۔ نے انھیں اپنا لیا تھا مگر اس سے وقت نکال کر جب کچھ لکھ دیتے تھے تو وہ ادب پاڑ

بن جاتا تھا۔

مولانا محمد علی شاعر بھی تھے اور ادیب بھی، مگر انہوں نے خاص طور سے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی ہے۔ ان کے مظاہر و مکاتب کے کمی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں ہمیں اپنی نشر اور اچھا علم دونوں ملتے ہیں۔ اسی طرح نظر علی خان نے بھی نظر و نظر دونوں میں بہت کچھ لکھا ہے اور نشر میں خاص کر انگریزی کتابوں کے ان کے ترجمے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔

خواجہ حسن نظامی (ص ۱۹۵۰ء - ۱۸۴۰ء) دہلی کے مشہور صوفی تھے وہ پکپن سے ہی صوفیانہ، مذہبی اور ادبی مسائل پر بحث رہے تھے اور وفات کے وقت تک چھوٹی بڑی سو سے اور کتاب میں شائع کر کے تھے جن میں ہر طرح کے مظاہر ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں بڑی تفصیل سے اپنی زندگی کے بہت سے دلچسپ اور اہم واقعات لکھے ہیں۔ ان کی کتابوں میں حرم نامہ، کرشن بیتی، سیارہ دل، اور بارہ حصوں میں مادل کے انداز میں غدر کے افسانے بہت مشہور ہیں۔ ان کی زبان بہت آسان پر کیف اور بول چال کے دھنگ کی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جلوں میں بڑی بڑی باتیں کہنا انھیں خوب آتا ہے، بندی نفطون کا استعمال بڑے موزوں طریقے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے بندی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا جسے ہما تما گاندھی نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ انہوں نے بہت سے اخبار و رسائل لکھے جن میں بشیر انھیں کے مظاہر میں ہوتے تھے مسلمانوں کے ایک فرقے میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نظام الدین اولیا کی نسل میں محسوب ہوتے ہیں۔

بیوس صدی کی ابتداء میں نادوں کے علاوہ چھوٹی کہانیاں بھی لکھی جانے لگی تھیں۔ سر عبد القادر نے لاہور سے مخزن، نامی ایک رسالہ بھیں کالا تھا جس میں کبھی کبھی بایسی کہانیوں کے ترجمے بھی شائع ہوتے تھے۔ لان پور سے زمانہ نکلتا تھا اس میں بھی کہانیاں چھپتی تھیں۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ ہپلی کہانی کب تکمیلی، مگر انھیں کے بقول اتنا کہا جاسکتا ہے کہ ^{۱۹}۷۰ء کے آس پاس پریم چند نے زمانہ، میں اپنا افسانہ دنیا کا سب سے انمول ہیں، لکھا۔ پریم چند کا ذکر اسکے مابین میں کیا ہے۔ یہاں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اس وقت کہانیاں لکھی جانے لگنے تھیں۔

اور خاص کریا تو وہ ترجمے ہوتے تھے یا جمیت و روان سے بھری ہوئی کوئی داتاں لکھنے والوں کا کوئی سماجی نقطہ نظر نہ تھا وہ صرف لمحپی پر توجہ کرتے تھے۔ ایسے لکھنے والوں میں سجاد حیدر ملک، نیاز فتحوری اور سلطان حیدر تجوش کے نام یہے جاسکتے ہیں۔ یلدزم نے ترکی زبان سے نئی ناولوں دراموں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو کے ٹریننگز والوں کو ایک نئے زمگ سے روشناس کیا ان کی تخلیقات زیرِ ثالث باقیزہ جلال الدین خوازم شاہ، خیاتان اور حکایات و احسانات مشهور ہیں ان کی شربت نگین اور معنی خیز ہوتی ہے وہ سماجی مسائل کے بدلے جذبات کو پیش کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں طنز و مزاح کی معمولی سی لہر دوڑی ہوئی ہوتی ہے اس یہے وہ قادری کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ اردو ادب کا رومانی عہد تھا جس میں ادیب نئی سنتوں میں بڑھ رہے تھے مگر ان کے سامنے کوئی بڑا آدراش نہ تھا۔ ان کے خیالات میں جدت ہوتی تھی اور اسلوب میں بھی یہی محمد بدل کریا اسی شور کا عہد بن گیا جو کل تذکرہ آگے آئے گا۔

نیاز فتحوری (۱۹۶۶ء - ۱۹۸۸ء) شروع میں اسی زمگ کے لکھنے والوں میں تھے مگر بعد میں مسائل کے پیچیدہ ہو جانے کے باعث ان کا نقطہ نظر پول گیا ہے اور وہ نئی بیداری سے متاثر ہو کر نئی باتوں کا خیر مقدم کرنے پر تیار ہو گئے۔ مگر جن مظاہر میں نے ان کو اردو ادب کی تاریخ میں جگہ دلانی ہے وہ ان کے عالم شباب کے لکھنے ہوئے ہیں، جیسے ایک شاعر کا انعام، شہاب کی سرگردش، نگارستان اور جاگستان۔ نیاز فتحوری ایک بڑے عالم اور تیز رفتاری سے لکھنے والے مصنف تھے وہ عربی، فارسی کے اچھے عالم تھے۔ انگریزی اور سندھی زبان سے بھی خوب دافت تھے۔ ۱۹۲۲ء میں اپنے ایک ماہنامے نگار کا اجر اکیا اور اپنی زندگی بھر بڑے حوصلے سے کا لئے رہے۔ جس نے اردو کے بہت سے ادیبوں کو اپنی آزادی خیال اور عقلیت پسندی سے بہت متاثر کیا۔ وہ مندوب کو عقل کی کسوٹی پر کستے اور بڑے مدلل طریقہ سے اپنے خیالات کو پیش کرتے۔ اس میں ان کی شدید مخالفت سمجھی ہوئی مگر وہ اپنے خیالوں کو ظاہر کرنے میں کبھی تامل نہیں کرتے تھے۔ نیاز کو ترقی پسند نہیں کہا جاسکتا مگر وہ کچھ اپنی آزادی خیال کے باعث قدامت پسندوں سے الگ سمجھے جاتے تھے۔

نیاز نے ناول، ناٹک، کہانیاں، تنقید، تاریخ سمجھی طرح کی تخلیقات کی ہیں۔ ان کی کہانیاں زیادہ تر نگین، رومانی اور لوچپ مہوتی ہیں جن میں سماجی پس منظمه

نہ رکھ کر وہ محض جذبات کا تجزیہ کرتے تھے۔ بعد میں وہ زیادہ تر تنقیدی مضامین لکھتے تھے جن میں جایاں کے اعتبار سے وہ بڑے جذباتی اور پُرانی طریقے سے ادب کی خصوصیات پیش کرتے تھے۔ نیاز کی زبان شروع میں عربی، فارسی نظفوں اور جملوں سے بہت بوجھل ہوا کرتی تھی، اس میں بڑا جوش اور زور موتا تھا، مگر بعد کے مضامین میں ایک طرح کی آسانی پیدا ہو گئی تھی، پھر بھی اس کی زیکری میں زیادہ کمی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ہندی اور خاص کر برازج بجا شا کے اچھے اچھے دہیوں کو تشریحی نوٹ کے ساتھ جذبات بجا شا کے نام سے شائع کیا تھا۔

حالی آزاد اور سر سید کے بعد سے اردو میں ادبی تنقید کا عام رواج ہو گیا ہے نقادوں میں کھٹی طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف تحقیقاتی انداز پر پرانی کتابوں اور مضامین پر تبصرے لکھتے ہیں اور ان کو لمبے لمبے مقدمے لکھ کر شائع کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حالی کے راستے پر چل کے ادب کی خصوصیات اور خامیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ادب اور شاعری میں صرف حسن کی تلاش کرتے ہیں اور حسن کا جواز تسلیم کرتے ہیں اس کو تعمیری طریقے سے لکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف قواعد اور الفاظ کے ٹھیک معنی وغیرہ سے کام رکھتے ہیں۔ ان سب نقادوں کی تعداد بہت ہے اور سب کا ذکر نامکن ہے پھر بھی کچھ مشور لکھنے والوں کے نام اور کام پر نگاہ رکھنا عصر حاضر کی ادبی ترقی کے سمجھنے میں مددگار ہو گا۔ اس باب میں جن کا ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کا نقطہ نظر سماجی تجزیے پر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دھنگ سے شعرا کی سیرت ان کے یومِ ذات، ان کے چھوٹے چھوٹے حالات، ان کی تصوفیوں کی تعداد اور ان کے دوسرا دویجوں سے تعلق پر زور دیتے ہیں۔ یہ کام بھی کسی ادب کی تاریخ لکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر ظاہر ہے کہ اسے کافی نہیں کہا جاسکتا۔ یہونکہ جب تک زندگی اور ادب کے سماجی اور سیاسی رشتے کو نہ دیکھا جائے اس کے ارتقا کی تاریخ پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکتی جن مقادوں نے شعوری طور پر یہ نقطہ نظر اپانے کی کوشش کی ان کا ذکر آخری باب میں ہو گا یہاں صرف انہیں کا ذکر کیا جائے گا جو قبیلہ وجہ دید کے مابین ایک کمزی

بن گئے ہیں یا الاشموری طور سے اس روایت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں جو حاتی نے چلائی تھی۔

مولانا عبد الحق، مولانا سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، لالہ شری رام حافظ محمد شیرازی، پنڈت کیفی، سید احمد دہلوی، محمد حسین ادیب، نصیر حسین خیال عندیب شادابی، سید سعید حسن رضوی ادیب، رشید احمد صدقی، داکٹر زور، نصیر الدین ہاشمی، عبد القادر سرداری اور داکٹر عبد اللہ ان نقادوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے عصر حاضر میں اردو ادب کو مقبول اور وسیع بنانے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ ان میں سے کئی ابھی تقدیم حیات ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ زیادہ لکھنا اس مختصر تاریخ میں ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں کچھ کے کام بڑے اہم ہیں اور ان کی تخلیقات وہی غلط رکھتی ہیں جو حاتی، آزاد اور تسلی کی رکھتی تھیں۔

تنے ذرائع کے پیدا ہو جانے کی بدولت یہ مصنف فلسفہ، منطق، تاریخ اور سائنس کی مدد سے علم کی حدود میں توسعہ کرتے ہیں مگر جیسا کہ عرض کیا گیا ہے ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ادب کے ارتقاء کو سماجی شعور کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ مولانا عبد الحق (۱۸۷۹ء - ۱۹۴۰ء) اردو کے ایک بہت بڑے مصنفوں اور علمی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بوری زندگی اردو کی قدم کتابوں کی تلاش، ان پر تبصرے لکھنے، انہیں شائع کرنے اور اردو زبان کو طاقتوں بنانے میں رگاہی۔ وہ حیدر آباد میں کئی کالجوں کے پرنسپل اور صدر شعبہ رہے اور وہیں انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں اور مضامین لکھے ان کی تصنیفات میں "مراثی پرفارسی کا اثر" "لغریتی مرحوم، دہلی کانکھ" "سید احمد خان" مشهور ہیں۔

ان کے علاوہ تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے کئی مجموعے "مقدمات عبد الحق" "تنقید اعبد الحق" "چند ہم عصر" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلاش سے اردو کے کئی قدیم مصنفوں اور شاعروں کو زندہ کیا اور اپنی انتحک محنت سے اردو زبان کو ہر دلعزیز بنانے میں بڑی مدد کی۔ سچ یہ ہے کہ ان کے مضامین اتنے اہم نہیں جتنا ان کا یہ کام کہ انہوں نے بہت سے تخفیں دالوں کو تخلیقی کام

کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ وہ حاتی کے طرز کی آسان نشر لکھتے اور زبان کو ناموزوں فارسی و عربی نظموں سے بوجمل نہیں ہونے دیتے بلکہ ۱۹۳۷ء کے بعد ان میں ایسی تنگ نظری پیدا ہو گئی تھی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نامناسب جوش سے اردو ہندی قصیٰ کے بڑھادا ملا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ وہیں چلے گئے اور وہاں انہم ترقی اردو قائم کر کے اسی کام کو آگے بڑھاتے رہے جو انہوں نے ہندوستان میں شروع کیا تھا۔

لال شری رام دہلوی (۱۸۵۲-۱۹۲۹) دلی کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں اردو کے اچھے اچھے مصنفوں پیدا ہو چکے تھے۔ لال شری رام الحبڑی فارسی اور عربی خوب جانتے تھے، اس لیے جب اپنی تند رستی کے بعد جانے کے باعث ۱۹۰۴ء میں انہوں نے نوکری چھوڑ دی تو اردو شاعروں کا ایک ایسا نہ کرہ لکھنے کی کوشش کی جس میں کوئی شاعر چھوٹے نہ پائے۔ اس کے چار بڑے بڑے حقیقتی شائع ہو چکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تذکرہ "تحفۃ جاوید" کے نام سے مشہور ہے اور اردو کی اہم کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں کہیں کہیں غلطی بھی ہو گئی ہے مگر عموماً اس میں عمیق تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تایف کے لیے انہوں نے پڑاروں کتابین جمع کی تھیں جن میں کچھ دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تصنیف اور ان کا کتب خانہ ہند و یونیورسٹی کو دیدیے گئے اور ان کے کام کو پسندت کیفی نے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس کا پانچواں حصہ پسندت کیفی نے مرتب کرنے کے شائع کرایا ہے۔

پسندت کیفی (۱۸۵۵-۱۹۳۶) خود ایک بہت بڑے فاضل تھے اور علم ساتھ کے مخصوصی ماہروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں مگر دراصل وہ ایک نثر نگار کی حیثیت سے اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے ناٹک وغیرہ بھی لکھے ہیں مگر ان کی سب سے عمومی تصنیف "کیفیۃ زبان" سے متعلق معلومات کا ایک بے شک خزانہ ہے۔

نواب نصیر حسین خیال (۱۸۸۱ء-۱۹۳۳ء) پسندنے کے ایک مشہور مصنف ہونے

ہیں۔ انہوں نے بھی اردو زبان کی پیدائش اور ارتقاء کے بارے میں کئی اہم تحقیقیں کیں اور انہیں کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ ان میں داتان آرڈر اور مغل اور اردو مشہور ہیں۔ ان کے سچنے کا انداز مولانا محمد حسین آزاد سے مٹا جلتا تھا۔ وہ نفطون کا استعمال بڑی عمدگی سے کرتے تھے اور جس لفظ سے جس محل پر جو کام لینا چاہتے تھے بڑے پسندیدہ طریقہ سے لے لیتے تھے۔ ان کے اسلوب میں وزن و یکف ایک ساتھ ملتے ہیں، مگر ان کے ادبی تجزیے میں بہت سی غلطیاں ہیں۔

مولانا شبیلی کی قائم کی ہوئی انجمن دار المصنفین اعظم گڑھ میں اردو کے کئی اہل قلم نے اس کام کو جاری رکھا جو اس کے بانی نے شروع کیا تھا۔ مولانا سلیمان ندوی عبد السلام ندوی، سعید النصاری، ریاست علی ندوی، شاہ معین الدین ندوی، سب اردو کے اچھے اہل قلم مانے جاتے ہیں۔ ان میں مولانا سلیمان ندوی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ شبیلی کے سچے جانشین کے جا سکتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں، کچھ وہ ہیں جن کو مولانا شبیلی ادھورا چھوڑ گئے تھے اور کچھ وہ جو خود انہیں کاشتھ فلر کئی جاسکتی ہیں ان کی کتابیں بھی خاص طور سے مددی ادب سے تعلق رکھتی ہیں خالص ادبی نظر سے صرف دو تباہیں قابل ذکر ہیں۔ تقویش سیما نی، اور خیام، یہ دونوں تخلیقات اردو کے عمدہ اسلوب نشر میں ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے ان کے زیادہ تر مصنایں عمیق تحقیق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ بات خیام کے علاوہ ان کی مشہور کتاب 'عرب اور ہند' کے تعلقات، میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ بھی پاکستان حلے گئے تھے اور وہیں کا انتقال ۱۹۵۵ء میں ہو گیا۔ مولانا عبد السلام کی کتاب 'شعر اہنگ اردو شاعری' کی تاریخ سمجھنے میں بہت مددی تھے۔ اس انجمن کے دوسرے ادیبوں کی تصنیفات زیادہ تر نہیں ہیں مگر ان کی ادبی اہمیت بھی ہے۔

مولانا عبد الماجد دریا بادی عصر حاضر کے مشہور علماء اور صاحبان قلم میں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت سے امار چڑھا دیئے ہیں جس وقت وہ اسکے بزری تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان پر محدثانہ خیالات کا گہرا اثر پڑا اور

انھوں نے عقلیت پسندی کے نقطہ نظر سے اسلام اور دوسرے مذہبوں پر چوٹیں کیں۔ اسی وقت انھوں نے یورپی فلسفے سے تعلق رکھنے والی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا اور انگریزی اردو میں بہت سے مضمایں لکھے۔ اس کے بعد انھوں نے کردہ بدی اور دھیرے دھیرے پھر مذہبی خیالات کی اشاعت کرنے لگے اور اب ان کی تنگ نظری اتنا بڑھ گئی ہے کہ وہ دنیا کے سہرا قلعے کو خاص طرح کے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر بھی صرف انھیں کام ہوتا ہے۔ انھوں نے کچھ ادبی مفہم بھی لکھے ہیں جو اسلوب کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ ان کے مجموعے، اکبر نامہ، مقالات ماجد، اور مضایں ماجد، کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصنیفوں اور ترجموں میں، فلسفہ خذبات، اور فلسفہ اجتماع، تصوف اور اسلام، تاریخ اخلاق یورپ، اور محمد علی کی ڈائئری مشہور ہیں۔ وہ شعوری طور پر ہر ترقی پسند اداۃ خیال کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں مگر ان کے لکھنے کا انداز اتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے کہ ان کے دیقانوں سی خیالات بھی پڑھنے میں مزہ دیتے ہیں۔

تنے اردو ادب کے معاروں میں وحید الدین سلیم پانی پسی بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نظم و شرودنوں میں ان کے کارنامے قابل تعریف ہیں وہ کئی زبانوں کے عالم تھے۔ اس یے انھوں نے سانیات اور خاص طور سے اصطلاحات کے ترجیح اور ان کے وضع کرنے کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ ان کی ساری زندگی تحصیل علم کی جدوجہد میں لگے ہوئے طالب علم کی زندگی تھی، جسے وہ بڑی سادگی سے سب کرتے تھے۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ حیدر آباد میں گزرایا۔ انھوں نے نئے ادبیوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظموں کے مجموعے کے علاوہ دونوں تصنیفات بھی نلمتی ہیں: افادات سلیم، اور وضع اصطلاحات، اور دو نوں ان کے علم کی نشان دہی کرتی ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف مقالات کا مجموعہ ہے لیکن ہر مقالہ اسے مقام پر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور دوسری کتاب اصطلاحات سازی سے تعلق رکھتی ہے جس پر اس وقت تک کوئی اضافہ نہیں ہو سکا ہے۔ ۱۹۱۶ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری عظمت اللہ خاں اور سجاد انصاری تین ایسے نام ہیں جو اپنی طرح شہرت حاصل کرنے سے پہلے ہی مت گئے۔ تینوں تھوڑی تھوڑی عمر میں راہیں عالم ہوئے۔ یہ سب شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ عظمت اللہ خاں نے ہندی فن شاعری کا عیق مطالعہ کیا تھا اور اردو شاعری کو نئے سانچے میں ڈھانے کی کوشش کی تھی جو اردو فن شاعری کی تاریخ میں سدا احترام کا مرکز بنی رہے گی۔ ان کے کلام کا مجموعہ اسریلے بول، ناگری رسم خط میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ نظر میں بھی ان کے مضامین کے دو مجموعے چھپے ہیں جن کے مطالعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر انھیں تکھنے کا کچھ اور وقت ملتا تو وہ کتنی اہم تخلیقات چھوڑ جاتے۔ اسی طرح ڈاکٹر بجنوری کی تجھی صرف دو تصنیفات ملتی ہیں ایک مجموعہ مضامین، باقیات بجنوری اور دوسرا مرزا غالب کی شاعری پر ایک فلسفیاً مقالہ جو محاسن کلام غالب کے نام سے شائع ہوا۔ وہ یورپ کی کئی زبانیں جانتے تھے اور فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے اس لیے ان کا یہ مقالہ فلسفیانہ خیالات سے پر ہے۔ سجاد انصاری کے کچھ مضامین اور منظومات جمع کر کے ان کی موت کے بعد "محشر خیال" کے نام سے شائع کر دیے گئے جن کے مطالعے سے ان کی جودت عقل، فکارانہ صلاحیت اور آزادی خیال کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے مضامین بڑی جاندار تھے اور وہ بڑی آزادی سے فلسفیانہ اور مذہبی مسائل پر پتے خیالات ظاہر کرتے تھے۔ ان تینوں ادیبوں میں یہ کیسا نیت ضرور ملتی ہے کہ وہ سب کے سب حسن کے پرستار اور جدت کی طرف مایل تھے۔

تحقیقی ادب کے ماہروں میں حافظ محمود شیرازی کا نام بڑی بلند جگہ رکھتا ہے، انہوں نے اردو زبان کی پیدائش کے سلسلے میں ایک اہم کتاب "پنجاب میں اردو" نامی لکھی ہے جس میں ابتدائی پنجابی اور ابتدائی اردو کی کیسا نیت دکھائی ہے، پر تھوڑی راج راسو، پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی جو شائع ہو چکی ہے۔ ان کو قدیم و معاصر ادیبوں کے یہاں غلطی نکالنے میں بڑا مزہ ملتا تھا اور وہ ہزاروں کتابوں کو کھنگال کرنا میں سے ایسی باتیں ڈھونڈنکالنے تھے کہ ان کی بات نہ مانتا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مولانا آزاد اور مولا ناشبلی کی تصنیفات

میں تحقیق کی بہت سی غلطیاں نکالیں جن میں سے کچھ کتابوں کی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ عربی، فارسی اور سندھی کے بڑے عالم تھے، مگر ان کا نشری اسلوب روکھا پھیکا اور بے جان ہوتا تھا۔ اس ڈھنگ کا کام کرنے والوں میں اس وقت بھی کئی نقادروں کے نام یہے جاسکتے ہیں جیسے ڈاکٹر عبد الاستار صدیقی، ڈاکٹر عبداللہ قاضی عبد الودود اور امیاز علی عرشی۔ مگر یہاں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھنا نامناسب ہے۔

پندرت منوہر لال زنشی، مرزا محمد عسکری، مولوی ہمیش پرشاد اور نصیر الدین ہاشمی نے اردو ادب کی تعمیر میں بڑے کام کیے ہیں اور بہت سی ایسی قدیم تصنیفات ڈھونڈنکاری ہیں جس سے اردو ادب کی تاریخ اور معلومات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ان کی تصنیفات پر بھی کچھ خیالات ظاہر نہیں کیے جاسکتے۔ کوئی اردو ادب کے موجودہ دور کی تاریخ تفضیل سے دیکھنا چاہیے گا تو ان ادیبوں کے بارے میں اسے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہو گی۔

ہندوستانی یونیورسٹیوں میں جب سے اردو کو ایک اعلیٰ تعلیم کا مضمون مان کے جگہ دی جائی ہے اس وقت سے وہاں کے اس تاد بڑا کام کمر رہے ہیں۔ ان میں سے جو نئے سماجی شعور سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کا ذکر اتممے باب میں ہو گا، یہاں کچھ ایسے مصنفوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو پرانے ادیبوں کے انداز پر تخلیق ادب میں عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی نئے کمی شکل میں نئے ادب کے تجربات کی سمت شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان میں مسعود حسن رضوی ادیب، رشید احمد صدیقی، سید ضامن علی، ڈاکٹر حفیظ سید، ڈاکٹر احمد علی قادری ترور، پروفیسر عبد القادر سروری، ڈاکٹر عبدالحیب شاداونی اور ڈاکٹر عبد اللہ کے نام یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

مسعود حسن رضوی ۱۹۵۶ء تک لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو فارسی کے شعبے کے صدر تھے۔ انہوں نے زیادہ تر قدیم شرعاً و مصنفوں کی خصوصی تحقیق کی ہے۔ مگر وہ نئے ادب سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے مرثیے تحقیقی کام خصوصیت سے کیا ہے۔ ان کی تہذیب مطبوعہ تصنیفات میں بماری شاہری، روح ایک

دیوان فائز، فیض میر، جاں رنگین، او متفرقات غالب، اردو دراما اور اسٹیج، ایران کا مقدس ڈراما مشورہ ہیں۔ ان کے مقامے تحقیقی ہوتے ہیں مگر وہ نئے طریقے کی تنقید بھی لکھتے ہیں۔ ان کی مقبول تصنیف، ہماری شاعری، اردو زبان کی خصوصیات کو سمجھنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ ان کی زبان آسان اور سنجیگی دونوں اوصاف سے محصور ہے۔ اس وقت وہ واحد علی شاہ کی ادبی اہمیت اور اردو مرثیے پر کام کر رہے ہیں۔

رشید احمد صدیقی سلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اردو کے صدر شعبہ تھے۔ وہ خاص طور سے مزاحیہ مضامین لکھتے ہیں کبھی کبھی تنقیدی مضامین بھی لکھتے ہیں مگر ان میں بھی منہسی کے چھٹیے اڑاتے ہیں۔ ان کی کئی اردو تصنیفات شائع ہو چکی ہیں جیسے، "مضامین رشید"، "خندان، بچہ مائے گران مایہ، طنزیات و مضحکا، آنسو فتنہ بیانی میری، جدید غزل، اور شیخ نیازی" اردو میں مزاح کی روایت ہر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جو اردو میں اپنے انداز میں پہلی کتاب کھی جاسکتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے طنز اور گھرے اشارے ان کے فنکارانہ اسلوب کو گھیر اور فلسفیانہ بناتے ہیں ماس میں شک نہیں کہ وہ عصر حاضر کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں، وہ صرف ہنسنے کے لیے نہیں لکھتے بلکہ تعلیم و خودداری کے لیے لکھتے ہیں:

سید ضامن علی اللہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پروفیسر تھے وہ شاعر بھی تھے اور مصنف بھی۔ شاعری میں وہ قدیم طرز کی پریدی کرتے تھے۔ مگر نئے تحریرات کی کچھ خصوصیتوں کو بھی سراہتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنا زیادہ وقت قدیم ادب، خاص کر مرثیے کی تحقیق میں لگایا ہے، ان کے کچھ بھی مضامین شائع ہوئے ہیں جیسے واقعات بکر بلا، اور اردو زبان و ادب:

ڈاکٹر حفیظ سید بھی اللہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے استاد تھے۔ انہوں نے قاضی محمود بھری کی خاصی تحقیق کر کے اس کا مجموعہ کلام مرتب کیا جو شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ گوتم بدھ اور اشوک پر بھی ان کی تصنیفات چھپ چکی ہیں۔ انہوں نے مذہبی، فلسفیانہ اور ادبی مسائل پر بہت سے مضمون لکھے ہیں، مثلاً

اپنا اشراوب پہلیں چھوڑا ہے، جس سے انھیں یاد رکھا جاسکے۔ ان کا اسلوب نثر سید حساسا وہ اور بے کیف ہوتا ہے۔ ۱۹۶۱ء میں انتقال ہوا۔

ڈاکٹر محمد الدین قادری زور حیدر آباد (دکن) کے ممتاز ادیبوں میں تھے۔ انھوں نے یورپ میں رہ کر رسانیات پر بہت کام کیا اور اسی زمانے میں اردو انگریزی میں اپنے نتائج تحقیق شائع ہمراۓ۔ وہیں انھوں نے اردو کے ان قدیم ادیبوں اور شاعروں کا مطالعہ بھی کیا، جن کی تخلیقات وہاں کے کتب خالی میں لکھتی ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جیسے روح ترقیہ، ترقیدی مقالات، حیات قطب شاہ، داستان ادب حیدر آباد، وغیرہ۔

ان کے علاوہ انھوں نے بہت سے شعر کے دیوان اپنے تبصروں کے ساتھ شائع کرائے ہیں۔ وہ دکنی زبان اور ادب کے ماہرین خصوصی میں سے ہیں اور انھوں نے حیدر آباد میں اردو ادب کی تحقیق کرنے والوں کا ایک پورا گروہ بنالیا ہے جو اب بھی تحقیقی کاموں میں نگاہ ہوا ہے اور قدیم اردو ادب کی تلاش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر زور کا اسلوب سبھی سید حساسا دھا اور بے کیف ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ۱۹۶۲ء میں ہوا۔

عبد القادر سروری غایب یونیورسٹی میں اردو کے صدر تھے وہاں سے ڈاکٹر بولکے جموں کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اردو فارسی کے صدر ہو گئے ہیں۔ کھنیٰ کتابیں شائع کر اچکے ہیں، جیسے، جدید اردو شاعری، دنیائے افسانہ، اردو مشنوی کا ارتقا، اردو کی ادبی تاریخ، زبان و علم زبان۔ ان کے علاوہ انھوں نے کچھ کھاؤں کے ترجمے بھی مختلف زبانوں سے کیے ہیں اور کھنیٰ شاعروں کے دیوان کے تبصرے لکھے ہیں۔ دکن کے معاصر نقادوں میں ان کی ایک خاص جگہ ہے۔

ڈاکٹر عبدالیب شادابی ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو فارسی کے پروفیسر ہیں۔ ان کی تحقیق کا موضوع ویسے تو فارسی ہے مگر انھوں نے اردو میں بہت سمجھا ہے، وہ شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی، کہاں بیوں کے کھنیٰ مجموعے بھی انھوں نے شائع کرانے ہیں۔ انھوں نے جشنی اپنی تقدیروں میں اردو شاعری کی خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے مرصدا میں کے کھنیٰ مجموعے، تحقیقات، تحقیق کی روشنی میں،

اور دوسرے حاضر کی اردو و غزل گوئی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔
 ذاکر عبد اللہ بخارب یونیورسٹی ریاستان میں اردو کے پروفیسر تھے، انہوں
 نے بھی خاص کر فارسی زبان کی تحقیق تھی ہے مگر اردو میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔
 اردو نشر پر انہوں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے اور بہت سے اردو
 مفہماں میں اسی کتاب کے خیالات کو مفصل طور سے ظاہر کیا ہے۔ فارسی کے نہد
 ادیبوں اور شاعروں پر بھی ان کی ایک تحقیقی تصنیف شائع ہو چکی ہے جس سے ان
 کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ ذاکر عبد اللہ نے تلاش و تحقیق سے شروع کر کے دورِ حبہ
 کے مصنفوں کی طرح عہد حاضر کے نقطہ نظر سے ملتوی تقدیمیں بھی لکھی ہیں جو ان
 کے مطابعے اور بیداری نظر کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی متعدد تصانیف میں بحث و نظر
مباحثہ، ولی سے اقبال تک، مرسید اور ان کے رفقائے کار، اردو نذرے وغیرہ
قابل ذکر ہیں۔

بہت سے نام چھوڑ دیے گئے ہیں اور جن کا ذکر ہوا ہے وہ بھی بالکل ادھورا
 ہے۔ پھر بھی اس سے زیادہ ممکن نہ تھا جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے مطابعے سے یہ بات
 واضح ہو جائے گی کہ انگریزی زبان کے اثر سے اردو نظم و نثر دونوں میں بُری بُری
 تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ اثر طرز و فکر و زبان پر بھی پڑا تھا اور آنگ و اسلوب پر
 بھی۔ مرتضیٰ کے وقت سے لے کر اس وقت تک ان سمجھی موضوعات پر کام ہوا
 ہے جو کسی زبان کو وسیع و سُمہ گیر بناتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ انگریزی
 کے اثر کو قبول کرنے اور اسے روکرنے کی لہریں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، پھر
 بھی اردو ادب اس نئے عہد کا پیغامبر بن گیا جو تاریخی اسباب سے ساری دنیا
 پر چھایا ہوا تھا۔ ہندوستان کے سماجی اور سیاسی شعور کے تنازعے اردو ادب
 میں بھی نئے مسائل کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی تھی جس طرح اردو
 ادب نے پیاں کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیا اس کا تذکرہ آئندہ
 اور اُن میں ہو گا۔

گیارہواں باب

نشاہ ممتازیہ کی اردو شاعری

اس باب میں نے شور سے معمور اور رسم و قیود کی پر دری کرنے والے ان شاعروں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے کسی قسم کی اہمیت حاصل کی ہے۔ نئی شاعری کے معالم مولانا محمد حسین آزاد سمجھے جاتے ہیں غدر کے بعد جب آزاد نے لاہور کے حکماء تعلیم میں سرکاری نوکری کر لی تو وہاں انھیں کئی انگریز فاضلوں کے ربط میں آنے کی خوش بخشی میسر ہوئی۔ وہ خود دل کانج کے طالب علم رہ چکے تھے۔ فکر و علم کرنے والے رجباً نات سے آشنا تھے اور جب انھیں ان انگریزی افاضل نے ترغیب دی تو انہوں نے نئی شاعری کا خاکہ اپنے رفقاء اور سہوطنوں کے سامنے رکھا۔ اگست ۱۹۴۷ء میں انہوں نے ایک خطبہ دیتے ہوئے مشرقی شاعری خاص کر اُردوفارسی شاعری کے نمائص کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ شاعری کو انسانی زندگی اور فطرت کے سبھی اجزا پر روشنی ڈالنے کا فریضہ اٹھانا چاہیے جو بد نصیبی سے نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ ہماری شاعری کو محض کچھ موضوعات میں ہی محدود ہو کر کے سبھی ہمارے اسلاف نے عظیم تخلیقات کی ہیں مگر اب تک ہم انھیں کیکریہ رہے ہیں اور انھیں کے چلائے ہوئے نواۓ کھار ہے ہیں۔

ہمارے سامنے جو نئے مسائل ہیں ان کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر سبھی نہیں دیکھتے۔

ملہ مولانا آزاد کا مسٹر طعارف آئندہ باب میں ملے گا۔

انھیں خیالات کو بڑے جذباتی اور دلچسپ الفاظ میں تفصیل کے ساتھ پیش کر کے آزاد نے یہ اپلی کی کہ ہمارے شاعروں کو بھی اپنے کمال کو ٹھہری سے باہر آنا چاہیئے اور رشتی فضای میں نئے راستوں پر چلنا چاہیے۔

نئی تعلیم اور نئے سماجی شعور کی بدولت جو بدلتی ہوئی اقتصادی حالت کا نتیجہ تھا ان کے یہ خیال بے کار نہیں گئے اور کچھ ہی دن گزرنے پر لاہور میں انہیں پنجاب، کی بنیاد پڑی اور آٹھ مئی ۱۹۴۷ء کو وہ پہلا یادگار شاعر ہوا جس میں نئے طرز کی تنظیں پڑھی گئیں۔ پہلے مولانا آزاد نے ایک بہت عمدہ اپنے حد معلومات افراد خطہ دیا اور پھر شاعری میں اصلیت سے کام لینے، مقامی رنگ پیدا کرنے اور زندگی کی تحریکی مصوری کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ ہم کوئی، چمپا اور چبیلی، ارجمند اور تھیم، گنگا اور جمنا ہائیہ اور دوسری مقامی چیزوں کو بالکل بھول گئے ہیں، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف بھی پورا دھیان دیں۔ وہ ان روایات سے روگردان نہیں ہونا چاہتے تھے جو پہلے سے چلی آرہی تھیں ان کا خیال تھا کہ شاعری کو اس زندگی کی قیادت کا بار بقول کرنا چاہیے جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس خطہ کے بعد آزاد نے ایک نظر پڑھی جورات کی مختلف صورتوں کی عکاسی کرتی تھی۔ آزاد کوئی غیر معقولی شاعر نہیں تھے، مگر ایک نئے رنگ کے موجد ہونے کی بدولت ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لا مور کے شاعروں نے مولانا حامی کو بھی اپنی طرف کھینچا اور انہوں نے اپنی کچھ غلطیم تخلیقات اسی شاعرے کے لیے لکھیں اور تھوڑی ہی مدت میں یہ نیا طرز سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ جب تاریخی اور سماجی اسباب سے کسی کام کے لیے مناسب زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس کے پہلے پھونے نہیں دیر نہیں سمجھتی۔ اس وقت کا ہندوستان اس کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ اس میں قومی خیالات اور حب الوطنی کے جذبات ظاہر کیے جائیں اور خدا کے بعد نام امیدی کی جو نو تھی ہے اسے ٹھایا جائے۔ اس لیے قدامت پردوں کی مخالفت کے باوجود نئے ادب نہ جنم لے ہی لیا۔ آزاد کی نظموں کا ایک مجموعہ نظم آزاد کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں ان کی وہ دونوں تقریریں بھی

شامل ہیں جن کا ذکر اور پر کیا گیا۔ آزاد اوس اس اشعاری میں ذوق کے شاگرد تھے اور شروع میں وقت کی روایت کے مطابقت غزل میں لکھتے تھے، کچھ قصیدے اور مرثیے بھی لکھتے ہیں، مگر جو کچھ قوت ہے وہ ان کی ان نئی نظموں میں ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے مگر میں جب آزاد کی دماغی حالت بجھ رکھی تھی، تو انہوں نے صوفیانہ انداز کی غزل میں لکھنا پھر شروع کر دیا تھا جن میں سے بیشتر ضائع ہو گھیئں۔ نونے کے یہے ان کی ایک نظم کے دو بند دیے جاتے ہیں۔

ہے سامنے کھلا ہوا میداں چلے چلو باغِ مراد ہے ثرا فشاں چلے چلو
دریا ہو بچ میں کہ بیا باں چلے چلو ہمتایہ کہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو
چلنا ہی مصلحت ہے مری جاں چلے چلو
ہمت کے شسوار جو گھوٹے انھائیں گے دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکاؤں گے
ٹوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے نیکی کے دورانہ کے بدی کو دبائیں گے
بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو

اس عہد کے سب سے بڑے شاعر مولا ناہائی تھے اور رعی یہ ہے کہ انہوں نے ہی نئے ادب کی نیومفبوط کی۔ وہ ۱۸۳۴ء میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام نواجہ الطاف حسین تھا۔ ابھی وہ نوبس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ والد رسمی عدم ہوئے، ماں پہلے ہی سے دماغی مرض میں تبلاتھیں اس لیے ہائی کوان کے بھائیوں نے پالا، انھیں کی تحریر میں ان کی تعلیم ہوئی۔ تھوڑے ہی زمانے میں انہوں نے عربی فارسی کی مروجہ کتابیں پڑھ دیں۔ مگر ابھی وہ صرف سترہ سال کے تھے کہ بھائیوں نے بیاہ کا پہنڈا لگھے میں دال دیا۔ ہائی کے لیے یہ ایک سخت بندھن ثابت ہوا کیونکہ وہ ابھی اور تعلیم حاصل کرنا پاہتے تھے لیکن جب بیوی گھر میں آئی تو انھیں یہ فکر ہوئی کہ زیادہ بوجھ بھائیوں پر نہ دالیں۔ ہائی کی خوش نصیبی سے ان کی رفیقة حیات کا خاندان بہت خوش حال تھا۔ انہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور ایک دن جب ان کی بیوی اپنے میکے گھنی تھیں ہائی بیغر کسی کو بتائے ہوئے چکے سے پیدل ولی چل دیے اور بڑی غربت سے دلی کے علماء سے تعلیم حاصل کرنے لگے یہ وہ وقت تھا جب ولی کا لمح قائم ہو چکا

تھا اور اس میں بہت سے لوگ نئی تعلیم مہل کر رہے تھے، مگر حال آنے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ولی میں انہوں نے پہلے پہل عربی میں ایک چھوٹی سی کتاب ایک مذہبی مسئلہ پر تکمیل اور یہ ان کا اس زندگی کا آغاز تھا جسے ہم ایک پکے ادیب کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی نشری تصنیفات کا بیان آگئے آئے گا، یہاں صرف اس سلسلہ کہانی کو منقطع ہونے سے بچانے کے لیے ان کی تصنیفات کے نام لے لیے جائیں گے۔ ابھی غدر نہیں ہوا تھا تو اپنی آخری رونق اور بہار دکھا رہی تھی۔ بڑے بڑے شاعر اور عالم وہاں موجود تھے جن میں مرتضیٰ خاقان کا نام و اکرام سب سے زیادہ تھا۔ حاتم نے شرگوئی شروع کر دی تھی۔ وہ کسی طرح غالب کے پاس پہنچے اور اپنا کلام سنایا۔ سترہ اٹھا رہ سال کے ایک نوجوان کی عمدہ غزلیں سن کر غالب چونکہ بڑے اور کہا کہ میں کسی کو شاعری میں وقت گنو ان کی صلاح نہیں دیتا مگر تھاری نسبت میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم شاعری نہ کرو گے تو ظلم کر دے گے۔ اب کیا تھا حاتم کا حوصلہ بڑھا اور وہ ولی کے متأudos میں حصہ لینے لگے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ ولی میں ہیں تو جا کر انہیں پانی پت و اپس لائے۔ ۱۸۷۶ء میں حصول معاش کیے گئے سے نکلے اور حصار میں دُسپی کمشز کے درہ میں نوکری کر لی۔ ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے کہ غدر ہو گیا اور حاتم بڑی دشواری سے جان بچا کر مانی پت بھاگے مگر ان کی صحت بچھ دی گئی اور تمام زندگی اس سے پیچا نہ چھوٹا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے پھر اپنی تعلیم کی طرف توجہ کی اور خود کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی قابلیت بڑھاتے رہے۔

غدر نہیں ہوا تو پھر معاش کی فکر ہوئی اور ولی پہنچے۔ یہاں ان کی ملاقات شیفتہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے مالی کو نوکر رکھ لیا۔ نوکری تو صرف ایک بہانہ تھی۔ شیفتہ خود حاتم سے شاعری اور ادب کی گفتگو کرتے تھے اور حاتم نے شیفتہ کے علم اور تنقیدی مزاج سے بے شال قوت مالی کی ۱۸۷۹ء میں شیفتہ اور غالب دونوں کی موت ہو گئی اور حاتم کے لیے آئی اجڑ دی گئی، ہن کی زندگی نے پلٹا کھا یا اور انہوں نے لاہور کا راستہ پکڑا۔ دہاں پنجاب گورنمنٹ بکڈ پو میں اپنیں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ دہاں

ان کا سام انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی تتابوں کی زبان کی اصلاح بھی تھا۔ چار سال یہ کام کرتے رہے جاتی تھے اس بارے میں خود نکھا ہے کہ انہوں نے ایک نئی روشنی دیکھی اور انھیں انگریزی ادب کی بہت سی خوبیوں میں پرکشش تو دکھائی دی۔ اس کے برخلاف فارسی اور اردو نظموں کی تنقید میں خط حاصل ہونے لگا۔ جاتی انگریزی بہت کم جانتے تھے، مگر انہوں نے اس کی خوبیوں کو لٹھینے کر لیا تھا۔ یہیک اسی وقت آزاد کے بناؤ کر دہنے والے شاعرے بھی ہو رہے تھے۔ جاتی پوری طرح اس نئی ادبی تحریک میں شامل ہو گئے اور ان میں وہ اہم تبدیلی ہوئی جس نے ادب اور شاعری کے متعلق ان کا نقطہ نظر بدل دیا۔

اپنے پیش ان کی تند رسمتی بلگڑ گھنی اور وہ دلی چلے آئے۔ یہاں ان کو دلی کا لمحہ میں ملا ذمہ بل گھنی اور ان کی دلی میں رہنے کی تمنا پوری ہوئی۔ اس وقت تک وہ کئی عظیم نظیں اور کئی نثر کی تباہیں لکھ کر چکے تھے۔ یہاں صرف ان کی منظوم تخلیقات کے بارے میں کچھ اشارہ کیا جائے گا۔ دلی کے دوران قیام میں ان کی سر سید سے ملاقات ہوئی جو غدر کے بعد سے مسلمانوں کے لیک بڑے رہنمائی کرنے لگے تھے۔ انہوں نے جاتی سے مسلمانوں کے عروج و زوال پر ایک نظم لکھنے کی استدعا کی اور جاتی نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف، مدوجہ راسلام فتحہ اور میں اسکی جو مدد جاتی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ویسے تو جاتی سر سید کی قائم کی ہوئی مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے جلسوں میں نظیں پڑھا ہی کرتے تھے، مگر اس ممتاز تخلیق نے ان کی ناموری چاروں طرف پھیلادی۔ ۱۸۸۷ء میں انہوں نے اپنی دوسری نظم، ناجات بیوہ، بکھری اور اسی طرح بر ابر ایسی نظیں لکھتے رہے جو سماج کی اخلاقی اصلاح اور احیاء رنو سے تعلق رکھتی ہیں۔

مدد تو پچھوں بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں کے نہ جانے کتنے ایڈشین دوسرے مجموعوں میں نکل چکے ہیں۔ دیوان جاتی میں ان کی غربیں اور رحموںی چھوٹی دوسری نظیں مجموعہ نظم جاتی میں ان کی دوسری بڑی بڑی نظیں جمع کردی گئی ہیں اور جبھی طویل نظیں ایک اگر شائع ہو چکی ہیں۔ جاتی نے اپنے مجموعوں کے مقدموں میں اپنے مقاصد

نیالات کا بیان واضح طور سے کیا ہے۔ اس سے ان کے مطابعے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ آخر میں مولانا حائلی کو دربار حیدر آباد سے ایک طرح کا ادبی وظیفہ ملنے لگا تھا اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ تخلیق ادب تیس لگے رہے ہیں 1911ء میں شمس العلما کا خطاب ملا جس کو انہوں نے قبول تو سریا مگر خوش نہ ہوئے۔

1911ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

جیسا کہ اس وقت کارروائی تھا حائلی نے بھی ابتداء میں غزلیں لکھیں۔ انہوں نے اس بات کو خود تسلیم کیا ہے کہ وہ میر غائب اور شیفخت سے متاثر ہوتے تھے۔ یہ تینوں شاعر غزل میں اصیلیت اور تکلیبی جذبات کو بے حد سنجیدگی اور خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے حائلی کی غزلیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ان کے شعر دل میں تیر کی طرح چھپ جاتے ہیں تکلیبی کیفیتوں اور محبت کے احساسوں کا ایسا دلکش بیان ہوتا ہے کہ ان کی سادہ لفظوں میں بھلیاں چھپی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ساری ہائیں ابتدائی دور میں تھیں۔ بیٹھا شاعری سے رشتہ جوڑنے کے بعد انہوں نے غزوں میں بھی اخلاقی، اصلاحی اور قومی فلاح کا بیان شروع کر دیا۔ ان کی بڑی نہلوں میں، مسکن، مناجات، بیوہ، برکھارت، حب وطن، چیکی دار، دینیہ بترین تخلیقات میں شامل ہوتی ہیں ان کے مطابعے سے صرف حائلی کی حاصلہ دل اور دزد و قارکانشان نہیں ملتا، بلکہ اس وقت کے ہندوستان میں اصلاح و ترقی کی جو دنور آمیز مردوں زریں تھیں۔ اس کی تصویر بھی انہوں کے سامنے کھجھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہیں اپنے اس جذبے کو چھپایا ہیں ہے کہ وہ شاعری سے مک کو بیدار کرنے کا کام لینا چاہتے تھے۔ حائلی مسلمانوں کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت اس طبقے کے مسائل بہت پچیدہ شکل اختیار کر چکے تھے۔ نئے معاشری طبقے میں داخل ہو کے اور نئی تعلیمیں حاصل کر کے قدیم روایات سے ما تہ توڑیں کی خواہش پیدا ہوتی تھی اور کوئی انقلابی نقطہ نظر نہ ہونے سے ترقی کا یہ جلد پر صرف ایک طرح کی اصلاح پسندی میں محدود ہو گرہ جاتا تھا۔ اسی لیے حائلی کا شعور بھی دو علیے میں بچسا ہوا دکھائی پڑتا۔

ہے۔ وہ محب وطن اور وفادار سرکار دونوں ہی بننا چاہتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت سرکاری وفاداری ہی کی آڑ میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا تھا کیونکہ غدر کے بعد مسلمانوں میں جو ناامیدی پھیلی تھی اس سے باہر نکلنے صرف اسی طرح ممکن تھا کہ نئی زندگی کو قبول کر لیا جائے اور انگریزوں سے رُد کر نہیں، انھیں اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ان سے اپنے یہے حق حاصل کیا جائے۔

حال شاعری کے ذریعے بیداری کا پیغام دینا چاہتے تھے اور اس وقت شعر گوئی کا ایسا اخطاط ہو چکا تھا کہ لوگ محض نقطی گور کھدھندا، صنائع اور چیزیں باتوں میں مزہ پانے کو شاعری کا مقصد سمجھتے تھے۔ اس لیے حالی کی بڑی مخالفت کی گئی اور ان کے نقطہ نظر کی سخت تنقید کی گئی۔ مگر حالی اپنی دُھن کے لیکے تھے۔ انہوں نے اپناراستہ نہیں چھوڑا یقینی طور پر ترقی کی تاریخی طاقتیں ان کو مددوے رہی تھیں۔ اس لیے تھوڑی مدت کے بعد متوسط طبقے کے تعالیم یافتہ حصتے میں ان کی نظیں بڑے چاؤ سے پڑھی جانے لگیں۔ حالی بچنے مزاج سے ایک داغظ اور محلم تھے۔ تظم جب تک بے حد دلچسپ خوبصورت اور فرحت خیش نہ ہو پندوں تعالیم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ حالی کبھی کبھی فنی اعتبار سے یہ خصوصیتیں پیدا کرنے میں ناکام رہ جاتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ جوان کے نضائے سے شفق نہ تھے وہ اسے بے مزہ پاتے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حالی کے دل میں جو کچھ تھا وہی ان کی زبان پر آتا تھا۔ ان کے دل میں جوش علیہ بھر کر رہے تھے اس وقت تھوڑے ہی سے لوگان سے داقف تھے۔ ان کی دورانیشی جس مستقبل سے دوچار تھی اس کا خاکہ عام لوگوں کے سامنے نہ تھا، اس لیے بہت سے لوگ ان کی نظیں کو محض پنڈو نضائے کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے۔

حال صرف ایک شاعری نہیں تھا ایک بڑے نقاب بھی تھے وہ شاعری کے بنے بنائے ذہرے پرچل کے سمتی ہر دل ہر زیستی حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ نئی شاعری کے موجود بننے کی تمنا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے خاندانوں

کی تبلیغ تنقید کی پرواکیے بغیر اس نئے اسلوب کی نشر و اشاعت کی جو انھیں اپنے اغراض و مقاصد کی تبلیغ کے لیے زیادہ کار آمد معلوم ہوتا تھا۔ ان کی زبان آسان، خیال بخوبیہ اور طرز نیا تھا چونکہ انھوں نے زندگی اور ادب کے رشتے کو سمجھ لیا تھا اس لیے وہ کبھی محض کرنے کے لیے شاعری نہیں کرتے تھے ان کا مقصد بھی فن کی نسبت فن پسندوں کی طرح ہوتا تھا۔ اس لیے جتنا وقت گزرتا جاتا ہے حالت کی برتری اور راحترام میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ نئی شاعری کے پیامبر مانے جلتے ہیں اور اپنی بہت سی نہایتوں کے باوصاف ان کی ترقی پسندی آج بھی بے یقینی اور تمذبیب میں تبلارہنے والے شاعروں کے لیے خضر را ہے۔ ان کی بہت سی نظریں مہدوستان کی دوسری زبانوں میں منتقل ہو چکی ہیں یہاں محض منونے کے لیے کچھ شردیے جاسکتے ہیں۔ مناجات بیوہ میں کہتے ہیں:

ریت کی سی دیوار ہے دنیا	اوچھے کا سا پیار ہے دنیا
ساتھ سہاگ اور سوگ ہے باکل	ناؤ کا سانجھوگ ہے دنیا
ہارکبھی اور جیت کبھی ہے	اس نجھی کی ریت بیسی ہے
تیرے سوا یاں اے مے مولا	کوئی رہا ہے اور نہ رہے گا

جگلک اے امید اپنی آخر دکھا تو	بس اے نامیدی نہ یوں دل بھا تو
مسنده دلوں کے دل آخر بڑھا تو	دورا نامیدوں کو دھارس بندھا تو
جل کھیتیاں تو نے مر سبز کی ہیں	ترے دم سے مردوں میں جانیں پڑیں

بہت دُوبتوں کو ترا یا ہے تو نے	بگڑ توں کو اکثر بنا یا ہے تو نے
اکھڑتے دلوں کو جما یا ہے تو نے	اجرٹتے گھروں کو بنا یا ہے تو نے
اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے	بہت تو نے پتوں کو بالا کیا ہے
غزل کے تین شرديکھے:	
ہے ججو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں	اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں

تفسیں جی نہیں لگتا کسی طرح ٹکادو آگ کوئی آشیاں میں
 تلق اور دل کا سوا ہو گیں دلاسا مقارہ بلا ہو گیا
 حالی نے نہ تو کھل کر ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیا اور نہ
 واضح طور سے ایسی نظریں بکھیں تھیں جن میں سیاسی مسائل کا بیان ہو، مگر
 جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا یہ بات عیاں ہوتی جاتی تھی کہ ہندوستان میں
 فن اور زندگی کا رشتہ اس وقت تک واقعی نہیں ہو سکتا، جب تک
 کھل کر بیان کی سیاسی کیفیت کا ذکر نہ کیا جائے۔ نئے شعور کے نتیجے میں
 ہندوستان میں کانگریس جنمے چکی تھی وہ ایک چھوٹی سی خنڈی چنگاری تھی جو اقتصادی
 اور سماجی بدحالی کی ہوا میں کھا کر شعلہ جو الابن گھٹی اور ابھی زیادہ وقت
 نہ گزرا تھا کہ ہندوستان کے عوام اس کی طرف پر امید بمحاذ سے دیکھنے
 لگے۔ اس وقت اس کو نہ پوری طرح سے اونچے طبقے کی ہمدردی حاصل
 تھی اور نہ پچھلے طبقے کے لوگ اس میں شریک تھے۔ برطانوی راج کے
 فیضان سے فرقہ دارانہ جماعتیں بن رہی تھیں اور بیسویں صدی کے آغاز
 ہی میں مسلم لیگ، ہندو ہما بھا وغیرہ۔ فرقہ داریت کے جھنڈے کے
 میدان میں اترتے آئیں۔ یہ انگریزوں کی بڑی زبردست فتح تھی کیونکہ ایک
 طرف اس سے قومیت کا مورچہ کرو رہا تھا، دوسری طرف عوامِ انسان
 اپنے اقتصادی اور سماجی مسائل کا حل انھیں نہ میں جامعتوں میں
 ڈھونڈھتے تھے اگر بیسویں صدی کی ابتداء میں ہندوستان کی حالت کو دیکھا
 جائے تو ظاہر ہو گا کہ سیاست اور فرقہ داریت کو ملا کر اصلاح کی طرف
 پیش قدمی کی کوشش بھی اسی طرح جاری تھی جس طرح سے قوم پرسی کے
 مورپھے کو مستحکم کر کے اس بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تلوہی ہونے
 اور فرقہ پرست ہونے میں بڑا فرق ہے اور ہندوستان کی تاریخ میں
 اس فرقے کی بہت سی شاییں مل سکتی ہیں۔ کئی مذہبی نظریہں غیر ملکی حکومت
 کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں شامل تھیں، مگر فرقہ پرست جماعتیں
 کسی بُرے کسی صورت سے انگریزی راج کی مددگار ثابت ہوتی تھیں ماردو

شاعری میں بخشیر آزادی کی لہراوی خپی اور فرقہ پرستی کا رنگ پھیکا ہے۔ اس وقت کے دو بڑے شاعر شبیلی اور انگریزی راجح کے خلاف انہمار جذبات میں کسی سے پیچے نہ تھے۔ مولانا شبیلی جن کا ذکر نہ تنگاروں کے ساتھ آئے گا، فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر تھے۔ مسلم یگ بن چکی تھی اور مسلمانوں کو متعدد قومیت سے دور کیجئے کی کوشش کر رہی تھی۔ مولانا شبیلی نے اپنی بہت سی نظموں میں بڑے جوش اور قوت سے مسلم یگ کی تنقید کی۔ وہ انگریزی راجح کی مخالفت ایک مددبی فریضہ بھی جانتے تھے اور مسلمانوں کو جگاتے ہوئے انھیں غلامی کے بندھنوں کو توازنے کی نصیحت کرتے تھے۔ ان کے کلام میں طنز کی مقدار زیادہ ہوتی تھی کیونکہ دشمنوں پر حوصلہ کرنے میں طنز ایک بڑا ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ ان کے اسی رنگ کو کچھ دن بعد مولانا ناظر علی خان نے چمکایا اور سیکڑوں نظموں میں انگریزی حکومت اور اس کے مظالم کی شدید تنقید کر کے بار بار جیل گئے۔ مولانا بھی نے بہت سی نظیں نہیں تکمیل کیں پھر بھی ان کا مجموعہ کلام قابل مطالعہ ہے۔ انہوں نے ایک شنوی صبح اسید، بھی بھی ہے، جس کا موضوع مولانا جائی کے مدرس سے متأجلا ہے۔ ان کی نظموں میں 'عدل جماں گیر'، اور تہراشتو اسلام، مشور ہیں۔ مثال کے لیے کچھ شعر قبول میں دیے جاتے ہیں۔ انگریزی کو خالی کر کے کہتے ہیں:-

کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو
یہ ظلم آرائیاں تاکے یہ حشر انگریز یاں کتبک
یہ ماناتم کو تلواروں کی تیزی آزمائی ہے
ہماری گردنوں پر ہو گا اس کا امتحان کتبک
پیمانا قصرِ غم سے تھا را جی بلتا ہے
نا میں تم کو اپنے درد دل کی داستان کتبک
سمکھ کریا کہ دخند ھلنے سے نشان زنگاں ہم ہیں
مشاؤ گے ہمارا اس طرح نام و نشان کتبک

اکبر ال آبادی جن کا پورا نام سید اکبر حسین تھا مزاج و نظر انقی کے عظیم شراء میں شمار ہوتے ہیں وہ ۱۷۸۰ء میں ال آباد کی تحریک بارہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے زمانے کے دستور کے مطابق چھوٹے مکتبوں میں حاصل کی اور کھنچھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی کیں جس میں مختاری کے امتیاز میں کامیاب ہوئے اور نائب تھیسیلدار بنادیے گئے جنکے ۱۷۹۰ء میں ہاتھی کورٹ میں ایک جگہ مل گئی اور انہوں نے دکالیخانہ کا امتحان پاس کر لیا۔ کچھ دست تک دکالت کر کے سب بچ ہو گئے اور تک ۱۹۰۳ء تک کسی نہ کسی شکل عدالتیہ سے متعلق رہے۔ اسی درمیان انھیں خان بہادری کا خطاب بھی مل گیا تھا اور ال آباد یونیورسٹی کے فیلو بھی چن یہ گئے تھے۔ اکبر کی موت ۱۷۹۲ء میں ہوئی اور ال آباد میں دفن کیے گئے۔

اکبر و حیدر ال آبادی کے شاگرد تھے جوزیاہ تر غزلیں کرتے تھے، غالباً اسی اثر سے اکبر بھی شروع میں غزلیں ہی سمجھتے تھے۔ جن میں کبھی کبھی تصوف کے خیال ہوتے تھے۔ نیادہ تر کھٹو کارنگ ان پر چھایا ہوا تھا۔ جوانی میں سوتی سے بھی انھیں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور کچھ دوست ایسے مل گئے تھے جن کی صبحت میں بھے راستوں پر چلنے لگے تھے۔ مگر ان کے مزاج میں ایک طرح کی نسبتی اس طرح رہی ہوئی تھی کہ وہ بہت جلد سنبھل گئے۔ مذہب اور اس کے رسوم کو ہمیشہ اپناتے رہے۔ عقائد پران کو دل سے اعتقاد تھا، شاید اسی وجہ سے مزاج کے طرافت پسند ہونے پر بھی غیر معمولی دلچسپی ظاہر کرتے رہے انہوں نے ۱۷۸۰ء کے آس پاس شاعری شروع کی۔ ان کے تین مجموعے کھنچ بار شائع ہو چکے تھے۔ چوتھا مجود ان کے انتقال کے بعد چھپا کچھ اور نظریں اور مضامین ان کے خاندان میں موجود ہیں۔

اکبر کا حمدہ دستانی زندگی میں خلیفہ تبدیلیوں کا دور تھا اور اکبر کی بڑائی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کی مختلف اقسام کی جدوجہد کو شعوری حریثے سے سمجھنے کی کوشش کی اور چھوٹے بڑے بھی واقعات کو اپنی شاعری کاموں پر بنایا۔ یہ ایک نئی تحریر کی حقیقت پسندی تھی جس میں روز ہونے والی باتوں

کو ظرافت اور طنز کا بس پہنا کر خوبصورت تفہم کی شکل میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔

اکبر جب جوان ہوئے تو پنڈ وستان پوری طرح انگریزوں کے قبضے میں آپکا تھا اور قدر کی مصیبتوں کے بعد مسلمانوں کا متوسط طبقہ انگریزی راج سے سمجھوتہ کر چکا تھا۔ اکبر بھی سرکاری نوکر بن چکے تھے، مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ملک کی بدحالی ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ نئی زندگی کے سائل اتنے ہی پیدا تھے کہ اکبر بھی ان سے منہ موڑ کے ماضی کی طرف لوٹ جاتے تھے اور اسی کے تھنگ مگاکے اطمینان حاصل کر لیتے تھے اور کبھی اس کے سامنے شکست خورده ہو کر ماں یوسی کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ شروع میں ان کے بیان مزاج اور طنز کا پتہ نہیں چلتا، مگر ^{حکایت} کے بعد سے انہوں نے اسی کو اپنی شاعری کا خاص ذریعہ بنایا۔ اکبر کی تعلیم جو کچھ تھی اور جن ردایات کے درمیان انہوں نے آنکھیں کھو لی تھیں اور وقت کی حالت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھیں، اس لیے وہ علم کے بدے باطنی تحریک پر بھروسہ رکھتے تھے اور اسے خیالوں ہی کی مدد سے عصر نوئے سائل کو حل کر لینا چاہیتے تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات میں مشرق و مغرب میں ایک معین تقسیم کر لی تھی اور سارے اخلاقی اور مذہبی اوصاف ان کو پورب ہی میں دکھانی پڑتے تھے۔ مغرب صرف اپنی حیوانی طاقت کی بنابری مشرق کا گلاں گھوشت رہتا۔ انھیں یہ بھی اندریشہ تھا کہ مغربی اثر صرف ملک کے مادی ذرائع کو بھی تباہ نہیں کر دے گا بلکہ اس کی روحا نیت پسند مزاج کو بھی ملیا میث کر ڈالے گا، اس لیے ان کے قلم میں جتنا ذریان کے خیالوں میں جتنا جوش اور ان کے انفاظ میں جتنا ازہر تھا۔ ان سب سے کام لے کر اکبر مشرق کو مغرب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اکبر یہ جانتے تھے کہ اس طوفان کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ عملی زندگی میں مغرب کے آئے ہوئے خیالوں سے فائدہ اٹھانا ناگزیر تھا۔ اسی لیے ان کے بہت سے خیال رجعت پسندوں سے مل جاتے ہیں۔ وہ کسی عالم میں بھی سائنس اور نئے خیالات کو سودمند نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک طبع

کی مشایت پسندی تھی، جو زندگی کے رو حادی نقطہ نظر کا شرہ کمی جاسکتی ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف کا بھی کچھ حصہ تھا، وہ بھی انھیں مشایت پسند نہیں تھا۔ وہ زندگی کی تبدیلیوں کو حیر جانتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جو لوگ نئے شعور کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اخلاقی اصولوں پر ضرب لگا رہے ہیں۔ ان فحیالوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انگریزی زبان و ادب کے فیضان سائنس کی واقفیت، خواتین کی آزادی اور تعلیم، مشین ہر چیز کے خلاف ہو گئے۔ وہ ڈارون، اسپریٹ وغیرہ کی منہی اڑاتے تھے اور متقدہ پر ماقابل شکت اعتقاد رکھنے کے باعث بدلتی ہوئی صورت حال کی تحقیق سائنسی اعتبار سے نہیں کر سکتے تھے ان کا آخری سوار انہوں ہب تھا اور جہاں کہیں سے بھی اس پر چوت پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس کی مخالفت کرتے اور طنز کے تیر چلاتے تھے۔

اگر کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے انگریزی راج کی معاشی بوٹ گھسٹ کو اچھی طرح سمجھا تھا۔ وہ ان کی تہذیب کی خارجی صورت کو ایک تقلی پاش سمجھتے تھے۔ ان کی فرقہ پرستی پیدا کرنے والی مناسی کا پول کھوتے تھے۔ اس طرح مزاح کے اوٹ سے وہ انگریزی راج پر نہایت نور دار حلہ کرتے تھے۔ اور سرکاری ملازم ہوتے ہوئے بھی منہ میں آئی ہوئی بات کھنے سے نہ چوکتے تھے۔ ان کو اس بات کا احساس صفر در تھا کہ وہ دل کی بات کھل کر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک شعر میں کہتے ہیں،

درخواہ گورنمنٹ اکبر سے اخراج نہ ہوتا

اس کو بھی آپ پاتے گا انہی کی گوپیوں میں

اگر کی تخلیقات کو بخوبی سمجھنے کے لیے ذہب اسلام، مسلم ثقافت، ہندوستان کی تاریخ اور بھیوں صدی کے سیاسی اور صابوی واقعات کا جانتا اشد ضروری چکیوں کے منہی سبھی میں وہ ایسی باتوں کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں جنہیں بنے بغیر ان کے طنز سے بطف نہیں بیا جاسکتا۔ وہ انگریزی، ہماری، عربی اور ہندوی الفاظوں کا استعمال بڑی آزادی سے کرتے تھے اور اپنے دل کی بات

کسی مذکوری مذاقیہ رنگ میں نظر ہرگز نہیں تھے۔ اکابر اردو کے ایک غلطیم شاعر اور
مزاج کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں شال کے لیے یہ شعر دیکھئے:-
ہر چند کہ کوٹ بھی ہے پتوں بھی ہے بخکھ بھی ہے پاٹ بھی ہے صابون بھی ہے
لیکن یہ میں تجوہ سے پوچھتا ہوں مہدی یورپ کا تری رگوں میں کچھ خون بھی ہے

گویوں کے زور سے کرتے ہیں وہ دنیا کو ہضم
اس سے بتراس غذا کے واسطے چورن نہیں
کیا کہوں اس کو میں بدنجھی اشیش کے سوا
اس کو آتا نہیں اب کچھ اشیش کے سوا
توم کے غم میں ڈنگ کھلتے ہیں حکام کے ساتھ
رنخ لیدر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ
ہم کیا کمیں احباب کیا کارِ نمایاں کر گئے
بی اے ہوئے تو کر ہوئے پشن طی اور مر گئے
کوئی میں جمع ہے نہ ڈپارٹ ہے ملکیں میں
قلاش کر دیا مجھے دوچار تھینکس نے
کر دیا کر زن نے زن مردوں کی صورت دیکھئے
آبر و چہرے کی سب فیشن بن کر چین لی
پا کر خطاب ناچ کا بھی ذوق ہو گیا

اسر ہو گئے، تو بال کا بھی شوق ہو گیا
بیویں صدی کے شروع ہولے کے تھوڑی ہی مدت پہلی سے اتنے شاعر اور
صنف سامنے آئے لگتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ہی کامنڈ کر کیا جاسکتا ہے۔
سیاہی، سماجی اور فلسفیانہ نظروں کے ساتھ ساتھ غزل بھی نئے سانچے میں
ڈھن دیتی تھی اور کچھ نامنده شاعر مرف غربلوں ہی کے ذریعے زندگا کے مسائل
پیش کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر اور ان کا شور غزل کے ان شراء سے
مختلف تھا جو اس ہمچلے گزر چکے تھے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غزل میں جو

تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کا پتہ صاف طور سے نہیں چلتا، پھر بھی جب ہم عمر جدید کی غربوں کا مطالعہ کریں گے تو ان میں نئی آواز اور زندگی کے نئے مسائل کی نسبت نیا نقطہ نظر ملے تھا اس موقع پر صرف انہیں کے مارے میں کچھ کہا جاسکے گا، جو متاذ سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت کے شعراء میں کھٹی ایسے بھی ہیں جو غزل اور دوسرے اصناف کی نظموں دونوں ہی کی تخلیق میں کامی ہیں مگر ان کی شہرت حقیقتاً کسی ایک ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے پنڈت رتن نا نامہ سرشار شاعر بھی تھے مگر صرف نشر بگار سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح نشی در گاسہائے مترور، پنڈت برون رزاں چکبست اور ڈاکٹر اقبال و عینہ بڑی صورہ غزلیں بھی لکھتے تھے مگر ان کی شاعری کی خصوصیات ان کی نظموں میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔

درگا سہائے سرور جہان آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کے گھر میں ہمیشہ سے طبابت ہوتی تھی اور فارسی بھربی اور اردو کا بھر جاتھا۔ ہیں ۱۹۴۷ء میں وہ پیدا ہوئے ان کی ماںی حالت اپنی نہ تھی، مگر وہ خود داری کی وجہ سے اسی زندگی میں بطف اٹھاتے تھے وہ لڑکپن ہی سے نظیں لکھنے لگئے تھے جو اردو کے مشہور رسالوں میں شائع ہوتی تھیں۔ شراب پینے کا ایسا چکا پڑ گیا تھا کہ اس سے ان کی تندرستی بالکل تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ سینتیس سال کی عمر میں ۱۹۶۲ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ستور کے کلام میں ایک طرح کے غناک ماحول کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی جذبہ باتیت یا توپوری طاقت سے جب الوطن کے خیالات ظاہر کرتے وقت ابھر آتی ہے پاسی المناک کیفیت کی مخصوصی کرتے وقت۔ انہوں نے نہ ہی اور تاریخی مسائل پر بھی بہت سی نظیں لکھی ہیں، کچھ نظموں میں حسن فطرت کا بیان بھی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ ستور انگریزی زبان کم جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے تقریباً بیس انگریزی نظموں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ انگریزی شرارکی خصوصیتیں ملنے نہیں پائی ہیں۔ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے شاعری ہی میں مگر رہتے تھے اس لیے

تھوڑی سی عمر میں ہی انہوں نے بہت کچھ کہہ ڈالا تھا۔ ان کے دو مجموعے
جام سرور، اور خم خانہ سروز شائع ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے رنگ
کو آگئے ٹھڑھانے اور حب الوطنی کے خیالات کو بڑھا دادیتے ہیں سرور کی
تقطیعوں نے بڑا حصہ لیا۔ پھر میں فارسی زیادہ پڑھنے کے باعث ان کی
نیاب فارسی سے گرانیاں اور مشکل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تشبیہوں
اور صفتتوں کے استعمال نے اسے اور دشوار بنادیا ہے۔ منوں کے لیے کچھ شعر
دیکھیے:-

کسی مست خواب کا ہے عجت انتظار سو جا
کہ گزر رحمی شب آدھی، دل بے قرار سو جا
پیسیم ٹھندی ٹھندی یہ ہوا کے مست جبو نکے
تجھے دے رہے ہیں لوری مر غم گار سو جا
یہ تری صدائے پیسیم تجھے متہم نہ کردے
مرے پر دار سو جا، مرے راز دار سو جا
مجھے خون ملا رہا ہے، ترا دم بدم تڑ پنا

ترے غم میں آہ کبھی ہوں میں شک بار سو جا
نشی جوا لا پرشاد بر ق، ہمارا جہش پرشاد شاد، پنڈت امر ناتھ سا ہجر
دفیرہ بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان میں جواہمیت چکبست اور اقبال
کو میسر ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ پنڈت برج نرائش چکبست لکھنؤ کے ایک
کشیری بہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ معلمہ ہے میں پیدا ہونے اور
شناخت میں کینگ کالج سے ہی، اے ایں بی پاس کر کے شناخت میں
وکالت شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ بیان کے سر برآ اور دوہوکلا
میں شمار ہونے لگے ۱۹۲۰ء میں نامگہانی طور سے ان کا انتقال ہو گیا چکبست
اپنے اڑکپن سی سے شاعری کرتے تھے۔ آتش، فاصلت اور انیس کے کلام کا
مطالعہ بڑی دلچسپی سے کرتے تھے اور انھیں سے تاثر بھی ہوئے تھے۔ اس
وقت ہندوستان کی سیاست میں جو ہل چل برپا تھی اور آزادی کی جگ

جس منزل پر تمی چکتی کی شامروں اس کی علامت کہی جاسکتی ہے۔ قومیت نے جزو تو پکڑ دی تھی مگر ابھی انگریزی راجح سے آزاد ہونے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، جو انھیں دیس سے بمال باہر کرے، اس لیے چکتی بھی انگریزی راجح کے ساتھ ہی میں، نہوم روں حاصل کرنے کا پند دیتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد اور حب الوطنی سے ان کی نظیں ببریز ہیں۔ ان دلوں خیالات کو انھوں نے اتنی پُر نزد تخلیقات میں پیش کیا ہے کہ اس وقت تک ان کی برابری کرنے والے شاہر بہت کم دکھائی پڑتے ہیں۔ بڑے بڑے قومی رہنماؤں کے اسیر ہو جانے اور انتقال پر انہوں نے بڑی پُر اثر تخلیقات کی ہیں۔ اور تک کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک دینے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ آزادی خیال کے بڑے بچاری تھے اور اس وقت تقریر و تحریر پر جو پابندیاً طاید کی جاتی تھیں ان کی مخالفت بڑے زوروں سے کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ نہ ہی اور اخلاقی اصلاح سے تعلق رکھنے والی نظیں بھی کہی ہیں۔ لیکن اگر سب کو ملا کر دیکھا جائے تو ظاہر ہو گا کہ وہ اس وقت کو دیکھتے ہوئے ایک انقلابی شاعر تھے اور کبھی تک کے قدم ناموس کی یاد دلا کر کبھی حصہ عہد کی اقتصادی تباہ حالی کی تصور کر کے تبعی کبھی مستقبل کا اندازہ لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ ان کی زبان سختوں کی صاف و شستہ زبان تھی جلپت بڑے اچھے شرخوار تھے اور ان کے مضامین کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس سے ان کے علم، قوت، تنقید اور تاثر تھی و سماجی نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے زپا مجموعہ کلام، سیاست و طن، شاخ ہونے کے لیے بیع دیا تا مگر وہ ان کی رحلت کے بعد نکلا۔ یہ مجموعہ دیوان اگری درسم خط میں تھی طبع ہو چکا ہے۔ تک کی تعریف میں ایک نظم کے کچھ حصے دیکھیے، لئے خاک ہند تیری خلفت میں کیا گا ہے دیلائے فیض قدرت تیرے لیے لاں ہے تیری جبیں سے نورِ من ازل ہیاں ہے اللہ کے ذیب و زینت کیا اونچ درود شان

ہر صحیح ہے یہ خدمت خود خیل پر میں
کرلوں سے گوہ حطا ہے چوٹی ہمایہ کی

گوئم نے آبرودی اس معبد کمن کو سردا نے اس زمیں پر صد قے کیا طن کو
اکبر نے جام الفت بخشا اس آنجن کو سینیچا ہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو
سب سورہ رانے اس خاک میں نہان ہیں
ٹوٹے ہوئے کھنڈ رہیں یا ان کی ٹڈیاں ہیں
برسون سے ہورہا ہے برمہ سماں ہمارا دنیا سے مٹ رہا ہے نام و نشان ہمارا
کچکم نہیں اجل سے خواب گراں ہمارا اک لاش بے کفن ہے ہندوستان ہمارا
اس کے بھرے خزانے بر باد ہورہے ہیں
موت نصیب خواب غفلت میں ہوئے ہیں

اردو ادب کا موجودہ زمانہ نثر کا زمانہ کہا جاسکتا ہے، مگر اسی عصر نے
لیے شاعر بھی پیدا کیے جو زندگی کے مسائل کو سمجھنے میں فلسفہ اور منطق آمیختے
اور سماجی سائنس سے کام لیتے ہیں۔ ان کی شاعری نوع انسانی کے سبب
ویسے ہی سماجی اور اقتصادی یحیاں پیش کرتی ہے جیسے کوئی صاحب فکر
مصنف اپنے مقابلوں میں بحث و نظر کے بعد پیش کرے گا۔ شاعر کا وسیلہ
تصور اور رجہ باتیت ہوتی ہے۔ انھیں کے ذریعے وہ زندگی کی گہرائیوں
میں اترتا ہے اور داخلی کشکش کا پتہ لگاتا ہے، جو نوع انسانی میں سماج
اور فطرت کی ناصافیوں کے خلاف پیدا ہوتی ہے، اس کا سب سے اچھا اور
تفہیم بیان ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں ملتا ہے۔ بھی اس باب سے اقبال کی تخلیقا
بحث مباحثے کا موضوع بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو مسلمان رجعت
پسند انھیں اپنی طرف کھینچتے اور اپنا یسٹر بنا نا چاہتے ہیں دوسری طرف ہیں
ترقی پسند ان کی نظلوں میں اتنا نیت کے نتے یعنی نگفت اور بیداری پاتے
جسے کسی خاص ذریب سے دا بستہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور تمیری طرف یہ نزاع
انہ کھردی ہوتی ہے کہ انھیں ایک شاعر کی شکل میں دیکھا جائے یا فیسوق
کی شکل میں۔ یہاں اس بحث میں پڑ نا ممکن نہیں ہے کیونکہ اقبال کی تخلیقا
میں اتنے مددگاری، سماجی، تاریخی اور فلسفیا نہ دھارے آ کر لئے ہیں کہ ان کا
تجزیہ دوپار صفحوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ بعض ان کی شاعری کی حصلہ چیزوں کا

او خصوصیتوں کا تعارف اختصار سے کرایا جا سکے گا۔ انحریزی اور اردو میں چھوٹی بڑی سیکڑوں کتابیں اقبال پر بخچکی ہیں اور جو شخص بھی تنقیدی مطالعہ کرنا چاہے گا اسے بہت کچھ شریحتنا پڑے گا۔

اقبال ۱۸۷۷ء میں سیالکوٹ (پاکستانی پنجاب) میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بزرگ کشمیری برہمن تھے۔ اقبال نے اپنی نظموں میں بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ میں حاصل کی پھر لاہور چلے گئے۔ دوران تعلیم میں وہ اپنی درسگاہ کے سب سے اچھے طلباء میں شمار کیے جاتے تھے۔ فلسفے میں ایم، آئے کی دگری حاصل کر کے وہ خصوصی تعلیم کے لیے لندن گئے، وہاں انہوں نے بیرشیری بھی پاس کی اور جرسنی سے فلسفے میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی دگری بھی نی۔ یورپ کا سفر ان کی زندگی کی انقلابی تبدیلوں کا منظر ہے۔ اس نے سیاست اور زندگی کے سبھی شعبوں میں ان کا نقطہ نظر ایک دم بدل یا دہاں سے پٹ کر لاہور میں بیرشیری کرنے لگے تھوڑے زمانے کے لیے ایک کابج میں پروفیسر بھی ہو گئے۔ تھوڑا بہت پنجاب کی سیاست میں بھی حصہ لینے لگے ۱۹۲۰ء میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے خول میز کافرنس میں شریک ہونے لندن گئے ان کی محنت برابر خراب رہا کرتی تھی ۱۹۳۶ء سے حالت بگزتی تھی اور اپریل ۱۹۴۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

اقبال کی زندگی میں بہت سے اتا رچڑھاؤ نہیں، میں مگر ایک صاحب فکر شخص ہونے کی وجہ سے اندر سی اندر ان میں زبردست کشمکش اور تبدیلی ہوتی رہی تھی اور وہ دنیا کے تمام واقعات سے متاثر ہوتے رہے تھے۔ ان کا بچپن ایک ایسے باپ کی سرپرستی میں گذر راجو مدد کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور فارسی کی ندر سی کتابیں اقبال سے پڑھا کر سنتے اور ان کے روز پر تبادلہ خیال کرتے۔ اقبال کو ایسے اتادبی ملتے گئے جنہوں نے ان پر گمراہ ڈالا۔ وہ مسلمانوں کے متوضطیتے میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی نجماہ سے زندگی کے مسائل کو دیکھتے تھے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے واقعات اور عظیم تبدیلیاں ہو رہی تھیں مسلمانوں میں ایک طرح کی بیداری پیا۔

ہو چکی تھی جوان کے دل کو کسی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہندوستان کے باہر مسلمان
حاکم پر تباہی کے بادل چھائے ہوتے تھے اور لگ بھگ سبھی ملک یورپ
کے پروں تک پھلے جا رہے تھے۔ یورپ کی تہذیب، ایشیا کی تہذیب کو تباہ
کر رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسان میں اخلاقی فضائل کے انتساب
کی طاقت ضائع ہو چکی ہے۔ اقبال ان سب باتوں کو سمجھتے تھے اور جب انھیں
یورپ میں جا کر رہنے اور دہل کے حکمران طبقے کے خیالوں سے آتنا ہونے کا موقع
ٹا تو یہ بات انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی یورپ کس طرح مالک ایشیا کا
خون چوس لینا چاہتا ہے اور اپنی تہذیب پھیلانے کے بھانے ان کی قوت نفس تباہ
کر دینا ضروری سمجھتا ہے جس سے اسے سپاہ دہل کا ملک پر اپنا قبضہ جائے رکھنے میں سافی ہو۔
ہندوستان میں قومیت کا وجود بہ بڑھ رہا تھا شروع میں اقبال اس
ہر فریقتہ تھے مگر یورپ جا کر انھیں ایسے خیالات سے واسطہ ٹڑا اور قوموں
کو آپس میں جگڑتے دیکھ کر دہ قومیت سے اتنے بد دل ہو گئے کہ انہوں نے
بیک نظر حب الوطنی اور قومیت کو نوع انسانی کے اتحاد و ترقی کے لیے بہت
نقصان رساں بتایا۔ اس کے بہت سے اسباب تھے مگر انہوں نے جس ماحول
میں اسے پوری طاقت سے پیش کیا اس نے ان کے خلاف اور طرح کے شہر پیدا
کر دیے۔ رفتہ رفتہ وہ رجھت پسند مسلمانوں کے لیڈر سمجھے جانے لگے کیونکہ
ان کے خیالوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کسی شخصی طرح سے
ہندوستان کے دوسرے فرقوں سے الگ رکھنا اور ان کا رابطہ باہر کے
مسلمانوں سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے ان خیالات کو غسلیا نہ صورت
میں پیش کیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، مگر
دنیا کی بھروسی ہوئی دوسری قوموں اور بالخصوص مسلمانوں کو ہر طرح کے منظام
سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کشش ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کی
جنگ آزادی کے متعلق ان کا فقط و نظر کیا تھا۔ اس میں شہر نہیں کہ انہوں
لے حفاظ طبقے سے کبھی ان خریجوں کا ساتھ نہیں دیا، جو ملک کی آزادی
کے لیے بزرگ آزمائیں اگرچہ انہوں نے سب نوع بشر کی روحانی آزادی

اور ترقی کے متعلق بہت فیاضانہ اور اعلیٰ خیالات ظاہریکے ہیں۔

اگر اقبال کی تخلیقات کا مطالعہ تاریخی جیشیت سے کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ ان روزایات کو آگے بڑھا رہے تھے جنہیں سرستید اور حالی کی اصلاح پسند تحریک نے جنم دیا تھا۔ ان کی شاعری میں ایک ہر ایسی بھی تھی جو اکبرالہ آبادی کی یاد دلاتی ہے اردو کے سمجھی شعراء کی طرح انہوں نے بھی شروع میں غرب لیں بھی تھیں اور اپنا کلام داغ دلپوی کو دکھایا تھا۔ مگر تغوری ہی تدبیت گورنے کے بعد انہوں نے اپنی راہ آپ بنالی اور ۱۸۹۹ء میں اپنی پہلی ہم نظم سماییہ بھی۔ اس کے بعد حسن قدرت، ہندو مسلم ایکتا اور زندگی کی داخلی کشمکش پر بڑی دلچسپ تخلیقات کیں۔ ان میں ایک صاحب فکر انسان کا وہ تحریر ہے جو وہ چاروں طرف بھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ظاہر کرتا ہے اور ہر چیز میں زندگی کے اسرار کو تلاش کرتا ہے۔ یہی ابتدا نے تحریر آگے بڑھ کر فلسفیات اور روحانی سرگذشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر بن جاتے ہیں۔

اقبال کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے فلسفے، مذہب، سُنن، تاریخ اور سیاسی صورتِ حال ہر ایک بات سے پوری طرح آشنا تھے۔ ان کے سمجھنے کے لیے محض اسلامی خیالات سے بخوبی واقفیت ضروری نہیں، بلکہ دوسرے سمجھی غلطیم مذاہب، ان کے خیالوں اور عصری سائنسوں کا جاننا بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی فلسفیوں کے علاوہ افلاطون، پیشتر، برگسائی اور آنیتائٹن سے اچھی طرح آشنا نہیں ہے وہ اقبال کی شاعری کو نہیں سمجھ سکے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ اقبال نے فقط مشهور فلسفیوں کے خیالات کو نظر کی شکل میں لکھ دیا بلکہ کہیں کہیں ان سے اختلاف ظاہر نیا ہے، ان کی تنقید کی ہے اور ان کے انھیں خیالات کو قبول کیا ہے جو ان کے نقطہ نظر کو مضبوط بناتے تھے۔

ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اختیار اسے ساتھ یہ بتانا و شوار ہے، مگر تعارف

کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایسا فبطاو نظم اور نظم و نشق چاہے تھے جس کی اساس اسلامی اصولوں پر ہو، جبکہ میں ایکتا ہو اور نوع انسانی میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو۔ انسان صرف اس دنیا ہی پر نہیں چاند، سورج اور ستاروں پر بھی اقتدار حاصل کر لے۔ اس کا باطن پاکیزہ اور دنیا کی کسی مادی قوت کے سامنے وہ اپنی پیشائی ختم نہ کرے۔ انسان کو یہ اختیار ہو کہ وہ دنیا میں جیسی زندگی بس رکنا چاہتا ہو اسی کے مطابق اپنی تنظیم کرے، مگر اسے تمہی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کی روحانی قوت لا محدود ہے اور اگر وہ اس سے کام لے اور رضیط نفس پر چل کر اسے ترقی کرنے کا موقع فراہم کرے تو وہ خدا کے تعمیری کام میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان سے اشرف کوئی چیز نہیں پیدا کی اور کائنات کی تخلیق بھی اسی کے منقاد میں کی ہے۔ اس روحانی تخلیل معلوم ہونے لگتا ہے اور یہ سمجھو میں نہیں آتا نہ اس کی ترقی کے وسائل کیا ہیں۔ یہی بات ان کو حقیقت پسندوں سے ہٹا کر مشایست پسندوں کے خردیک کر دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری تبلیغات حقيقی مادی زندگی میں نہیں بلکہ صرف خیالی دنیا میں چاہئے تھے۔ اقبال صوفیوں کے اس خیال کی شرید مخالفت کرتے تھے کہ انسان کو اپنی خودی کو مٹا دینا چاہیے جس سے وہ ذات خداوندی میں مل سکے۔ اس کے برخلاف اقبال یہ سمجھتے تھے کہ خدا انسان کو اسی وقت اپنے قریب آنے دیتا ہے جب وہ اپنی تمام طاقتتوں کو کام میں لا لے اور انھیں ترقی کر کے اپنے اندر وہ فضائل پیدا کرے جو اپنی کامل ترین شکل میں خدا ایں پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی اقبال کے یہاں ایک نئے طرح کا تصوف دکھائی پڑتا ہے، جس کو ہم عصر حاضر کے روحانی خیالات کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے زندگی کے ہر بینہ و مسئلے پر نگاہ ڈالی ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا موضوع ہو گا جس پر انہوں نے نظر نہ سکھی ہو۔ خاص کر انہوں نے روحانی قوت، عرفان انسانی اور ہمہ صفات موصوف موصوف۔ فوق البشر فطرت پر انسان کا اقتدار، فرد

اور مذہب و معاشرہ سے اس کا تعلق، مشرق و مغرب کے فلسفے وغیرہ پر اردو میں بہت سی نظریں لکھی ہیں اور اپنے انگریزی خطبات میں بھی ان پر دقیق خیالات ظاہر کیے ہیں۔

اردو میں اقبال کے صرف چار مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، فرکلیم اور ارمنیان جماز، فارسی میں ان کی کھنی کتابیں ہیں، جو اردو مجموعوں سے زائد اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی زبان آسان نہیں تھی بلکہ وہ جس طرح کے خیال ظاہر کرتے ہیں ان کے لیے وہی شیخیک کہی جاسکتی ہے۔ جایات کے اعتبار سے ان کی بہت سی تخلیقات اردو فارسی توکیا، دنیا کی کسی زبان میں اپنی جگہ بناسکتی ہیں۔ اقبال انسان کی طاقت پر پورا اعتقاد رکھتے تھے اور رات کے مستقبل کے لیے گیت لگاتے تھے کہ انھیں جو بھی پڑھے ہے ان خیالات کے ترجم اور بہاؤ میں بنتے گے۔ ان کی پوری پوری نظریں یہاں نہیں دی جائیں، ادھر ادھر سے کچھ شر شال کے لیے نکھلے جاتے ہیں:

کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں ہے
دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کر دو تو جائے آسمان میرے مانے کے لیے
نہ پوچھو مجھ سے لذت خانہاں بر باد رہنے کی

شیخین سیکڑوں میں نے بن کر بچونک ڈالے ہیں
بخلاف ہمی تری ہم سے کیون کرے واعظ کہ ہم تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں
شکنی بھی شانست بھی سمجھتوں کے گیت میں ہے

دھرق کے باسیوں کی مکتن پرستی میں ہے
مردی اور ملک سے انہم سہے جاتے ہیں

کہ یہ نوٹا ہوا تارہ مہ کا مل نہ بن جائے
د تو زمیں کے لیے ہے م آسمان کے لیے جاں ہے تیرے لیے تو نہیں جاں کے لیے
تاروں سے آگے جاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
بیسویں صدی میں بہت سے ایسے شاعر پیدا ہوئے جو اردو ادب کی تاریخ میں جگہ پانے کے مستحق ہیں۔ ان میں کچھ کا بیان کیا جا چکا ہے اور کچھ ایسے ہیں

جن تر فصیل سے لکھنا اس کتاب میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تخلیقات قابلِ مطالعہ نہیں۔ شاد عظیم آبادی، جو الا پرشاد برق، نوبت رائے نظر، ہمارا نجہاد برق، جگت موسن لال روآن، امرنا تمہارا حرمیاض خیر آبادی، مولانا ضفیٰ، فاتح، عزیز، شاقبت، سائل، آرزدی، سیماں، اصغر گوہڈوی، ظرفی، حضرت مولانی اور ترلوک چند محروم، جگر مراد آبادی، بیجانہ چیخیزی، اثر لکھنؤی کا انتقال ہو چکا ہے، ان میں سے کچھ ابھی تھوڑے دن چلے تک حیات تھے، مگر ان کو خاص وجہ سے ۱۹۳۴ء تک کے شاعروں میں گنا جا سکتا ہے۔ ان کے بیان عصر حاضر کا نیا پن تو ہے مگر وہ نیا شعور جو انقلاب میں مددگار ہوتا ہے یا روایت شکنی کی وہ ہمت جو عصریت کو جنم دیتی ہے۔ ان کے بیان شاذ و نادر بھی پافی جاتی ہے۔ بگے کے باب میں ان شاعروں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اس عہد کی بے چینی بے قراری، تھیل، خواب اور توقعات کی عکاسی کی ہے۔ مندرجہ بالا شعراء میں بیشتر ایسے ہیں جو غزل اور دوسرے اصناف کی نظمیں بھی لکھتے رہے ہیں اور اپنے زمانے کے رجحانات کو جدت و تازگی کی طرف موڑنے میں حصہ لیا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسم و رواج سے بندھے ہونے پر بھی اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں اور تاریخ میں اپنی جگہ بنالیتے ہیں۔ سید علی محمد شاہ عظیم آبادی بہار کے دریجہ یاد کے چوٹی کے افضل و شرعاً میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی مدت حیات ۱۸۷۸ء سے ۱۹۲۴ء تک ہے۔ انہوں نے نثر و نظم دوں کو انوں تخلیقاتیں عطا کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صیری بلکہ رامی کو اپنا کلام دکھاتے تھے مگر انہوں نے اپنا اتساد شاعری افت حسین فریاد کو مانتا ہے۔ شاد نے شنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسرے اصناف سخن میں تخلیق کی ہے، مگر ادبی نظر سے وہ اپنی غزلوں کے کیف، گلاؤٹ اور اصلیت کے باعث مشہور ہوئے۔ مرثیہ بخاری میں بھی انہوں نے بڑا نام کیا۔ نقادریوں کا یہ خیال مبنی بر معقولیت ہے کہ غزل کے روپہ اخاطر اثر کو سنبھالنے میں شاد عظیم آبادی کا خاص حصہ ہے انہوں نے

غزل کو نہ صرف بسما لا بلکہ اس میں ایسی نگین و شیرینی بھروسی کہ غزل پھر سے زندہ ہو گئی۔ ان کی تمام کتابیں ان کی حیات میں ہی شائع ہو چکی تھیں مگر غزوں کا دیوان "نغمہ الہام" ان کی وفات کے بعد سامنے آیا۔ اب تو ان کی خود تو قت نہ گزشت اور دوسرے کمی مجموعے بھی چھپ گئے ہیں۔ ان کے بہت سے نظریات سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی عصر حاضر کا غظیم شاعر مانا گیا ہے، یہ رائے تقریباً سمجھی نقادوں اور عالموں کی ہے۔ ان کی غزل کے کچھ شعر یہ ہیں ۔ ।

میں اور سیر لالہ دگل ہجرا یار میں کیسی بھار آگ گھادوں بھار میں
تناوں میں الجھا یا گیا ہوں کھلونے دے کے بسلا یا گیا ہوں
یہ نرم ہے ہو، یاں کوتاہ دستی ہیں ہے محربی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ما تھی میں میا آئیں
خود چل سی کوچے میں چلنا جو ہے اے پائے طلب

واں کوئی ما تھے پکڑ کر نہیں لے جانے کا

جب اب ہوش کتے ہیں افانہ آپ کا سنتا ہے دیکھ دیکھ کے دیوانہ آپ کا جوالہ بر شاد بر ق سیتا پور کے رہنے والے تھے جب تک پیونخ کے ۱۹۱۶ء میں قصہ عنصری خالی کر دیا۔ نثر و نظم دونوں کے لمحے میں کامل تھے۔ آسان زبان میں انہیں رخیاں انھیں خوب آتا تھا۔ بھار کے موسم پر ایک بڑی دلچسپ ثنوی لمحی ہے۔ مگر زیادہ تر اپنی غزوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔

نوبت رائے نظر، (۱۹۲۳ء۔ ۱۸۶۷ء) لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے۔ کمی درساں کے مدیر رہے لیکن ان کی زندگی بڑی دشواریوں میں گزری صحت بھی بہت خراب رہتی تھی، اس پر گھر میلوں زندگی کے انکار بھی گھیر رہتے تھے اپنے وقت میں نثر و نظم دونوں کے اچھے لمحے والوں میں شمار کیے جاتے تھے انہوں نے لکھنؤ کے مصنوعی زنج سے ہٹ کر شاہری میں اصلاح کی کوشش کی اور کامیابی ہوئے۔ وہ ظاہری حسن کے بدایے قلب کے درد باطن کا بیان کرنے کو شاہری سمجھتے تھے ان کے دو قیعنی شری ہیں،

ابھی ظراحت دشوار ہے عزم کی کشاکش ہے ادا ہو جائے تا یہ فرض بھی فصل انگریز

اب نہیں معلوم کیا دنیا میں ہے رنگ بار اک زمانہ ہو گیا چھوٹے ہوٹے گلزارے
 یوں تو دل کو کبھی قرار نہ تھا اب بہت بے قرار رہتا ہوں
 جیسا کہ پھرے باب میں مرض کیا جا چکا ہے۔ اس وقت کے تقریباً سبھی شاعر
 کسی بڑی طرح سے پرانے طرز میں اصلاح کی طرف بڑھ رہے تھے اور خاص کر
 سخن میں شاعری میں زبردست تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ
 اس وقت کے شرائے قدیم روایات کو با تکل ہی خیر باد کہہ دیا ہو مگر یہ ضرور ہے
 کہ وہ شاعری کو صرف لفاظی بننے سے بچانا اور اس کے ذریعے گھری بالوں کو پیش
 کرنا ضروری سمجھتے تھے کچھ شاعر ایسے تھے جو طرزِ کمن سے دور نہیں جانا چاہتے
 تھے جیسے پنڈت ساحر، صالح، بخود دغیرہ، مگر ان کا عیق مطالعہ کیا جائے
 تو معلوم ہو گا کہ ان کا شعور سبی پرانے شرا کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا تھا۔
 وہ پرانے شرامیں تیر، غالب، آتش، آئیں کا اتباع کرتے تھے اور نئے شرا
 میں حاتی، اقبال اور سرور نکا۔ چنانچہ ہمارا نجہ بجادہ بر ق (۱۹۳۷ء۔ ۱۹۴۰ء)
 جن کے گھر میں نئی پشت سے شاعری کی روایت چلی آ رہی تھی، انگریزی
 شرام کے علاوہ سرور جہاں آبادی سے متاثر تھے۔ انہوں نے غزل میں کم
 اور نظمیں زیادہ مکھی ہیں۔ زبانِ شکل اور فاتحی سے ملو ہوتی تھی۔ ان کے
 کلام کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں انھیں یہیں سے غزل کے دو تین شعر
 دیکھئے:

طرف سے ٹوٹ کے بھی ہونے نہ پائے بیکار
پوشکستہ کوئی شیشہ تو دہ پیا نہ بنے

کھلتی نہیں حقیقت دنیا نہ بے ثبات
 اک خواب سا ہے دیدہ حیراں کے سامنے
 صفحی سخنوی (۱۹۵۰ء۔ ۱۹۶۷ء) سخنون کے مشہور شاعر تھے۔ ان کی رحلت
 تو اس صدی کا نصف حصہ گزرنے کے بعد ہوئی مگر وہ اسی دور کے شرامیں
 محظوظ ہیں جن کا بیان ہو رہا ہے۔ فارسی عربی کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ
 وہ انگریزی بھی جانتے تھے اور انہوں نے سخنون کے رنگ شاعری میں بڑی تبدیلی

کی وہ کم و بیش سانچہ سال تک ہر طرح کی نظیں سمجھتے رہے اصول شاعری ہی کے شناساً نہیں بلکہ ان سبھی میں کامل تھے۔ اور مزاج ایسا منکر تھا کہ ان سے مل کر بھی مستفید ہوتے تھے۔ انھوں نے غربوں کے علاوہ بھی بھی نہیں بھی نہیں جن میں سندھستان کے مشہور شہروں کا انتہائی خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ نظروں میں وہ حآل کے قریب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھجو شاعری کے ساتھ ساتھ زندگی میں اصلاح و ترقی چاہتے تھے۔ ان کے کلام کے سات سے مجموعے موجود ہیں، مگر ان میں سے چند بھی شائع ہو سکے ہیں۔ ایک، شنوی پر سندھستان اکیڈمی نے ان کو انعام بھی دیا ہے۔ اسی زندگی کے آنر (پندرہ برسوں میں انھوں نے چڑھیاں کی ربانیوں کا اردو میں فنطوم ترجمہ کیا ہے اور ان پر فاضلا: اور تحقیقی نوٹ لکھے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پرانے ہوئے بھی وہ جدید سے اگر نہیں تھے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے کچھ شعر یہ ہیں:

دل میں رہ کے لعنة، موتی ہے بہش درد محبت ہوگی
اگر جو نہیں جاتی وہ ہے شب تہنائی جاگر ہو نہیں آتی وہ عمر گریزاں ہے
کار دان عمر رفتہ کے نشاں دیکھائے
زدری کیا تھا جفلے با غیاب دیکھائے

آشیاں اجرہ اکیا ہم نا تو ان دیکھائے کے
مرزا محمد ہادی عزیز (۱۸۸۰ - ۱۹۳۵) لکھنؤ کے مشہور شاعروں میں سے تھے وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جنھوں نے یہاں کی شاعری میں صد باتیت کو ابھیت دی اور نئے مسائل لاکر اس کا دائرہ بڑھایا۔ وہ بھی میرود گالری کے عقیدت میں تھے اور انھیں کی ملارج بخیدہ خیالات پر خیال طریقے سے پیش کرتے تھے۔ غزل کے علاوہ وہ قصیدے بھی بہت اعلیٰ درجے کے سمجھتے تھے۔ ان کے قصیدے میثیو ایان دین کی درج میں ہوتے تھے۔ عزیز کے یہ مجموعے جملہ کو انجام کرہ، اور صحیحہ دلا، شائع ہو چکے ہیں۔ سبھی، اکبر، قصر، اور القیاں سبجے

ان کی غزوں کی تعریف کی ہے۔ ان کی غزل کے اشعار کا زنگ یہ تھا۔
 پھلے آئینہ اک نظر دیکھو پھر مراول، مر اجگر دیکھو
 ہائے مجبوریاں محبت کی چاہتے جو نہ تھا کیا میں نے
 بجلی سی ایک سامنے نے ہگز بخل حمی کیا دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدل گئی
 اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھاں بھوتا ہیں عالم تری انجردائی کا
 مرزاد اکر حسین شاقب (۱۹۳۶ء - ۱۸۶۰ء) بھی لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے والد
 کی ملازمت کے سبب سے الہ آباد، بھوپال اور آمگرد میں بھی رہے، مگر زیادہ
 وقت لکھنؤ ہی میں گذر ا۔ شعر گوئی میں اس طرح محبوب ہوتے تھے کہ ادھر
 اُدھر کی خبر نہ رہتی تھی دیادہ تر غزلیں کہتے تھے اور تیر و غالب کی پرودی
 کو ہی اپنے یہ فخر کی بات جانتے تھے۔ ان کے کلام میں تھوڑا بہت لکھنؤ کا
 صنومنی رنگ بھی ملتا ہے۔ مگر بیشتر جذبات قلب کے اظہار سے ان کی شاعری
 کا اثر بڑھا ہوا ہے۔ ان کا مجموعہ بھی دیوان شاقب کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔
 ان کے کچھ شعريہ ہیں:-

باغبان لے ہاں دی جبکہ خیالے گومر جن پر کیہ تھا وہی پتے ہو ادینے گے
 تڑپا دیا ہے دل کوشابا شہم صیر د! یوں ہی پھر ک صداد و نو ما قفس چلا میں
 دھائیں میں کے بعد آنے والے میری دھشت کو

بہت کانٹے بخل آئے مرے ہمراہ منزل سے

اصغر حسین آصغر گونڈوی (۱۹۳۶ء - ۱۸۸۳ء) عصیر حافظ کے شوار دیں اپنی
 صوفیا نہ تخلیقات کے لیے مشور ہیں۔ ان کی تعلیمِ تھیک سے نہیں ہوئی تھی، مگر
 اپنی لگن سے اتنا پڑھ دیا تھا کہ افضل میں شمار کیے جانے لگے تھے۔ ملک صوفیہ
 سے خاص روپی تھی اور اپنے کلام میں مدھی اور صوفیا نہ نظریات پیش کرتے
 تھے کبھی کبھی نفر بھی سمجھتے تھے۔ اُردو کی مشور شتوی گلزار نسیم ان کے تنقیدی
 نوٹس کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ محرمان کی شاعری میں کیف اور خوبصورتی
 بڑی مقدار میں ملی تھی۔ ان کے دو چھوٹے چھوٹے مجموعے نشاطِ روح، اور
 سرورِ زندگی، شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے کچھ شعر پڑھیے:-

جو شش جنوں میں چھوٹ گیا آتاں یار روتا ہوں منہ پر دامنِ محرا لیئے ہوئے
 میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہا نہیں گرگ میں دوڑی پھونی ہے نشرتی یہے ہوئے
 اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں محکمہ دا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں
 فانی بڑا یونی، حسن کا نام شوکت علی تھا۔ اس زمانے کے مشور شاعروں میں سے
 ہیں درت زندگی د ۱۹۲۲ء۔ ۱۹۲۹ء تک ہے۔ ایں ایں بی پاس کر کے لکھنؤ اگرہ اور
 آناؤہ میں دکالت کرتے رہے بھر حیدر آباد چلے گئے اور وہاں تھری وقت تک مختلف طرح
 کی ملازمتیں کرتے رہے۔ لدکپنہ سے شامری کی دیوبی کے حضور میں سر جمکا یاتھا
 اور ہیں سال کی عمر میں ایک مجموعہ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے ملٹن اور دوسرے شعرا
 کی تخلیقات کے تربیجے بھی کیے تھے مگر یہ سب سرمایکس طرح ضائع ہو گیا اس کے بعد
 جو کچھ بجاوہ باقیات فانی کے نام سے اور جو کچھ بعد میں لکھا وہ سب کلیات فانی کے
 نام سے شائع ہو گیا ہے۔ فانی نے اپنی زندگی بڑی تکلیف میں گزاری اور کہا جاسکتا
 ہے کہ اسی کیفیت نے ان کو اردو کا سب سب بڑا قتوں میں شاعر بنادیا۔ ان کا زنگ
 شاعری تیرہ خالب سے ملتا جلتا ہے۔ تھوڑا بہت لکھنؤ کا اثر بھی ہے۔ مگر اس میں
 شک نہیں کہ وہ صفات اول کے شاعر تھے جن کے خیالات میں فلسفیانہ عناصر اور
 جذبات انگیز تحقیقت پسندی دونوں کی کمی نہیں ہے زندگی ان کے لیے ایک صیبہ
 ہے جس سے انسان مر کے بھی چھوٹ سکتا ہے۔ ان کی شاعری کا زنگ یہ ہے،
 اک فنا نہ سن گئے اک کہہ گئے میں جو رو یا سکرا کر رہ گئے
 ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چپائے ہوئے

مری قضا کو دہ لائے دلعن بنائے ہوئے

دو گھر میں ہوش میں آنے کے گھنگوار بہیں ہم

بجلیاں ٹوٹ پڑیں جب وہ مقابل سے اٹھا

مل کے پٹی تھیں مجا ہیں کردھوان لے لے ٹھا

ڈا بتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم

عمر بیکھنوی کے شاگردوں میں جگت موہن لال روائی (۱۹۳۹ - ۱۸۸۶) جنت مشور ہیں۔ وہ آناؤ کے رہنے والے تھے اور ایم اے ایل نی تک کی تعلیم تکھنؤ میں حاصل کی تھی۔ آناؤ میں کامیابی سے دکالت بھی کرتے تھے اور شاعری میں اپنی چگد بنا رہے تھے۔ ان کا دیوان روح روائی اور ایک مشنوی۔ تقد روائی شائع ہو چکے ہیں۔ انھوں نے کچھ ناسکن نظیں بھی چھوڑی ہیں، جو ان کے فاندان کے پاس معنو نہ ہیں۔ وہ غزیں اور رباعیاں بڑے دلکش اور موڑ طریقے سے سمجھتے تھے۔ ان کی نظیں بھی بڑی گنجیر اور خیال انگیز ہوتی تھیں دو چار شری ہیں:-

بننے بھی روئے بھی لیکن نہ سمجھے خوشی کیا چیز ہے دنیا میں عمر کیا
روال پکھے ہے محبت کا اثر ضائع نہیں تھا وہ رو دیتے ہیں اب بھی ذکر آتا ہے جان میر
پہیم دیے وہ رنگ کو انداں بنادیا منت پدر چوں ستم روزگار کا
کسی طرف نظر یا سر کے رو دینا مری زبان میں اس کو فکار بھی کہتے ہیں
سید مقبول حین نظریف، کھنؤ کے نظریف فائز شاعری کے مشور شاعر تھے۔
انھوں نے سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پر اپنے زندگ کی نظیں تکھیں جن کے
مطابع سے ان کے سماجی مشور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہنسی ہنسی میں بعد سے کام
کی باتیں کہی ہیں جو اصلاح زندگی کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں۔ ان کے کلام
کا جمود دیوان حبی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی شاعری کا زندگ یہ ہے
دھشت میں ہر اک نقشہ انداز نظر آتا ہے

مجنوں نظر آتی ہے لیے نظر آتا ہے
منہ پھلا کر شنہ کا مان محبت کو حضور شربت دیدار کا پورا گھر دادینے لگے
چند برسوں کے درمیان ہی آزادوں کے تین اچھے شاعر اہی عدم ہوئے دسمبر
۱۹۴۰ء میں یہاں اپریل ۱۹۴۰ء میں آرزو اور میں ۱۹۴۰ء میں حضرت مولانا
سیحاب (۱۹۰۰ - ۹۰ ماء) اگرے کے مشہور شعراء میں سے تھے۔ شروع میں
دائغ کو اپنا سلام دکھایا تھا۔ کچھ دن ادھراً دھڑکنی کری کرتے گزرے گمراہ بعد میں
صرف ادبی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ نثر و نظم ملا کے چھوٹی بڑھی کم و بیش

تین سلسلیں فاتح کی ہیں۔ وہ بہت نکھلتے تھے۔ اور ہر طرح کی نظم تیز رفتاری سے نکھلتے تھے۔ انہوں نے شاعری کا ایک اسکول چلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کے مشہور مجموعوں میں، کارِ امروز، مکیم حبیب، شعر انقلاب، اور سدہ امپنی کے نام لیے جاسکتے ہیں ان کا کوئی خاص زندگی نہیں ہے۔ مگر زبان اور فن شاعری کے مقصد رعالم ہوتے کے سبب سے انہوں نے کبھی کبھی خیالی زندگی کے سائل پر بھی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ان کے تلامذہ کی تعداد اسارے ہندوستان میں ہزاروں تک پہنچتی ہے مگر ان کے دو چار شعر دیکھیے۔

بدل گئیں وہ گاہیں یہ حادثہ تھا اخیر پھر اس کے بعد کوئی انقلاب ہونے کا کمانی میری رواد جہاں علوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے چمن کے سانحے کو مد تین گزر میں گزار بھی چکتی ہے جو جملی آشیان معلوم ہوتی ہے ہر چیز پر بہار ہر اک شے پر حسن تھا دنیا جوان تھی مرے عمد شباب میں سید انور حسین آرزو (۱۸۷۵ء) کھنڈو کے شرعاً میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ ان کو اپنے زمانے کے بہت بڑے شرعاً میں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد بھی ایک اپنے شاعر تھے آرزو جلال کے شاگرد تھے مگر تھوڑے ہی زمانے میں فن شاعری ہے ان کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی کہ استاد نے اپنے درسے شاگردوں کو انہیں کے پاس بیج دیا۔ جلال کی وفات کے بعد آرزو کو ان کی گردی ملی۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ مشکلات و اذکار میں گزرنا۔ سکھتے اور بھٹی کے تھیں مگر وہ کے لیے ڈرایے اور غلوتوں کے لیے گانے نکھلتے رہے۔ وہ اردو زبان کے بہت بڑے مردم شناس اور لکھنؤ کی زبان کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے ان کے کلام کے چار مجموعے، خفاف آرزو، جہاں آرزو، بیان آرزو اور سریلی بانسری شائع پوچکے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کمی ایہم کتابیں جو قواعد اور معانی دیں جان سے تعلق رکھتی ہیں چمپ گئی ہیں۔ آرزو نے ہندوستانی زبان میں کچھ ایسی نظیں لکھی ہیں جن میں فارسی اور عربی کی کوئی نظر نہیں آتی اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس آسان زبان میں بھی وہ اپنے تاثرات بڑی روانی سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان شرعاً میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے لکھنؤ کے

رنگ کو سہ جا رکن کھار امثال کے لیے یہ شعر دیکھیے:

چاہت کا پھل ایسا ہے جیسے جل جائے کھیتی بوئی ہوئی
 کیا ہوتا ہے آنسو پوچھنے سے چھپتی نہیں نہیں وہی ہوئی
 بہنیک بی ہونا تو یہ ان بن نہیں اچھی میرا سانہ بن تو مجھے انا سانافے
 تارا تو شنے سبے دیکھا یہ نہیں دیکھا ایک تھی کس کی آنکھ سے آنسو پکا کس کا سہارا نہما ہو
 جو دیکھے گا رو تے مجھے تم کو سنتے مری بات چھوڑو تمہیں کیا لے گا
 ہندوستان کے مشوری سی رہنا اور ممتاز شاعر یہ فضل الحسن حضرت موہمنی (۱۹۵۴ء)

کی پیدائش موہان ضلع انادیں ہوئی تھی جملی گزدھ سے بیان کی ذکری لی اور راسی وقت سے
 ہندوستان کی تحریک آزادی میں شریک ہو گئے۔ آزادی کامل کے پیاری اور غیر معمولی ہستکے
 آدمی تھے بخانے کتنی بار جیل گئے بیشتر کلام جیا ہی میں لکھا ہے جب تک بھی باہر آتے تو ادنی رہتا
 بکالتے اور اردو شعر کے غنیب مجموعے شائع کرانے رہے۔ یہ اتنا اہم کام ہے جس کو بھلا کیا نہیں
 مان سکتا حضرت ایک اپنے نقاد بھی تھے اور انھوں نے شعر گوئی کے عجیب و سزا رکھی کتابیں
 نہیں حضرت حافظہ کا سے بڑا غزل گوانا نگایا ہے اور اس میں شہر نہیں کفظت انسانی
 کی سہل اور اسی کے ساتھ دلنشیں ہو جانے والی ہمدردی ان سے زیادہ اور کسی کے
 بیان نہیں ملے گی۔ ان کی زندگی کی سادگی، سچائی اور دن سب ان کے کلام
 میں جگہ پاتی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے بیان کوئی فلسفیہ نہ ہماری اور
 خیالات کا انوکھا پن نہیں پایا جاتا، مگر وہ غیر معمولی سادگی جو تصنیع سے بالکل
 پاک ہے کی بارہ دل میں اپنا گھر بنایا ہے ان کی سبے بڑی خصوصیت
 ہے۔ بعد کے جذبات اور جوانی کے تجربات کی مصوری ایک عجیب ہولت
 سے ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے یہ باتیں سب کے دل کی ہیں۔
 اسلوب شاعری کے قدیم و جدید رجحانات ان کے بیان ایک ہو جاتے ہیں۔
 ان کا مجموعہ کلام تیرہ چھوٹے حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور سب
 تاکہر بھی کلیات حضرت کے نام سے چھپا تھا۔ مثال کے لیے یہ شعر دیکھیے:
 حسن بے پرداز خود بین دخود آ را کر دیا کیا کیا میں نے کہ انہیاں بتتا کر دیا

نہیں آتی تو یاد ان کی میمنوں تک نہیں آتی
مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں

برق کو اب کے دامن میں چھپا دیجھا ہے
ہم نے اس شوخ کو بجور حیا دیجھا ہے
پردے سے اک جھلک جودہ دکھلا کے رہ گئے

مشتاق دید اور بھی لیپی کے رہ گئے
ہم سے ہر چند دہ نظاہر میں خفا ہیں لیکن
تو شش پر سب ش حالات چلی جاتی ہے
دل مضر کی سادگی دیکھو پھر انھیں سے سوال کرتا ہے
لاکھوں میں تری دید کے مشتاق مسخر ہم
ناہار تھے جی سے بھلانے میں لگے ہیں
ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

اک طرف تماشہ ہے حرث کی طبیعت بھی

یہ سب شاعر اسی عہد کے ہیں مسخر ان کی آواز آج کے سرخ اسی زندگی کو
دیکھتے ہوئے کچھ پرانی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ دنیا میں نہیں ہیں مسخر ان کی
نظمیں ہر قاری کے دل میں زندگی کے سمجھنے کی خواہش پیدا کر دتی ہیں اپنی
تعلیم، گھر یا نہ زندگی اور شعور کے نتیجے میں ان کی تخلیقات میں متاثر ہر نے
کی صلاحیت ایک سی نہیں ہے۔ کچھ تقاضوں کا خیال ہے کہ اسلوب و شعور
دوں کو دیکھتے ہوئے ان سب کا طالبوا ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مختلف
ردایات سے فیضان پاتے ہیں۔ مسخر ایک تاریخ یہیں ان کو اسی جگہ پوکھنا پڑ جائے
جہاں انہوں نے جنم لیا اور زنقاڈوں کو یہ سوچا پڑے گا کہ وہ کس حد تک اپنے
زمانے کی زندگی اور شعور سے متاثر ہو کر تخلیقیں کرتے تھے۔ اگر وہ صرف
قدامت پرست ہوں یا مرد جہ طرز کو چھوڑنا چاہتے ہوں تو ان کے اساب کو
بھی دیکھنا ضروری ہو گا۔ مستقبل کا سورخ ان کے بارے میں یہ طے کرے گا
کہ وہ کتنی ادبی اہمیت رکھتے ہیں جیسا کہ کہا گیا۔ اس عہد میں شرعاً کی تعداد

بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک پورے مک کی تخلیقی قطا بڑھ گئی تھی، بلکہ اس یہے کہ نئے اور پرانے کی کشتمانش ایک خاص طرح کے میں پر آپوں پر تھی اور ادنیٰ تفکر کا انداز بدل رہا تھا جو شاعر نے رجحانات کو پوری طرح تسلیم کرنے میں مدد کرتے تھے، وہ بھی تبدیل ہونے والے حالات کا بہت کچھ اثر محسوس کر رہے تھے۔ اس عہد میں بہتر شعر ایسے ہیں جنہیں نہ تو فرانا کہا جاسکتا ہے، نہ تو نیا۔ انھوں نے نئے ماحول کو سمجھنے کی سعی کی، مگر ان قدر تو کو توڑنے سے معذور رہ گئے جو آزاد، حالی کے نامے میں بن گئی تھیں۔ ان میں سے کچھ شعر اکاذ کر کیا جا چکا ہے اور کچھ ایسے ہیں، جن کا تذکرہ اس محفل تاریخ میں بھی ضروری ہے۔ ان میں لوک چند محردم، یاں یگھانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی اور آثر مکھنوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

لوک چند محردم کی ولادت ۱۸۸۴ء کے آس پاس سرحدی صوبے میں ہوئی۔ بی اٹے تک تعلیم حاصل کر کے حکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ بارہ تیرہ سال کی عمر سے نظیں لکھنے لیں اور بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور ان کا ایک مجموعہ گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے نئے پرانے ملے جلنے رنگ شعر ا، میں وہ رٹے محردم سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں مذہبی اتحاد اور حب الوطنی کا حصہ بہت ہوتا ہے۔ غریبیں کم کرتے ہیں، مل جو کچھ کہتے ہیں وہ پرکیف ہوتی ہیں انھوں نے کچھ نظیں بھوپال کے لیے بھی لکھی ہیں۔ محردم کو فن کارانہ ہمارت حاصل ہے اور سطح کی نظیں بڑے آسان اور دلچسپ ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ فطری، اخلاقی، سماجی، فاسقیا نہ نظیوں کے علاوہ وہ ان عصر مسائل پر بھی زور دار نظیں لکھ سکتے تھے۔ ان کی وفات ۱۹۳۷ء میں ہو گئی۔

ان کی کتابوں میں بہار طفلی، کاروانِ وطن، رباعیات محردم، گنج معانی مشہور ہیں۔ ان کے کچھ شریے ہیں۔

دایم غم حیات میں الیجا گئی اسید ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ احسان کر گئی اب نفس کو ہی آشیاں کیے راحت آشیاں ملے نہ ملے

اس کی دھرمن سے ہیں آثارِ بغاوت پیدا
بے رثی کرنے پر آمادہ ہے دل خیر کرے

اس عمد کے تین شاعر گانے، ہجگر اور اثر کو خاص اہمیت حاصل ہے مگر جن اسباب کا اوپر مذکور ہو ا ان کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی نشانہ تانیہ کے شرعاً میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی خصوصیات کے لحاظ سے انہوں نے دورِ حاضر کو بھی متاثر کیا ہے۔ مگر زندگی اور ادب کے بارے میں ان کا وہ نقطہ نظر نہیں ہے جو آج کے نئے لفظے والوں کا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تخلیقات حیات انسانی کی زگارنگ تصویروں سے خالی ہیں، بلکہ ان کی نظر گہری اور احساسات کا مطابعہ وسیع ہے اس لیے ان کا اثر کسی نہ کسی شکل میں آج کے اور دو ادب پر پڑ رہا ہے۔

مزرا و اجد حسین گانے چنگیزی شاعر میں پہنچ میں پیدا ہوئے۔ دہان کے بڑے بزرے علماء اور شعراء سے تعلیم حاصل کی۔ فارسی کے علاوہ انگریزی سے بھی اچھی طرح واقف تھے شروع میں یا ش کے تخلص سے شاعری کرتے تھے ہنوفہ کے آس پاس لکھنؤ آئے اور یہاں کی ادنی زندگی میں اس طرح شریک ہوئے کہ یہیں کے ہور ہے۔ حلقةِ شاعری میں کسی سے لڑے، کسی کو پچھاڑا، کسی سے دوستی کی اور اس طرح زندگی کے آخر تک شخصیت اور انہیت کو شخصی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ ان کا کلام پڑھ کر انسانی زندگی کی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ آزادی، بانگیں اور پر زوری ان کے خیال کی خصوصیتیں ہیں۔ زبان میں کبھی بول چال کی عام نقوشوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے غالب، اقبال اور جوش کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے اور بہت سے دوسرے شعراء سے بھی وہ مطمئن نہیں ہیں۔ دوسری نشری تصنیفات کے علاوہ ان کی غزلوں کے دیوان، آیات وجہاتی اور "گنجیدہ" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے کچھ شعر یہ ہیں:-

اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور اس آجکل میں عبث دن گنوئے میں کیا کیا
پھاڑ کا شنے والے زمیں سے ہار گئے ای زمیں میں دریا سمائے جیں کیا کیا
خوشی میں اپنے قدم حوم لوں تو زیل ہے وہ لغوشوں پر می سکرے ہیں کیا کیا
خدادی جانے لگانے میں کون ہوں کیا ہوں خود اپنی ذات پشت لہیں آئے ہیں کیا کیا

کیسے کیسے خدا بناداے کھیل بندے کا ہے خدا کیا ہے
 ۱۹۷۸ء میں یگانہ کی رحلت کے بعد لکھنؤ کے اہم شاعرہ گئے مرزا جعفر علی غار
 اثر ۱۹۷۸ء میں لکھنؤ میں ولادت پائی۔ ان کا خاندان یہاں کامشوڑ تعلیم ہافتہ
 اور خوش حال مانا جاتا تھا۔ اثر نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ۱۹۷۸ء میں ان کو
 ڈپٹی سکلکٹری مل گئی اور تقریباً ۱۹۸۸ء تک ملازمت کا سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں
 نے شاعری لڑکپن سے شروع کر دی تھی اور عربیز لکھنؤی کے شاگرد ہو گئے
 تھے۔ وہ انگریزی اور فارسی کے بھی بڑے عالم تھے اور لکھنؤ کی زبان کے
 بڑے رمزشناس سمجھے جاتے تھے۔ وہ جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے
 نقاد بھی ہیں اور ان کی تنقیدوں کی کھنی ستاب میں شائع ہو چکی ہیں۔ اثر کو
 میر کی شاعری سے انتہائی عقیدت تھی جو ان کے کلام سے صاف طور سے ہجھکتی
 ہے۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے سبھی
 شاعروں کا اپنی پسند کے مطابق گرا منظومہ کیا تھا مگر تمیر کے کلام کے روز
 کو بے تقاب کرنے میں بھی ان کا خاص حصہ ہے۔

اثر نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے جن میں زیادہ تر غزلیں
 ہیں۔ مگر دوسری صنف کے کلام کی مقدار بھی کم نہیں ہے۔ دوسری زبانوں کی
 اعلیٰ نظموں کا ترجمہ بھی انہوں نے نظر میں کیا ہے۔ ان کا 'مہکوت گتنا' کا
 ترجمہ بھی بڑی اعلیٰ درجے کی نظموں میں شمار ہوتا ہے اور نغمہ جاوید کے نام
 سے شائع ہو چکا ہے۔ غزلوں کے تین دیوان، 'اثرستان'، 'بہاراں' اور
 'نو بہاراں' بھی چھپ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کھنی اور دھموعے شائع ہو چکے
 ہیں اور کئی تھینے والے ہیں۔ اثر کی غزلیں سہت سادہ مگر زیگیں ہوتی ہیں۔
 ان کی زبان آسان اور شیریں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گھرے صوفیاں اور فلسفیاں
 خیال بھی پیش کرتے ہیں مگر جذبات محبت کا بیان بڑا پڑا اثر ہوتا ہے مخفونے
 کے لیے ان کے یہ شعر دیکھئے:

بھولنے والے سے کوئی پوچھتا میں تھے دل سے بھلا دوں طرح
 ہم نے ردو کے رات کاٹی ہے آنسوؤں میں یہ رنگ تبا آیا

جھل لاتے ہوئے تاریخ کیا ہیں۔ ملکے پھول ترے بتر کے
 کچھ روز یہ بھی زنگ رہا انتظارہ۔ آنکھ اٹھ گئی جدھر بس ادھر دیکھتے رہے
 دیکھو نہ آنکھ بھر کے سسی کی طرف کبھی۔ تم کو خبر نہیں جو تمہاری نظر میں ہے
 کچھ دیر فکر عالم بالا کو چھپوڑ دس۔ اس انجمن کاراز اسی انجمن میں ہے
 آثر کو نکھتوں کی زبان اور اسلوب کے ماہر کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے
 اپنی تنقیدی تخلیقوں میں بھی فن کے اس پلوکی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تنقیدی
 تصانیف میں ان کی تباہیں آثر کے مضامین، حیان بین، ابیت کی مرتبیہ نکاری
 زیادہ اہم ہیں۔ زبان کی نسبت ان کی خاص تصنیف، فرنگ اثر، ہے جس میں
 انفاظ کے استعمال، محاوروں وغیرہ سے متعلق اغلاظ کا بیان کیا گیا ہے۔ ان

کا انتقال ۱۹۶۷ء میں ہو گیا۔

جگہ مراد آبادی کا شمار اپنی نسل کے مقبول شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کا نام
 علی سکند رتھا اور ۱۸۹۴ء میں وہ مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگہ چون ہی سے نظمیں
 لکھنے لگے تھے۔ کیونکہ ان کے گھر میں کہی شاعر تھے اور لکھنے پڑھنے کی فضائی۔
 شروع میں داغ، کو اپنا کلام دکھاتے تھے۔ مگر جب اصغر گونڈوی کا گہرا اثر
 پڑا تو انھیں کو اپنا کلام دکھانے لگا۔ ان کے تین دیوان، داغ جگہ، شعلہ طور، آتش گل،
 شائع ہو چکے ہیں وہ خاص طرح کی محبت سے بھر ہو۔ نظم لکھنے تھے جن میں کیف
 اور سرور پایا جاتا ہے۔ کچھ وقت تک شراب ان کی زندگی کا خاص جزو رہی
 اور آسی کا اثر شاعری پر پڑتا رہا۔ کبھی کبھی انہوں نے صوفیانہ خیالات بھی
 ظاہر کیے ہیں مگر ان کی شاعری کا وہی حصہ سب سے زیادہ عمدہ سمجھا جاتا ہے
 جس میں رومانیت میں ڈوبے ہوئے ریگیت گائے گئے ہیں۔ ان کی شاعری
 میں جو بکشش حسن ملتا ہے اسکی رازی ہے کہ وہ محبت اور حسن کے چیاری ہیں
 اور انھیں کا ذکر دلچسپ طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ان کے کچھ شعر یہ ہیں:-
 دل کو بردادر کے بیٹھا ہوں۔ کچھ خوشی بھی ہے کچھ ملاں بھی ہے
 تیری آنکھوں کا کچھ تصور نہیں۔ ہاں بھی کو خراب ہونا تھا

بتاؤ کیا تھارے دل پر گزے اگر کوئی تمیں سابے و فاہو
 ہکہ تجھ بن اس طرح اے دوست گھبرا تا ہوں میں
چیز ہر شے میں کسی شے کی کسی پاتا ہوں میں
 لے کے خط ان کا کیا ضبط جبت کچھ نیکن
تھر تھرتے ہوئے ہاتھوں نے بھرم کھوں یا
 سادن کی رین انڈھیری تنہا یوں کا عالم
بھولے ہوئے فانے سب یاد آرہے ہیں
 ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا
بروں سے کھیلتا ہوا لمبڑا کے پی گیا
 جگہ کی کمی کی وجہ سے جن شاعروں کا ذکر نہ ہو سکا ان کی تعداد بھی کم
 نہیں ہے۔ جواب اس دنیا میں نہیں ہیں ان میں سے اسماعیل میرٹھی، الحسن
 کاکوردی، شوقی قدوالی، بے نظیر شاہ، آمجد حیدر آبادی، ریاض خیر آبادی
 مولانا محمد علی جوہر، جیلیل مانک پوری، آزاد انصاری، سائل دہلوی، آخر
 حیدر آبادی، دکل شاہ جاہ پوری، نوح ناروی، بنی خود دہلوی، وشت
 سکلتونی وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بہت لکھنا چاہیے تھا۔ مگر ممکن نہ تھا۔ اسی
 طرح حیات شعرا میں جوش ملیانی، حکر بریلوی، افسر میرٹھی، منور بخنوی
 اور کئی دوسرے شعرا کے بارے میں بھی کچھ نہ لکھا جاسکا مگر ان کے مجموعے اور
 ان کا کلام مل جاتا ہے اور ان کا سطائعہ کیا جا سکتا ہے۔

یہ عہد ہر طرح کے شعور پیش کرتا رہا ہے لیکن جور دایات، حاکی، شبیلی،
 اگبر، سرور، چکست اور اقبال نے چیدا کی تھیں ان کا اتباع کرنے والے آج
 ان سے بہت آنے گئے ہیں اور اپنی شاعری سے وہ انقلابی کام لے رہے
 ہیں جسے وہ اپنا سماجی فرض سمجھتے ہیں ان کا ذکر آخری باب میں کیا جائے گا۔

بازہواں باب

نظم میں نئی سمیتیں

اُردو کے ارتقا کی خاکہ کشی کرتے ہوئے ہم جاں تک پوچھنے ہیں، وہ ایک اخبار سے آج کا ہی زمانہ ہے۔ کیونکہ گزشتہ باب میں جن شعرو اور مصنفین کا ذکر کیا گیا، ان میں سے کچھ آج بھی لکھ رہے ہیں، محدودی تفکر کے انداز میں جو تبدیلیاں ۱۹۴۷ء سے ہو رہی ہیں اور ان کا جو تعلق ادیک انفرادی شعور اور قومی شعور اور عالمی شعور کو تبلیغ کرنے اور اس کو اپنا زاد بھٹکانا کراس کی روشنی میں تخلیق ادب کی بات سامنے رکھی جائے تو لکھنے والے مختلف درجات میں تیسم دکھانی پڑے گے۔ اس لیے اب تک عصر حاضر کے ادیبوں میں جن مصنفین و شعرا کا بیان ہواں کے سماجی شعور اور ادبی نظریات میں بڑے فرق پائے جاتے ہیں، پھر بھی انہوں نے جو فضا پیدا کر دی اور ان کی تخلیقات نے جو پس منظر تھا رکر دیا، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کچھ ایسا دشوار نہیں رہ جاتا کہ اردو ادب کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ ادبی رواستیں تاریخی اور سماجی ادب اور کم معاشی صورتوں سے بنتی بگردی ہیں، لہذا جو تبدیلیاں ہندوستان میں ہو رہی تھیں، انہیں دیکھنا ضروری ہے، اسی سے فن کاروں کی وہ ذہنی کیفیت سمجھ میں آئے گی جس سے ادب جنم لیتا ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے کھنڈوں میں اشتراکیت قائم ہو گئی تھی، مگر ایشیا بھر میں بیداری کی بھلی دوڑ رہی تھی اور انسان کی آزادی و ارتقا کے تصور

سنس و صنعت کی پیش رفت سے سچ نا بات ہوتے نظر آتے تھے۔ اس لیے جب ۱۹۱۹ء میں انگریز اقتدار کی طرف سے ہندوستان کو کچھ دستوری اصلاحات ملیں، تو یہاں کامتوسط بلقبہ بھی اس سے مطمئن نہ ہوا۔ جنگ کے زمانے میں ہندوستان یورپ کے بہت قریب آگیا تھا اور وہاں کے نظریات سے فیضان لے کے اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتا تھا، اس لیے کافی گریس اور دوسرا سیاسی جماعتیں قوت حاصل کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے بناتی تھیں مگر استعمال کے شکار بیٹھنے کو پوری طرح ساتھ رکھنے کے باعث اصلاح کی سمت میں تھوڑی ہی دور بڑھ کر رہ جاتی تھیں۔ مصنفین و مفکرین میں انقلاب اور جدوجہد کے جو جذبات اس وقت پیدا ہوئے، وہ خیالی اور جذبائی زیادہ تھے جیقیقت پسندی سے ان کا گھر اتعلق نہیں تھا۔ مدعایہ ہے کہ ترقی کی خواہش فقط خیالوں مک محدود تھی اور بدیسی راجح میں جگٹ ہوئے ہونے کے باعث مک کے حال تباہ کو بد نے کا کوئی امداد و اقیعی طور پر سامنے نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے قومیت کا سہارا لے کر اپنا دہانہ دلوں چلا یا جس نے ترقی کی نئی سستوں کی نشان دہی کر دی۔ کچھ دور را ہ چک اٹھی اور مک کچھ دور کے بڑھنے کے لائق ہو گیا۔

ایک راہ اصلاح سے، انقلاب کی طرف بھی جاتی ہے۔ جب اصلاح ناکام نظر آتی ہے، تو انقلاب کا خیال ضرور آتا ہے اور ہندوستان کے نوجوانوں کو یہ راہ دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ دنیا کی انقلابی تحریکوں سے فیضان لیتے تھے اور اصلاح پسندوں سے بہت آگے بڑھ کے بدیسوں کو جلد ہی دیس کے باہر کر دنیا چاہتے تھے۔ وہ بڑے جوش سے جہوریت و سماج داد کے خیال ظاہر کرتے تھے۔ جذباتیت کی افراد اور شعور کی تفریط سے کبھی کبھی دیشت پسند بھی بن جاتے تھے۔ اسے ایک طرح سے انقلاب کا رومانی روپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نئی سماجی اور سیاسی حالت نے نئے شعور، نئے شعور نے نئی زندگی اور نئے ادب کو جنم دیا۔ اس ادب میں ہندوستان کے دل کی دھڑکن سنی اور مستقبل کے خدوخال دیکھے جاسکتے ہیں۔

نسلہ کے اس پاس سیاسی تحریک کی چال اتنی تیز ہو گئی کہ کانگریس کو آزادی کامل کا نعروں لگانا پڑا۔ سیاسی نظریات میں دھیرے دھیرے معاشر خود مختاری کے خیالات بھی شامل ہوتے جاوے ہے تھے۔ آزادی کامل کا مطالبہ بھی اسی کی ایک شکل کبھی جاسکتی ہے۔ آزادی کا یہ اعلان اصلاح پسندی پر یک سخت چوتھی تھی اور اس سمت کا پتہ دیتی تھی جدھر مندوستان کو ٹھہرانا تھا۔ آزادی کی یہ جدوجہد کمی پہلو رکھتی تھی۔ غیر ملکی حکومت کے علاوہ یہ معمرکہ یہاں کے والیان ریاست، زمینداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف بھی تھا۔ اس لیے یہاں کے مصنفوں اور مفکروں میں اپنے طبقاتی نقطہ نظر کے باعث شور میں بھی تفرقی ملتی ہے۔ خود کانگریس کے اندر کمی طرح کے لوگ تھے، کوئی بہت آگے جانا چاہتا تھا، کوئی آہستہ روی سے آزادی کی منزل تک پہنچنے کا خواہاں تھا۔

آزادی کے جذبے اور ملک کی معاشی حالت نے اتحصال کا شکار طبقے کو بھی چونکا یا۔ کسان تو پہلے ہی سے جگہ جگہ سورجے بنا رہے تھے۔ مکمل اتحصال میں مزدوروں کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ غلامی سے بخات حاصل کرنے کے لیے ایسا ہونا ضروری ہی تھا ملک کے حالات اور بین الاقوامی واقعات نے سو شلزم اور کیونزم کے خیالات کو مستحکم کر دیا اور مندوستان کے مسائل کے حل کے لیے انقلاب کے راستے کو موزوں سمجھا جانے لگا۔ یہاں ایسے وفادار سرکار اور اصلاح پسند بھی موجود تھے، جو ان خیالات کو غیر ملکی اور تشدد آمیز کہہ کر طبقاتی اتحصال کو قائم رکھنا چاہتے تھے، مگر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ غیر ملکی خیالات یاد بی بیتیں کسی ملک کی زمین میں اس وقت تک جڑنیں پکڑ سکتیں، جبکہ کہ خود اس ملک میں انھیں قبول کرنے کی کیفیت پیدا نہ ہو گئی ہو۔ قویت اور بین الاقوامیت، عقلیت پسندی اور انقلاب پسندی اور حقیقت پسندی اور اشتراکیت کرنے کے لیے تو غیر ملکی اصطلاحات کے ترجیح ہیں اور اپنے قیچیے ایک بدیسی تاریخ رکھتے ہیں مگر ترقی چدیر مندوستانی شور کے ذھان پر میں ان کا بھی مقام ہے۔ ان انفاظ و خیالات کا استعمال

اسی وقت ہوا جب انہوں نے ہندوستانی زمین و تہذیب سے رنگ و نور مالک کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ خود اس میں سماج و ادھر ایک تصویری فکر کے اثر دھکا۔ لیکن تھوڑی ہی مدت میں عوام کی بیداری نے قومی تحریک کو اس سے متاثر کر دیا۔ یہاں تک کہ کچھ اصلاح پنڈ بھی اپنے انکار میں اس کا امتراج کرنے لگے۔ اس کا ایک اور بڑا سبب بھی تھا۔ ۱۹۳۷ء کے بعد سے یورپ میں فسٹائیٹ کا زور بڑھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اُٹلی و جنی ترقی پسندی کے سارے جذبات کو کھل کر رکھ دیں گے۔ اس سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آزادی امن و ترقی کے چاہنے والے موجود تھے، انہوں نے فسٹائیٹ کے خلاف آواز بلند کی۔ ہندوستان میں بھی ترقی پسند قوتوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اس لئے اس ملک میں سو شلزم سے رفاقت اور فاشزم سے نفرت کا جذبہ روز بروز زور دار ہوتا گیا۔ ۱۹۴۷ء میں فاشزم کے خلاف ثقافت کی حفاظت کے لیے جو بین الاقوامی کانفرنس ہوتی تھی۔ اس کی صدائے بازگشت یا ان بھی نتائی دی اور یہاں کی مختلف زبانوں کے اہل قلم اور شاعر انسانوں داں اور علماء مبتغی ہو گئے۔ تب سے آج تک ہندوستان اور روس کے باہر جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح اردو ادب بھی متاثر ہوتا رہا ہے۔ بلکہ یہ کہتا مناسب ہو گا کہ اپنے ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے ان غلظیوں کی طرف بھی اشارہ کرتا رہا ہے۔ جو قومیت کو گزندہ ہونچا سکتی تھیں۔ ادب کے نقطہ نظر سے اس بیداری کا ایک بڑا نتیجہ ہوا کہ ملک کی سبھی عظیم زبانوں میں ترقی پسند مصنفوں کی انجمنیں بن گئیں، اجنبیوں نے ادب اور زندگی کو قریب لانے کے بھی ذرا بیع سے کام لیا۔

جزء ششم اور اسی میں جس تہذیبی کا تذکرہ ہوا ہے اس نے عام طور سے دو صوبیں اختیار کر لیں۔ ایک کو جدیدیت اور دوسری کو ترقی پسندی کہ سکتے ہیں دونوں طرح کے نظریوں کے پسند کرنے والے نئے ادب کو اپنانے کی سعی کرتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو، دونوں میں بڑا فرق ملتا ہے۔ اس باب میں دونوں طرح کے ادیبوں کا دکھا کر ہم یہ اشارہ کرتے

جائیں گے کہ کس کا نقطہ نظر کیا ہے۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے، عصر حاضر میں ادب کے سبھی حلقوں اور سماں روپ میں ترقی ہوئی ہے، ہر حلقة میں نئے نئے تجربے ہوئے ہیں، اسی لیے ادیبوں اور شاعروں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ہر صنف کے بارے میں کچھ لکھنا اور مثال دینا ناممکن ہے کیونکہ کئی شاعروں نے ہر طرح کی نظیں لکھی ہیں۔ اگر مثال میں ان کے ایک ہی زمگ کا کلام دیا جائے تو ان کے دوسرے افکار اور اسالیب کا اندازہ نہیں لگایا جاسکے گا۔ پھر سبھی اس کی سعی کی جائے گی کہ موجودہ زمانے کی ادبی ترقی کی ایک تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے۔ مذکورہ بالا پس منظر میں شاعروں اور ادیبوں کے زاویہ نظر کیمیں کہیں تو واضح دکھائی دیں گے اور کہیں شعور واضح نہ ہونے کے باعث ایسے امتزاج کی کوشش ملے گی۔ جو حقیقت پسندی اور مشایست دونوں سے قریب معلوم ہوگی۔

اس باب کے حدود کو دیکھتے ہوئے، جس شاعر کا نام سب سے پہلے تیجا سکتا ہے، وہ جو شش میٹع آبادی ہیں۔ جو شش میٹع میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام شیرجن خان ہے اور میٹع آباد لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے پردادا، دادا اور والد سب شاعر ہوئے ہیں اور ان کے دیوان بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جو شش نے نوبس کی عمر سے شاعری شروع کی۔ ان کی تعلیم سپلے تو گھر ہی پر ہوئی، پھر لکھنؤ، سیتاپور، آگرہ اور علی گڑھ میں انگریزی پڑھتے رہے، مگر والد کے انتقال کی وجہ سے تعلیم ادھوری رہ گئی اور گھر کا بوجھ بھی سر پر پڑا۔ زمینداری کے جگہ دوں اور اعراء کے ناپسندیدہ سلوک سے گھبرا کے وہ گھر سے بکلے اور حیدر آباد میں ملازمت کر لی۔ اپنے آزادی میں خیالات کے باعث ۱۹۴۷ء میں وہاں سے بھی لک بدر کر دیے گئے۔ کچھ زمانے تک دتی سے ایک رسالہ نکالتے رہے، پھر فلموں کے لئے گیت اور کہانیاں لکھتے رہے، اس تک بعد حکومت پسند کے اردو ماہنامے، آج کل کے مدیر رہے اور ۱۹۵۶ء میں پاکستان پہنچے گئے۔

جوش کے تقریباً پندرہ مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ روح ادب ۱۹۲۱ء میں چھپا تھا، مگر اس کے بعد کے مجموعے ۱۹۳۴ء سے تھلنا شروع ہوتے کوئی ۲۵ برس سے دہ ایک بہت بڑی تظمیر حرف آخر، کے نام سے لکھ رہے ہیں، جو کئی حصوں میں شائع ہو گی، اس کا موضوع انسانی شعور کے ارتقا کا سائنسی تجزیہ ہے۔ ان کے مجموعوں کے نام ہیں نقش و نگار، شعلہ و شبم، فکر و نشاط، حرف و حکایت، رامش درنگ، سبل و سلاسل، سرود و خروش اور سوم و صبا و عزیرہ۔ انہوں نے نظر میں بھی کچھ مفہایں لکھے ہیں، اپنی خود نوشت اور ایک لغت بھی تیار کر رہے ہیں۔ مگر وہ فی الواقع ایک شاعر ہیں اور شاعر ہونے کی وجہ سے زندہ رہیں گے۔

شروع میں جوش کی نظیں جدت کی حامل ہوتے ہوئے بھی رواجی انداز پر چلتی تھیں۔ یہ نظیں ایک طرح کے جذباتی اور زیگین مزاج کا پتہ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ان میں گبھیری کی جھلک بھی مل جاتی ہے۔ اس وقت ان پر تھوڑا بہت رمزیت کے خیالات کا بھی اثر تھا۔ ٹیکور اور اقبال کی نظموں سے بھی فیضان لیتے تھے۔ فطرت کی تصویر کشی میں انہیں بہت لطف ملتا تھا۔ سبھی رومانی شعر کے ماں دھن کے پرستار تھے۔ چاہے وہ فطرت میں ملے، چاہے انسانی زندگی میں اور اگر کہیں نہ ملے تو، وہ اپنے خیالات کی رومانیت پر بھی فریقہ ہو سکتے تھے۔ ابتدائی نظموں میں، جوش نے خود اپنی محبت کا بیان بہت کم کیا ہے، اس کے بخلاف عالمی محبت اور الہی محبت کے خیالات بہت کم ملتے ہیں۔ حیدر آباد جانے کے بعد ان خیالات کے علاوہ رومانیت میں ذوبی ہوئی نظیں بھی لکھنے لگے۔ حب وطن بھی بڑھا اور دھیرے دھیرے سیاسی مسائل بھی نظموں میں جگہ مانے گے۔ اسی وقت شراب کا چسکہ بھی پڑا اور ان کا کلام اس کے ذکر سے بربر ہو چکا جیدر آباد ہی میں فاسفے سے دل چسپی بڑھی۔ اب برس کی مدت میں یہ ساری نظیں ایسے لوئے اور جوش سے لکھی گئیں تھے اقبال کے بعد دہی اردو کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جانے لگے۔ شروع میں ان کو شاعر فطرت کہا جاتا تھا۔ اب شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جانے لگا۔ ان تینوں خطابات سے ان کے

شور کی ترقی پندری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔

جو شعر کو فطری، رومانی اور سیاسی نظیں سمجھنے پر یہاں قدرت حاصل ہے۔ مہندوستان کی سیاسی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو گا، جس پر انہوں نے نظر نہ سمجھی ہو۔ وہ قوم پرسقی، مہندوسلم اتحاد، حب وطن، جمیعت امن اور آزادی خیال کے پیاری ہیں اور ان خیالات کو انہوں نے اپنی ہزاروں نظموں میں بڑے دلچسپ و دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں آگ کی گرمی اور خیالات میں جوالاً سمجھی کا ذریعہ ملتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی ان کی تخلیقات میں وہ وزن نہیں رہتا جو ایک مفکر شاعر کے یہاں ہونا چاہیے۔ ۱۹۴۷ء کے آس پاس جب ان کے یہاں انقلاب کے خدمات پڑھ تو سبے پہلے انہوں نے مدد اور فرقہ دار امام تنگ نظری پر چوڑیں کیں اور آزادی خیال کی تبلیغ کی، مخدود ہیرے دھیرے انہوں نے سیاسی انقلاب کو زیادہ اہمیت دینا شروع کی۔ فاسدہ کی نظر سے وہ انسان کو مجبور مانتے ہیں، مگر وجودِ خدا کے منکر میں، ساتھ پری ساتھ وہ انسان کی آزادی اور ترقی کے گیت بھی گاتے ہیں۔ خیالات کی یہ ہماری محض اسی لیے ہے کہ وہ عوام انساں اور ان کی تمناؤں کے محب ہونے کے باوجود ان کے قریب یا ان سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں۔ فکر و عمل کی یہ دوری کبھی ان کو دشمن پندرہ شانی تھے کبھی رومانی کبھی جمعت پندرہ شانی بہت بڑا ترقی پندرہ۔ ان سبکے سوتے ان کے طبقے کی زندگی میں دھونڈ سے جا سکتے ہیں ۔

جو شعر کو استعمال الفاظ پر غیر معمولی قدرت ملے اور دو میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو تشبیہات و منایع کے نقیص استعمال میں ان کی برا ببری کر سکے جس میں کوئی شک نہیں کہ شاعری میں نئے رجحانات کے باوجود اردو کی تاریخ میں مستقبل کی دنیا ان کو بہت بلند مقام دے گی۔ شال کے لیے ان کے کچھ شعر اور ایک نظم دیکھئے ۔

ارضن در سما کوسا عز و پیار کرنا رندوں نے کائنات کوئے خانہ کرنا
کچھ روز تک تو نادش فرز آنچی ہی آخر جوہم حق نے دیوانہ کر دیا

جیگھل ہے آب جو ہے شب مانتا بھے ایسے میلان کو ڈھونڈ کے لا ایں کھانے،
سمجھتی ہیں مال گل مل گکیا زور فطرت پر
سحر ہوتے ہیں کلبیوں پر تبسم آہی جاتا ہے

یاں جب آؤزیش ہی شہری ہے تو دنے چھوڑ کر
آدمی خورشید سے دست و گریباں کیوش ہو

وہ غریب ل کو سبق ملے کہ خوشی کے نام سے دلکشا
کبھی تم نے منس کے جوابات کی توہار اچھا اتر گیا
ایک نظم دیکھیے جس کا عنوان ہے "شکست زندان کا خواب؟"

کیا ہند کا زندان کا نپ رہا ہے گونج رہی ہیں تجھیریں
اوکتا ہے میں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں

ریواروں کے نیچے آئے اسکر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی
سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں

بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، تو پوں کے دہانے نہ ٹھنڈے ہیں
تقدیریکے لب کو جوش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں

آنکھوں میں گدا کے سرخی ہے، بے نور ہے چھرہ سلطان کا
تخریب نے پر چم کھوا لے ہے سجدے میں پڑی ہیں تجھیریں

کیا ان کو خبر تھی ذیر دز بر کھتتے تھے جو روحِ ملت کو
اپلیں گے زمیں سے ارسی، برسیں گی فلک سے شمشیریں

کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرا کرتے تھے
اک روز آسی بے زنگی سے جملکیں گی بزراروں تعددیں

کیا ان کو خبر تھی، ہنٹوں پر جو قلنگ کایا کرتے تھے
اک روز اسی خاموشی سے ٹکپیں گی دکھتی تقدیریں

نبھلوکہ و خندان گو بخ اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی جھوٹے
اٹھوکہ وہ بنیخی دیواریں دوڑوکہ وہ ٹوٹی زنجیریں

اس عہد کے بہت بڑے شاعر، نقاد اور ادیب رکھوپتی سمائے فراق،

ولادت ۱۸۹۶ء ہیں۔ کہنے کو گورکھ پور کے رہنے والے ہیں ورنہ زندگی کا بثیرہ حصہ الہ آباد میں گزرا ہے اور الہ آباد نیو یورسٹی میں انگریزی کے شعبے سے شپن لے کر الہ آباد ہی میں رہتے ہیں۔ ان کے والد، عبرتو، بھی اردو کے اچھے شاعر تھے۔ سنجیدگی اور پر فکری چین سے ہی فراق کے مزاج کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور کئی ربانوں کا گمراہ مطالعہ کرنے کے باعث ان کی قوت فکر بڑی زور دار ہلی، لیکن قوم کی جدوجہد آزادی نے ان کو ایسا فریقہ کیا کہ نوکری چھوڑ کر جیل چلے گئے۔

فرقہ نجہ شاعری شروع کی تو امیر مینائی اور داعی کا بول بالاتھا، وہ بھی امیر مینائی سے تاثر ہوئے، مگر جب انہوں نے اردو شاعروں کو ٹپھا تو ان کے طرز میں تغیر ہوا اور ان کا ایک ایسا طرز بن گیا جو اپنے آپ میں خصوصیتیں اور جدت رکھتی ہے۔ فرقہ جذباتی مزاج کے ہیں مگر اپنے خیالا میں ستحکم ہیں اس لیے وہ اپنے خیالات نئے طریقے سے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ زندگی کی نامہواریوں اور راخلی کشمکش کے جذباتِ مجتمع ہو جاتے ہیں ان کی آداز میں انکسار کے ساتھ زور اور درد مندی کے ساتھ انسانی زندگی پر بھروسہ بھی ملتا ہے۔ فرقہ آج کے ان ترقی پسند مصنفوں اور مفکروں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو زندگی کے سبھی سنجیدہ مسئللوں کو اپنی شاعری میں جگہ دیتے ہیں۔ ابتداء میں ان کی زبان فارسی آمیز تھی مگر اب کچھ عرصے سے وہ ہندی شبدوں کا استعمال بھی بڑی خوبصورتی سے کرنے لگے ہیں۔ فرقہ لے بیشتر غزلیں کہی ہیں، لیکن نظموں اور رباعیوں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ نثر میں بھی کئی ستائیں چھپ چکی ہیں، مگر خاص طور سے انھیں غزوں ہی کے باعث غنائم حاصل ہے، یکونکہ ان کے ذہن کی جودت جذبات کی نرم کسک اور بیان کی انفرادی قوت اپنے پورے عرفانِ جمال کے ساتھ مجسم ہوا ہے۔ ان کے کچھ شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ نغمہ ساز ہنوزستان، شعرستان، شبستان، روح کائنات، ہائل نغمہ، دھرتی کی کروٹ، ابھی

حال ہی میں گلیانگ، نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا ہے جس میں تقریباً ان کی سبھی نمائندہ تخلیقیں شامل ہیں۔ فرائق کے مجموعوں میں سے کچھ ناگری خط میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ کچھ شعر یہ ہیں:-
شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداں اداں

دل کو کسی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں
دل دکھ کے رہ گیا یہ الگ بات ہے، مگر ہم بھی ترے خیال سے مسرو رہو گئے
کب اپنے ہوش میں شبِ عزم کا ثبات ہو اے دردِ ہجر تو سی بتا کتنی رات ہے
غرض کہ کاث دیر زندگی کے دن اے دوست

وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بھلانے میں

تھر تھری سی ہے آسمانوں میں زور کتنا ہے نا تو انوں میں
رفتہ رفتہ عشق مانوں جہاں ہونے لگا خود کو تیرے عشق میں تھنا سمجھو بیٹھے تھم
اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے
کسی کی نرم طرب میں حیات بنتی تھی ایمید دار ہوں میں کل موت بھی نظر آئی
حفیظ جاندھری روادوت تلرہ، پنجاب کے مقبول شعرا میں ہیں۔ ان کی
تعلیم بہت معمولی ہے، مگر اسی طبیعت و مزاج سے فن کار معلوم ہوتے ہیں۔ وہ
کمیٰ جرأت و رسائل کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے کلام کے بھی کمیٰ مجموعے
شائع ہوئے ہیں جن میں سوز و ساز اور تلخیابہ شیریں، مشور ہیں۔ ابتدا میں
حفیظ نے سہل، مشھی اور سندی سے ملتی جلتی زبان میں جو گیت لکھے، انہوں
نے ان کا نام دور دور تک پھیلا دیا مسلمانوں میں ان کی خصوصیت اور مقیتوں
ان کی مشور تخلیق، شاہ نامہ اسلام اکے باعث ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں
کی تاریخ ایک شنوی کی صورت میں قلم بند کی ہے۔ اس تخلیق کے چار حصے
شائع ہو چکے ہیں۔ عام طور سے وہ ترقی پسند شعرا میں شمار نہیں ہوتے،
مگر ان کی کچھ تخلیقیں سماجی اور سیاسی مسائل سے متعلق ہیں۔ ان کے ایک مشہور
گیت کا ایک چھند بخونے کے لیے دیا جاتا ہے۔

اپنے من میں پریت بائے

اپنے من میں پرست
 بھارت ماتا ہے دکھیاری دکھیارے ہیں سب نزناڑی
 تو ہی اٹھا لے سندھ مرلی تو ہی بن جا شیام مراری
 تو جا گے تو دنیا جا گے جاگ اٹھیں سب پریم چاری
 جاگ اٹھیں سب پریم چاری
 گا میں تیرے گیت

بسا لے اپنے من میں پرست
 سآغرنظامی دولادت ۱۹۰۵ء کو ہندی کے قاری بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، کیونکہ
 ان کا ایک مجموعہ کلام دیواناً گری خطا میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ وہ میرٹھ کے رہنے والے ہیں اور
 سماں اگر آبادی کے شاگرد ہیں۔ ابتدا میں وہ صرف گیت غزل اور رومانی نظیں لکھتے تھے، پھر وطن
 میں محو ہو گئے اور بہت سی حسین و جوشیں نظیں لکھیں۔ دھیرے دھیرے انہوں نے
 یاسی رنگ بھی پیدا کر لیا اور آزادی، سماج وادا اور حکوم کے حقوق کی باتیں کرنے
 لگے۔ حب وطن، ہندو مسلم اتحاد اور جہد آزادی کے بارے میں انہوں نے کئی بڑی
 عمل نظیں لکھی ہیں۔ ان کا طرز ہندی انفاظ کے میل سے نیا پن پیدا کر لیتی ہے۔ وہ
 نثر بھی لکھتے ہیں اور کئی رسالوں کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے کلام اور مضامین
 کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں بادہ مشرق، رنگ محل اور سوج و ساحل
 مشہور ہیں۔ سآغرنے شکنستلا اور انارکلی نامکوں کو بڑا خوبصورت مقطعہ بنا کر
 دیا ہے۔ اور تین سال کی انتہا ک شقت کے بعد ایک طویل نظم نہ فائدہ نہ میسے کے
 رنگ میں لکھی ہے۔ ان کے ایک قوی ترانے کا ایک بند مثال کے لیے دیکھا تاہم۔
 سونے والوں کو اک دن جگا دیں گے ہم رسم و راہ فلامی مثادیں گے ہم
 تیرے بیری کے نکرے اڑا دیں گے ہم آسمان و زمیں کو ہلا دیں گے ہم
 کون کہتا ہے کم زور، نریں ہے تو ہر طرف خون کے دریا بھادیں گے ہم
 جس طرف سے پھارے گا ہندوستان اس طرف ہی وفا کی صد ادیں گے ہم
 اے وطن، اے وطن، اے وطن
 سر سے باندھے ہوئے ہیں تر گا کفن

اے وطن، اے وطن، اے وطن
جان من، جان من، جان من

اخترشیری جن کا انتقال عالم شباب ہی میں ہو گیا، فونک کے رہنے والے
تھے، اردد کے اہم ردمائی شاعر انے جاتے ہیں۔ ان کی ولادت ۱۹۰۶ء میں ہوئی
تھی اور وفات ۱۹۴۳ء میں ہو گئی۔ محبت کا اتنا شیریں بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت
گھیت کی طرح سنتے والے پرچھا جاتا ہے۔ وہ تصور میں ایک جزیرہ محبت بنا
لینا چاہتے ہیں، جہاں چند نی راگ عشرت و محبت میں ڈوبے ہوئے دوپر کی
اسی زندگی بس کر لیں۔ عورت سے پیار کا جیسا خوب صورت جذبہ آن کے
یہاں ملتا ہے وہ اس شکل میں دوسرے کے یہاں شاذ ہی ملے گا۔ دوہی چیزیں
ہیں جن کے لیے وہ بڑی سی بڑی قربانی کرنے پر تیار ہیں، محبت اور وطن پرستی
اسی دولغنوں سے وہ تصور کا ایک عالی شان محل کھڑا کر لستے ہیں۔ ان کے
اسلوب میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی نیلی کیفیت بھی ملتی ہے، جو بڑھنے
والے کو اپنے ساتھ رامش و رنگ میں ڈبو دیتی ہے۔ ان کی سیاسی نظموں کا
رنگ اندر سے پھیکا اور بے اثر ہے۔ اخترشیری کے کلام کے ۷۰٪ مجموعے ثانی ہو چکے ہیں۔
وہ ایک اچھے نژنگار اور مدیر بھی تھے۔ ان کی ایک مشهور نظم کے دو قیں بندی لیے جاتے ہیں:

اے عشق کمیں لے چل، اس پاپ کی بستی سے
نفرت گہہ عالم سے لعنت گھہ سستی سے
ان نفس پرستوں سے اس نفس پرستی سے

دور اور کمیں لے چل، اے عشق کمیں لے چل

یہم پر یہم پجارتی ہیں، تو پر یہم کہنیا ہے
تو پر یہم کہنیا ہے، یہ پر یہم کی نیتا ہے
یہ پر یہم کی نیتا ہے، تو اس کا کھویا ہے
کچھ فکر نہیں لے چل، اے عشق کمیں لے چل

یہ مکروجخا پیشہ حیوان نہ بستے ہوں
انماں کی قبایں یہ شیطان نہ بستے ہوں
تو خوف نہیں لے چل، اے عشق وہیں جل

روشن صدیقی کا جنم دسمبر ۱۹۱۶ء میں موجودہ شرائیں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کے اندازِ فکر کو بھی رومانی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک سیاسی نظریات کا تعلق ہے، وہ ایشیا کی بیداری سے متاثر ہوئے ہیں۔ فارسی اور عربی کے علاوہ ہندی، سنسکرت اور انگریزی سے بھی واقعہ ہیں۔ روشن غزل گو بھی ہیں، مگر ان کو اپنی دوسری نظموں کے باعث ایتیاز حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں ایک طرح کا فلسفیاء اور رمزیت کا بھی زنگ پایا جاتا ہے۔ ان کی زبان فارسی آمیز ہے اور اسلوب پڑاکثر اقبال کا اثر بڑھتا ہوا ہے۔ بہت کہہ چکے ہیں مگر اب تک غزوں کا صرف ایک نجمودہ محرب غزل شائع ہوا ہے۔ مثال کے لیے ایک نظم کے دو بندوں لیجیے۔

ظلہ و بیداد کی بنیاد کو ڈھانے کے لیے
بجلیاں قصرِ فلا می پہ گرانے کے لیے
نقشِ تزویرِ تدن کو شانے کے لیے
کشورِ ہند کو آزاد بنانے کے لیے

شیع بیداریِ مشرق کو فروزان کر دیں

جس تدن میں مساوات کے انوار نہیں
جس تدن میں کمیں جلوہ ایشارہ نہیں
جس تدن کا نگہ بانِ دل بیدار نہیں
جس تدن میں عزیبوں کے لیے پیار نہیں

اس تدن کے ہر یوان کو دیراں کوں

ایسے ہی مشوراً ایک اور شاعرِ احان داش ہیں جن کی ولادت یوں من ۱۹۱۳ء میں ہوئی۔ ایک غریب کہنے میں پیدا ہونے کے باعث وہ تعلیمِ حامل نہ کر سکے، لیکن پھر سے ہی انھیں کتابوں کے مطابع سے گہرا گاؤ رہا ہے، اس لیے انھوں نے اردو کے سبھی اچھے شرار اور صنفین کا مطالعہ کیا ہے۔ معاش کے لیے انھوں نے ہر طریق کی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی ہیں۔ انھیں محنت کش زندگی کا تجربہ اچھی طرح سے ہے۔ لہذا ان کی بہت سی نظیں مزدور کی زندگی کی تصویر کشی بڑے پیارے

غم انگریز طریقے سے کرتی ہیں اگرچہ ان میں شور کم اور جذباتیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی نظر میں گھرائی نہیں ہے۔ لیکن وہ واقعات کی عکاسی اور عام زندگی کا خاکہ پیش کرنے میں بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی چھوٹی بڑی آنکھوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں تو ائے کارگر، چراغاں اور آتش خاموش مشہور ہیں۔ تقسیم سند سے پہلے ہی لاہور چلے گئے تھے۔ ان کی ایک ہندی کویتا سے نوونہ دیا جاتا ہے:-

دیپک جا گے، دن چھپا، گھٹا پون کا زور
پنگھٹ سونا ہو گیا، چھانی گھٹا گھنگھوڑ
بھولی بسری آنکھی پھر ساجن کی پاد
نیمن سے لاگی جھردی، کثنا رین کٹھور

شاعری کی نئی سمتیں اور جدید اسالیب سے لکھنؤ دیر میں آشنا ہوا چکبت کو چھوڑ کے کسی دوسرے شاعر نے شعوری طور پر اپنے کلام میں نئے مسائل کا ذکر نہیں کیا۔ جو شعر میمع آبادی کرنے کو تو لکھنؤ کے ہی ہیں۔ لیکن ان کا زیادہ وقت باہر ہی گزرا اور وہیں زندگی کے دوسرے مسائل سے آشنا ہوئے۔ لکھنؤ میں پنڈت آنند شرما سن ملابولادت ۱۹۰۱ء کے ہنے اس روایت کو آئے گے بڑھایا جس کا آغاز چکبت نے کیا تھا۔ وہ ایک نامور کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب دیل رہ کے ہائی کورٹ کے بھج ہو گئے۔ شروع میں انہوں نے کچھ انگریزی تعلیمیں کھیں کچھ فارسی نظموں کے انگریزی ترجمے کیے۔ لیکن بعد میں اردو میں لکھنے لگے۔ ان کے کلام میں گھرائی اور جنبات کی عکاسی دونوں ایک ہی جگہ ملتی ہیں۔ انہوں نے کچھ رومانی تعلیمیں بھی لکھی ہیں، مگر بیشتر وہ سماجی اور زیاسی حالتوں کا بیان کرتے ہیں، وہ اپنے خیالات کو اپنے فنکارانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی اثر انگریزی بڑھ جاتی ہے اور نظم صرف ایک آئینہ یہ خیالات کا پروپر میگنڈہ بن کر نہیں رہ جاتی۔ گھری حب الوطنی کے ساتھ ان کے نظریات میں انسان دوستی کا جذبہ بھی بہت زور دار ہے۔ ان کے مجموعے

جوئے شیر، کچھ ذرے کچھ تارے، اور میری حدیث عمر گریزان، شائع ہو چکے
ہیں۔ بخونے کے لیے غربل کے یہ شعر دیکھیے:

تڑپ پیشے کے مکڑے بھی اڑا لیتے ہیں، ہیرے کی

مجبت کی نظر جلدی سے پہچانی نہیں جاتی
نظر جس کی طرف کر کے نگاہیں پھیر لیتے ہیں

قیامت تک پھر اس دل کی پر لشائی نہیں جاتی
ابھی شباب ہے کروں خطاؤں میں جی بھر کے پھر اس مقام پر عمر روان ہے ہے ہے
تم نے پھیری لاکھ نرمی سے نظر دل کے آئینے میں بال آہی گیا
اسی راستے کیاں سے سیر گلاشن کے لیے لائے

نظر جتنی بھی تھی صرف تلاش آشیاں کر دی

ہاں یاد ہے کسی کی وہ پہلی نگاہ رطف

پھر خون کو یوں رگوں میں نہ دیکھا رداں کبھی

جب ۱۹۳۰ء کے آس پاس ہندوستان میں ترقی پندر مصنفین کی تحریک
شروع ہوئی، تو زیادہ تراجمے اور نوجوان شاعر اور ادیب کسی نہ کسی طرح
اس میں شامل ہو گئے۔ بہت سے پرانے ادیبوں نے بھی اس کی حمایت کی۔
ٹیکیگور، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا عبد الحق، آچاریہ نزیند روڈیو، سروجی
ناٹیڈ و اور پریم چند بھی اول درجے کے مفکروں نے یہ توقع ظاہر کی،
ہندوستان جس معاشی بدنی اور رذہنی غلامی میں تبلاء ہے، اس سے
چنکارا پانے کے لیے یہ نئی تحریک جو ادب کو عوام کے قریب لانا چاہیتی ہے
ایک ضروری اور سہل الحصول اقدام ہو گا۔ انگریزی راجح، اس کے تجھتوں
اور ذقیانوں کے علاوہ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ مخالفت کرنے
والوں اور ذقیانوں اور رجعت پندوں میں کون لوگ تھے؟ جاگیرداری
عہد سے چھٹے ہوئے اہل حلم، سرمایہ دار اور اجتماعی عوامی شعور کے مخالف۔
لچھے شرعاً اور مصنفین نے اس تحریک میں ایک نئی طاقت اور نئی روشنی دیکھی
اور ابھی جن کا ذکور ہوا، ان میں سے کئی ترقی پندر مصنفوں کے مد跟گاری

نہیں بلکہ رہنماؤں میں محبوب ہوتے ہیں، جیسے جو شعر اور فرآق، لیکن کچھ شعر اور مصنف ایسے ہیں جو ترقی پسند تحریک کے انعام کا رسیدا ہوئے، اور ادب کے دائروں میں اپنی جگہ بنائے۔ ان کا کوئی ماضی نہیں تھا، انھیں جو کچھ بنایا اسی تحریک نے بنایا۔ مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جن شعر اور ذکر ہونے والا ہے وہ سب کے سب پوری طرح ترقی پسند ہیں یا انہم ترقی پسند مصنفین کے سمجھی آدراشیوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا سمجھنا بڑی بھول ہو گی۔ اس انہم کو پہندوستانی زندگی کے ترقی پسروں افکار کا مرکز نہتے دیکھ کر بہت سے ایسے مصنف بھی اس میں شرک ہو گئے جو متوسط طبقے کی خام خیالیوں میں قبلا تھے اور اپنی شخصیت پسندی کو ایک نیا میدان دینے کے لیے اسے ایک نئی تحریک سمجھ کر ساتھ ہو گئے تھے کچھ تو یہ تھے جو علامت نگاری ابھا اور تحریک پسندی اور دوسرے خیالات کو ترقی پسندی سمجھ کر اس انہم میں آئے تھے اور ان کے سامنے کوئی سماجی اصول نہ تھا۔ اس مختصر کتاب میں ہر شاعر اور ادیب کے افکار و شعور کے معیار اس کے طبقائی تعلق اور اس کے نقطہ نظر کی تنقید ناممکن ہے۔ یہاں بعض ان کی کچھ خلیقات اور ایک آدمی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جا سکے گا۔

ادب میں ترقی پسندی اور سماجی شعور کے نشان تو ہر ایک عہد میں مل جاتے ہیں، مگر شعور کے ساتھ ترقی پسند تحریک کی باضابطہ طریقے سے نیویوپی میں پڑی، مگر جنگل کی آگ کی طرح اس کی جواہا پورے ملک میں پھیل گئی۔ جان تک اردو کا تعلق ہے لاہور، بیسویں، پندرہ، چھتر آباد اور یونیورسٹی کے سبھی شہر اس کا میرکر بن گئے اس میں شک نہیں کہ اس انہم میں ایسے مصنفوں کی بھی کمی نہ تھی، جو محض جدت، تجربے اور اصلاحیت کے نام پر اسے فیاشی کا وسیلہ بنانا چاہتے تھے۔ عوام کی بدحالی اور فلاج نوز کی طرف سے انھوں نے آنکھیں بند کر کمی تھیں۔ اس طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کمی اہم ادب دشاعر جو ترقی پسند تحریک کے استدائی دور میں ایک مصنف ہونے کے باعث با اثر جگہ رکھتے تھے، دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتے گئے جیسے

ڈاکٹر تاشیر، احمد سلی، احمد شاہ بخاری، پطرس، اختر رائے پوری اور دوسرے لوگ۔ ان سب کے یہاں ایک طرح کی تنگ نظری پیدا ہو گئی اور یہ ترقی پسند کے ساتھ نہیں رہے۔ تاریخ کے نقطہ نظر سے اس محل پر ان سبھی کا ذکر ہو گا جو آج کے مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔

پنجاب کے مشور شاعر اور ادیب فیض ترقی پسند مصنفوں میں بڑی اونچی پچگی رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش ۱۹۱۲ء میں ہوئی۔ عربی اور انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد کچھ دنوں تک معلمی کرتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں فوج کے شعبہ تعلیم میں شریک ہو گئے اور میجر کے حمدے تک پہنچے پاکستان بنتے کے بعد کئی سال تک اپنے سیاسی خیالات کے بنا پر حیل میں بند رہے۔ کچھ دنوں تک رسالوں کی ادارت کی اور اس وقت ایک کامیح کے پرنسپل ہیں وہ ہمیشہ مختلف ترقی پسند تحریکوں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور وہیں سے فیضان لے کے بڑی سے خوبی اور خوبصورتی سے جمیعت آزادی خیال اور امن کی حایت میں نظیں اور مضا میں نکھتے رہے ہیں۔ ان کے چار مجموعہ کلام نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست نہ تنگ، شائع ہو چکے ہیں۔ جو بہت مقبول ہیں۔ ان کی آداز میں قدیم شعرا کا وزن اور فنکارانہ کمال بھی ملتا ہے اور نئی زندگی کی لے چکی اور انقلابی حوصلہ بھی انہوں نے روایات سے عفی اتنا ہی سٹینے کی کوشش کی ہے، جتنا اپنے خیالات کے انہما کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ انہوں نے اپنا وقت تحریکوں میں نہیں گزارا، بلکہ جو بھی ان کی نظیں پڑھے گا اسے ایک درد انگیز، پرا مید اور طاقت در جدت کا احساس ہو گا، جوان کے سوا اور کہیں ایسی خوبی نہیں ملتی۔ فیض کا اسلوب شاعری علاستوں اور پرچھائیوں میں مغمز و راثھائے ہوئے دھیرے دھیرے روایوں ہوتا ہے، جو ان کو بھی تاثر کرتا ہے ان کے قاری کو بھی۔ ان کو بھی، جوان کے سماجی نظریات کی مخالفت کرتے۔ مثال کے لیے یہ چھوٹی سی نظم دیکھیے:-

پھر کوئی آیا دل زار! نہیں کوئی نہیں!

راہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائیگا
 ڈھل کی رات، سبھرنے لگتا تو ان کا غبا
 لڑکھڑ آنے لگے اتو انوں میں خوابیدھر غ
 سو گئی راستہ تک کے ہر راک رانگزہ
 اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ
 گل بزر و شمعیں بڑھادو مے وینا دایا ن
 اپنے بے خواب کیواڑوں کو مغل کر لو
 اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا

اسرار الحق مجاز دستقولہ ۱۹۱۱ء (ترقی پسند شرا میں بہت سرل عربیز
 رہے ہیں۔ لکھنؤ، آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور کچھ دنوں تک
 آں انڈیا ریڈ یو میں ملازم رہے۔ مگر جب ترقی پسند تحریک پڑھی، تو انھوں
 نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی اور رسالوں میں لکھتے گے۔ ان کی نظموں کا
 مجموعہ، آپنگ کے نام سے کہنی بار شائع ہو چکا ہے۔ یہی مجموعہ "شب تاب"
 اور "سازِ نو" کے نام سے بھی شائع ہوا ہے۔ شروع میں مجاز نے غریب نہیں
 لیکن جلد ہی اپنی راہ ڈھونڈھلی۔ آغاز میں وہ رومانی تھے اور انقلاب
 کے بارے میں بھی ان کا نظریہ محض رومانی تصورات یا عالم شباب کے
 معنوی واقعات سے فیضان لیتا تھا، مگر یہی جیسے ترقی پسند مصنفوں کا شعرو
 بڑھتا گیا۔ مجاز بھی آگے بڑھتے گئے۔ مجاز کو اس وقت کے ہندوستان کے
 نوجوانوں کی تمناؤں، تصوروں اور بے تاب اشیوں کا شاعر کہا جا سکتا ہے
 ان کا اسلوب بڑا امیر اثر، پر کیف اور پر زور ہے۔ انھوں نے کم لکھا ہے، مگر
 جو کچھ لکھا ہے اعلیٰ درجے کا ہے۔ ان کی ایک مشورہ نہم کے کچھ بند دیکھیے:

شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھر دوں
 جگد گھاتی جا گتی سڑکوں پر آوارہ پھر دوں
 غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھر دوں
 اے غم دل کیا کروں اے دھشت دل کیا کروں

یہ روپیلی چھاؤں یہ آکا ش پر تاروں کا جال
جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال
آہ لیکن کون جانے، کون سمجھے جی کا حال
اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

اک محل کی آڑ سے نکلا دہ پیلا ماہتاب
جیسے ملا کا عمامہ، جیسے بینے کی کتاب
جیسے مغلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب
اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

جلد لاتے قمتوں کی راہ میں زنجیر سی
رات کے لامخوں میں دن کی موہنی تصویری
میرے سینے پر مگر چلتی ہوئی شمشیر سی

اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

معین حسن جذبی (پیدائش ۱۹۱۲ء) مجاذ کے معاصر شاعر ہیں اور اس وقت
علی گڑھ ہیونیورسٹی میں استاد ہیں۔ استاد میں انھوں نے اپنا کلام فانی بدیونی
کو دکھایا اور وہی غم گین رنگ اختیار کر لیا، مگر انہن ترقی پسند مصنفوں کے
رابط میں آکر ان کے خیال میں تبدیلی ہوئی۔ مگر اس کے قریب رہتے ہوئے
بھی وہ فن کے بارے میں اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ انھوں نے
غزلیں زیادہ اور دوسری صنف کی تبلیغ کم کی ہیں ان کی تخلیقات بڑی دلش
اور پر خیال ہوتی ہیں۔ وہ نوعِ انسانی کے درد و غم کو فرد کے فم کی شکل میں بڑی
خوبی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام فروزان، سخن مختصر کے نام سے
شائع ہو چکے ہیں۔ دوپار شعرِ شال کے لیے دیے جاتے ہیں:-

جب کشتنی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تناکس کو تھی
اب ایسی شکست کشتنی پر ساحل کی تناکون کرے

یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فانہ
اب کہاں میں ڈھونڈھنے جاؤں سکوں کو اے خدا
ان زینتوں میں نہیں، ان آسمانوں میں نہیں

ن آئے موت خدا یا تباہ حالی میں
یہ نام ہو گا غم روز گار سہہ نہ سکا

جمیل منظری (ولادت ۱۹۴۶ء) اس دور کے ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں، جنھیں فن برائے فن کے چاری اور رئیشنل کے ادب دوست دونوں بُناظِ حرث (دیکھتے ہیں۔ وہ بھار کے رہنے والے ہیں، پہلے بہت دنوں تک سکلتے ہیں رہ کے صفائی کی زندگی سب سر کرتے رہے۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد سے تعارف ہوا، جس نے ان کے مرضی میں اور نظموں میں مہند و ستانیت کے جذبات کو ابھار دیا۔ کچھ دنوں ریاست بھار میں سرکاری ملازمت کی اور بھر اس سے استغفار کے کرتبہ یونیورسٹی میں اردو کے اstad ہو گئے۔ اب پشناخت کر ادبی زندگی سب سر کر رہے ہیں: جمیل منظری کو فلسفے سے خاص دلچسپی ہے، اس لیے اپنے کلام میں زندگی کے روز اور رجھیر عناصر کو انتہائی فنکارانہ جایا تی احتکار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نثر بھی اچھی لکھتے ہیں مگر ان کی شہرت شاعری ہی کی خلیت سے زیادہ ہے۔ ان کے دو شعری مجموعے فلکر جمیل، اور نقش جمیل شاعر جو چکے ہیں۔ ایک غزل کے کچھ شعر بہ طور مزونہ دیکھیے:

کوئی سوال خدا و صنم نہیں اے دوست
میں کیا کروں مری گردن میں خمنیں اے دوست
اگرچہ سردانہ صیرے ہیں باعت مکلیف
معجب مزانح ہے ان میکدہ نشینوں کا
کہ قدر بجام تو ہے قدرِ حرم نہیں اے دوست
خوشادوں سے بھی چلتی نہیں ہے کام بیٹا
معاملہ ہے خدا سے، صنم نہیں اے دوست
کھلا ہے اور کھلے گا جمیل سبکے لیے
یہ میکدہ ہے کنشت و حرم نہیں اے دوست
عصرِ حاضر کے ایک بڑے ا奎لاجی اور شاعر مخدوم محمدی الدین (۱۹۰۶ء) حیدر آباد
کے رہنے والے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کر وہ ایک کالج کے
استاد ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد کیونٹ پارٹی کا کام کرنے کے لیے
نور کری چھوڑ دی۔

شاں کے لیے ایک نظم کے کچھ شعر دیکھیے جس کا عنوان مشرق ہے:-
جہر چکے ہیں دوست و بازو، جس کے اس شرق کو دیکھ

کھیلتی ہے سانس سینے میں مریض دل کو دکھ
 ایک ننگی لاش بے گور و کفن تھھڑی ہوتی
 سفری چیزوں کا لقمان خون میں لتردی ہوتی
 ایک قرتستان جس میں ہوں ہاں کچھ بھی نہیں
 ایک شنکتی روح ہے جس کا مکان نہیں
 اس زمین موت پر وہ کوڑھایا جائے گا
 اک نئی دنیا، نیا آدم سنا یا جائے گا

جان شار آخرت ولادت (۱۹۱۶ء) علی گردھ میں تعلیم حاصل ہوئے کئی برس
 تک گوایا اور بھوپال کے کابجوس میں استادر ہے۔ ان کے والد مختار خیر آبادی
 بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ آخر طالب علمی کے دور میں بڑی دل فریب روانی
 نظیں نکتے تھے، دوسرے نئے شواکے مانند وہ بھی انقلاب کی طرف آئے۔ ان
 کے کئی مجموعہ کلام جن میں سلاسل اور جادوں مشور ہیں۔ ان کے موضوع
 پر ایک مشنوی امن نامہ شائع ہو چکی ہے۔ ان کی نظیں حسین اور جاندار
 ہوتی ہیں۔ وہ ترقی پسند شعرا میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور باشур
 طریقے سے بخختے ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کو ان میں اس زور کی کمی نظر آتی ہے جو
 سیاسی مسائل پر تخفف کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی رفیقة، چات صفیہ
 کے مضا میں اور مکا تیب کے تین مجموعے، زیریں، انداز نظر اور حرف آشنا
 بھی شائع کیے ہیں۔ ایک نظم کے کچھ شعار دیے جاتے ہیں:
 میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں

جو شانے پر بغاوت کا علم رے کر نکلتے ہیں
 کسی ظالم حکومت کے دھڑکتے دل پر چلتے ہیں
 میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں
 جو رکھ دیتے ہیں سینہ، گرم توپوں کے دہانوں کے
 نظر سے جن کے بھلی کوندتی ہے آسمانوں پر
 میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں

ججلس سکتے ہیں جو شعلوں سے کفر و دیں کی بھت کو
جو صحت بخانے دیں ملک میں فرقہ پرستی کو
میں ان گے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں
میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں

دھن کے نوحواں میں نئے جذبے جگاؤں گا
میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں

میں ان کے گھیت گاتا ہوں، میں ان کے گھیت گاتا ہوں

علی سردار حضری (ولادت ۱۹۱۲ء) موجودہ دور کے عدد درجہ اہم انقلابی شاعر ہیں۔ انہوں نے مارکسی نصب العین کو اپنایا ہے اور تخلیق ادب میں اسی سے کام لیتے ہیں۔ انھیں ترقی پسند تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے کئی بار جیل جانا پڑتا۔ تعلیم علی گزارد، دلی اور تھہنڈو میں حاصل کی تھہنڈو میں انہوں نے مجاز اور سبسط حسن کے تعاون سے ایک رسالہ "نیا ادب" بنکالا تھا، پھر بعد میں وہ بہبی چلے گئے جہاں فلمی اور ادبی کاموں میں تگے ہوئے ہیں۔ شروع میں انہوں نے کچھ رومانی نظمیں لکھیں۔ لیکن اب ان کا شعور سماجی اور سیاسی مسئللوں کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آن کے اس شعور کا ارتقا قومی اور بین الاقوامی شعور کے ساتھ ہوا ہے اور اس کا ایک اچھا آئینہ بھی ہے۔ انسان دوستی ان کی شاعری میں سچی پڑتی ہے۔ نافضانی اور ظلم کے خلاف حضری کے نفظ اور جملے آتش فشاں کے مانند پھٹے پڑتے ہیں۔ ان کا طبقاتی شعور ان کی نظموں میں سچا زور بھر دیتا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام "خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا، امن کا ستارہ، تھر کی دیوار، ایک خواب اور، دیکھنے کے لائق ہیں۔ ان کی ایک شنوی "نسی دنیا کو سلام، کے نام سے شائع ہوئی ہے جو شہنشاہیت مخالف جذبات سے معمور ہے اور آزادوزن کے استعمال کا ایک بہت عمدہ نوونہ مانی جاتی ہے۔ بھزی نے ترقی پسند تحریک پر ایک تنقیدی کتاب "ترقی پسند ادب" کے نام سے لکھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے دیوان " غالب" دیوان میر اور کبیر بانی کی تالیف و ترتیب بھی کی ہے جو سندی اردو رسم الخط میں ایک ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ آن کی آزاد نظم کا ایک بخوبی

دیا جاتا ہے۔

جگ ہندوستان اپنے خواب گراں سے
دیکھ آزادی کی صبح کا نور پھیلا ہوا ہے
تیرے برسوں کے بچھڑے ہوئے لال گھر آرہے ہیں
یہ غلامی کی زنجیر کو تورڈ آئے
تید خانے کے درکھوں کے
اپنی آغوش میں ان کو بڑھ کر اٹھائے
اپنے دل میں بٹھائے
یہ ہمالہ ہے، یہ وندھیا چل ہے، یہ نیل گری
یہ تیرے کھیت ہیں تیرے کھلیاں ہیں
تیری کا نیں ہیں یہ، باعث ہیں تیرے کا رخانے
یہ تیرے بسرو شاداب میداں، یہ نہستی ہوئی دادیاں ہیں
یہ تیری صاف و شفاف بہتی ہوئی ندیاں
تیری گودوں کی پالی ہوئی بیٹیاں ہیں
ان کو اپنے گلے سے رگائے
اپنے پاکیزہ آنچل کے نیچے چھپائے

ساحر لدھیانوی ر(۱۹۲۷ء) موجودہ دور کے ترقی پسند اور مقبول شاعر
ہیں۔ وہ بھی اردو کے بہت سے نوجوان شعرا کی طرح رومان سے انقلاب کی طرف
بڑھے ہیں۔ ان کی ابتدائی نظفوں میں حسن و محبت کا بڑا دلچسپ اور دلفریب
بیان ہوتا تھا۔ انہوں نے محبت کے بارے میں بھی طبقاتی شعور کو سامنے
رکھا ہے اور بے باک محبت میں جو سماجی رکاویں پڑتی ہیں ان کا ذکر بڑے
غم انگیز اور طنزیہ طریقے سے کیا ہے۔ وہ زیادہ تر انقلابی اور ترقی پسند نظفوں
لکھتے ہیں۔ ان کی تشبیہیں حسین اور اشارے لطیف ہوتے ہیں۔ وہ بہ اعتبارِ
بعضی موجودہ دور کے ممتاز شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے مجموعے "تلخیاں"
اور پرچھائیاں، مسعود بارشاٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں سے فلمی دنیا نے انہیں

اپنا لیا ہے۔ فلمی گیتوں کا ایک مجموعہ، لگاتا ناجائے بخارہ، بھی چھپ چکا ہے مثال
کے لیے ان کی ایک نظم کے کچھ اشعار دیتے جاتے ہیں،

بجہاد ختم ہوا دور آشتی آیا
سبنھل کے بیٹھو گئے نملوں میں دیوانے
ہجوم تشدہ بیان کی نگاہ سے اوچھل
چھلک رہے ہیں شراب نفس کے پیمانے
یہ جشن، جشن مسرت نہیں تماشہ ہے
نئے ساس میں کھلا ہے رہرلوں کا جلوں
ہزار شمع انوت بجھا کے چکے ہیں
یہ تیرگی کے ابھارے ہوئے خیز فانوسیں

احمد ندیم قاسمی (ولادت ۱۹۱۶ء) پنجاب کے متاد ترقی پند افسانہ بخارا در
شاعر ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے دیہاتوں کی تصویر کیشی اپنی کہانیوں اور نظموں
میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ ان کا اسلوب شاعری بڑا جاندار اور ان
کے الفاظ بڑے میٹھے لگتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے رومانیت کو ہی اپنایا
مگر دھیرے دھیرے ملک کی سیاسی بیداری سے تاثر ہو کر فکر انگیز اور ترقی
پند نظیں لکھنے لگے۔ ان کی خوبصورت نظیں انسان دستی کا جذبہ جگانی
ہیں اور مستقبل کے سنہرے خوابوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کے کھنی مجموعہ کلام
شاٹ ہو چکے ہیں، جن میں "جلال و جمال"، "شعلہ، گل" اور دستِوفا، مشور
ہیں۔ ایک نظم کے کچھ شعر منونے کے لیے دیکھیے:-

خیال و خواب کی دنیا سے بجاگ آیا ہوں
جو ایوں کے چین زارتیاگ آیا ہوں
میں بن کے راگ گھیا، ہو کے آگ تیا ہوں
شفق میں ڈوبے ہوئے ہد تبوّق گھوم چکا
ہوا میں کھوئی ہوئی راگمنی پہ جھوم چکا
نمکوں کے بھیگے ہوئے عارضوں کو جو م چکا
بس اب اسٹ کے رہوں گی یہ پردہ ہائے قدیم

کہ عام ہونے کی تیری رحمتوں کی شیدم
کوئی پھارہا ہے مجھے ندیم ! ندیم !
میں آرزو کو حقیقت بنائے دم لوں گا
میں اپنی خاک سے نعمت بنائے دم لوں گا
تیرے جہان کو جنت بنائے دم لوں گا

کیفی اعظمی روادادت ۱۹۱۶ء) ایک مقبول، ترقی پسند اور انقلابی شاعر ہیں۔
ان کے دو مجموعہ کلام "جھنگار" اور "آخر شب" شائع ہو چکے ہیں۔ جن کے مطابع
سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی عمر و ماںیت میں ڈوبی ہوئی نظیں
لکھیں پھر سوری طور پر قوم پرستی اور آزادی کے محیت مhalے لے گئے۔ اب کیونٹ
نظریات میں اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنی نظیں میں فکارانہ طریقے سے انقلابی
نظریات پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک اور عین مالک میں ہونے والے سیاسی
و اتفاقات پر تبھی دلچسپ اور پراشر نظیں لکھی ہیں۔ عوام کے سکھ دکھو کو انہوں
نے اپنی نظیں میں اس طرح سمویا ہے کہ فن اور موضوع ایک ہو جاتے ہیں۔ کچھ
دنوں سے وہ آزادوزن کا تحریر تبھی بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں۔ ان کی ایک
خوبصورت نظم کے کچھ شعر دیکھیے:

کلی کاروپ، پھول کانکھا ریکے آئی تھی
وہ آج کل خواز، بھار لے کے آئی تھی
تمام رات جا گئے کے بعد چشم سست میں
یقین کا رس، امید کا خار لے کے آئی تھی
بسنی ساری میں چھپا ہوا سا وہ جوان بُن
جو ان بدن پر شیبی بھار لے کے آئی تھی
وہ صندلی کلا شیاں وہ بسزو سرخ چوڑیاں
سہاگ لے کے آئی تھی، سنگار لے کے آئی تھی
مری اجاو زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں
وہ گیسوں کا ابر عطر بار لے کے آئی تھی

اداں اداں زیست کو ناہی تھی بانسی
گھٹے گھٹے سکوت میں تار لے کے آئی تھی

اُس کے انقلابی شعرا میں مجرِ وحش سلطان پوری بھی مقبول شاعر ہیں۔
دوسرا ترقی پسند شعر اُن کی طرح وہ بھی رومانی آدرشون سے انقلاب کی طرف
آئے ہیں، انہوں نے زیادہ تر غزلیں ہی کہی ہیں، جن کا ایک چھوٹا سا مجموعہ
غزل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آج کل بیش تر فلموں کے لیے گیت ہی سمجھتے
ہیں، مگر ان کی غزلیں ادنیٰ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں کیف کے ساتھ ترقی پر
بھی ملتی ہے۔ ان کے یہ شعر مثال کے لیے دیکھیے:

دشمن کی دوستی ہے اب اہل وطن کے ساتھ
ہے اب خواں چمن میں نئے پیر ہن کے ساتھ
سر پر ہوائے ٹلم چلے، سو جبن کے ساتھ
اپنی کلاہ نکے ہے اسی باکپن کے ساتھ
بہہ کرز میں پہ ہے ابھی گردش میں خون میرا
قطرے وہ پھول بنتے ہیں خاک وطن کے ساتھ
کس نے کما کہ ٹوٹ گیا خجز فرنگ
سینے پر ختم نوبھی ہے داغ ہن کے ساتھ

شمیم کریمان (پیدائش ۱۸۷۶ء) نے شعرا میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔
اغلام گردھ (اتر پردش) کے رہنے والے ہیں۔ کچھ مدت تک نہ ہی اور رومانی
تبلیغیں سمجھتے رہے، پھر ملک کی قومی تحریک سے تاثر ہو کے سیاسی اور انقلابی
تبلیغیں سمجھنے لگے۔ اپنی تخلیقات میں کبھی کبھی سندھی کے نقطہ بڑی فنکاری کے
ساتھ لے آتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے چار مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔
جن کے نام ہیں: برق و باراں، روشن انڈھیرا، ترانے اور عکس محل، کچھ
دنوں سے ملک کی جنگ آزادی کی تاریخ ایک فیغم شنوی کی شکل میں قلم ہند
کر رہے ہیں۔ ان کے ایک قومی ترانے کے کچھ شعر دیکھیے:
ہم کام کے نفعے گھاتے ہیں، بیکار تراہ کیا جائیں

جو صرف عمل کے بندے ہیں وہ بات بنانا کیا جائیں
 رگ رگ میں لہو کو گرماتے، جلتے ہیں دھن کی جگاتے
 ہم عہدِ حوانی کے ماتے، بوڑھوں کا زمانہ کیا جائیں
 طوفان میں کشتی کھیتے ہیں، کسار سے ٹکرلتے ہیں
 ہم جنگ میں سرے دیتے ہیں، ہم پاؤں ناکیا جائیں
 بے خوف چپیں سنگینوں پر، اور روک لیں گولی سینوں پر
 نکھلے ہے ہماری جبینوں پر، ہم سرکو جھکانا کیا جائیں

بال مکعد عرشِ ملیانی (پیدائش ۱۹۱۸ء)، پنڈت بھورام جوش کے صاحبزادے
 اور خود ایک اچھے شاعر ہیں۔ جوش ملیانی کو پرانے شرعاً میں نہایت درجہ
 اعزاز حاصل ہے۔ دائغ کے تلامذہ میں ہیں اور خود اساتذہ میں شمار کئے
 جاتے ہیں۔ زبان اور فنِ شاعری کے مقتندِ رعالم کی حیثیت سے شهرت کے مالک
 ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں فردوسِ گوش اور جنونِ دھوش، قابل کر
 ہیں۔ عرش بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ کئی برس تک اردو مابہنے 'آجھل'
 کے مدیر رہ چکے ہیں۔ ان کے کلام پر پرانے اور نئے پن کا امتزاج ہوتا ہے،
 سچائی اور سادگی ان کے کلام میں خاص طور سے دکھائی پڑتی ہے۔ گھیت
 غزل اور نظم بھی بڑی ہمارت سے لکھ سکتے ہیں۔ ان کی نظموں کے لئے مجموعے مشور
 ہیں جیسے سیفِ رنگ، چنگ و آنگ، شرار و نگ، ان کی ایک غزل کے
 کچھ شعر دیکھیے:-

جن غم سے دل کو راحت ہو، اس غم کا مدار کیا معنی
 جب فطرت طوفانی ٹھہری، ساحل کی تنا کیا معنی
 راحت میں رنخ کی آمیزش، عشرت میں لمکی آلش
 جب دنیا ایسی دنیا ہے، پھر دنیا دنیا کیا معنی
 خود شیخ و برہن مجرم ہیں، اک بھام سے دونوں دو سکے
 ساقی کی بخل پندی پر ساقی کا شکوہ کیا معنی
 جگن نا تم آزادِ دلادت ۱۹۱۸ء، بھی پنجاب کے مقبول اور مشور شاعر ہیں

وہ بھی اردو کے مشہور شاعر تلوک چند محروم کے بیٹھے ہیں۔ سندھستان کی آزادی کے بعد کے حادثے کے بخشنے ہوئے تجربوں نے ان کے کلام میں ایسا درد پیدا کر دیا ہے جو ان کا کلام پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آزاد ترقی پسند اور جوشیلے خیالات کے شاعر ہیں۔ انھوں نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، مگر شاعر کی حیثیت سے ان کی ایک تاریخی جگہ ہے۔ ان کے اسلوب پر تھوڑا بہت اثر ڈاکٹر اقبال کا بھی دکھائی پڑتا ہے۔ ان کے مجموعے بیکراں، تاروں سے ذروں تک، اپنے وطن میں جبکی شائع ہو چکے ہیں، جن کے مطابعے سے ان کے ترقی پسند خیالات اور انسانی دوستی کا احساس ہوتا ہے۔ ذیل میں ان کے بھی کچھ شعر مثال کے لیے دیے جاتے ہیں:

بس ایک نور جھلکتا ہوا نظر آیا
پھر اس کے بعد نہ جانے چمن پر کیا گزری
میں کاش تم تو سبی اہلِ وطن بتاسکتا
وطن سے دور کسی بے وطن پر کیا گزری
میرے چمن میں بھی آئی تو تھی ہمار مگر
میں کیا بتاؤں کہ اہل چمن پر کیا گزری
خموش کیوں ہیں قتیل و ندیم، کچھ تو کہیں
ہمارے بعد ہمارے وطن پر کیا تحریری

آخر انصاری پیدائش ۱۹۰۷ء (م) شاعر، مقام اور افسانہ نگار تینوں حیثیتوں میں ایک بلند مقام حاصل کر چکے ہیں۔ شروع میں شیلی اور کیمیس سے متاثر ہوئے اور اپنی تخلیقات میں قتوطیت اور عزم اُنگیز جذبات کی تبلیغ کرتے رہے، مگر ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر انھوں نے بھی اپنی شاعری کو سیاسی و سماجی شعور پیدا کرنے کے کام میں لگا دیا۔ ان کی پرکھیف بیشتریں اور جذبات سے ملوا آواز میں بڑا ذرور ہوتا ہے۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں آج گینے، روحِ عصر، اور خندہ سحر، مشور ہیں۔ ان کے دو قطعات دیکھیے:

دل کو بر باد کیسے جاتی ہے

غم بدستور دیے جاتی ہے
 مرچکیں ساری اسیدیں اختر
 آرزو ہے کہ جھٹے جاتی ہے
 خون بھرے جام انڈلیتا ہوں میں
 میں اور درد جھیلتا ہوں میں
 تم سمجھتے ہو شر کرتا ہوں میں
 اپنے زخموں سے کھللتا ہوں میں

جن شاعروں نے بہت تھوڑے وقت میں نام پیدا کیا ہے وائق جو پوچھی ہیں۔ انہوں نے سجادگی سے دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں شاعری شروع کی، اس لیے ان پر عصری شعور کا اثر نہ ماں طور سے دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور ترقی پسند از نقیض لکھیں ہیں۔ کبھی کبھی آزاد دوزن اور عوام کی بولی میں لمحنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ ان کے دو مجموعے چھیتیں، اور جس شاعر ہو چکے ہیں، پہلے مجموعے کا سمجھی کلام ۱۹۴۷ء کے فرقہ وار از فادات اور گاندھی جی کے قتل سے متاثر ہو کے لکھا گیا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ بہت کم سمجھتے ہیں۔ مثال کے لیے حسب ذیل شعروں لکھیے۔

سرخ دامن میں شفق کے کوئی تارا تو نہیں
 ہم کو مستقبل ذریں نے پکارا تو نہیں
 دست و پا شل میں اکنارے سے لگا بیٹھا ہو
 لیکن اس سورش طوفان سے ہمارا تو نہیں
 دیوانے دیوانے تھہرے کھیل گئے انگاروں نے
 آبلہ پائی اب کوئی پوچھے ان ذہنی بیماروں سے
 کس نے بسایا تھا اور ان کو کس نے یوں بیاد کیا
 اپنے ہو کی بو آتی ہے، ان اجرے بازانے

سکندر علی وجد (ولادت ۱۹۱۶ء) ہد جدید کے ممتاز شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ اوں نگ آباد اور حیدر آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد حکومت نظام

میں ڈپٹی نگر کے ہدایے پر مقرر ہوئے، ابھی کچھ ہی سال پہلے جویں سے نہشونے کے اور زندگ آباد اور بھبھی میں ادبی زندگی سبکر رہے ہیں۔ طالب علمی کی زندگی میں ہی حیدر آباد کے اچھے شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی نظموں میں گھری ہندوستانیت کے ساتھ ساتھ لطیف فنی شعور بھی ملتا ہے۔ ان کے اسلوب میں نئے پرانے کا امتزاج دکھائی پڑتا ہے۔ ان کے تین مجموعے ہوتے ہیں،
آفتاب تازہ، اور اوراق مصتوڑ چھپ چکے ہیں۔ اجتنا، ایلو را اور تاج محل پر ان کی نظمیں مقبول ہو چکی ہیں۔ ایلو را، کا ایک بند مثال کے لیے دیکھیے:

خیال ہے سنگین آگینوں میں
چھپائے نور اذل بت ہیں آستینوں میں
دول کا سوز نہاں تھروں کے سینوں میں
حیات جذب ہے ان بے شکن جینوں میں
یہاں جو سیر کو فکر رسا بخلتی ہے
وفورِ شوق میں پربت کی سانش حلقتی ہے

غلام ربانی تابان رولادت ۱۹۱۳ء معاصر شعرا میں اہمیت رکھتے ہیں۔
دکالت کا امتحان پاس کر کے آٹھ نو سال تک پرکشش کرنے رہے۔ پھر اجنبیں
ترقی پسند مصنفین میں شریک ہو کے انتلافی نظمیں سمجھنے لگے، کچھ تدریت کے
لیے جیل میں قید بھی رہے۔ ۱۹۵۰ء سے مکتبہ جامعہ دہلی کے ناظم ہیں۔ شروع میں
بیشتر اقلابی نظمیں سمجھتے تھے۔ اب غزل کی طرز روحان بڑھ گیا ہے جس میں
انھوں نے لطیف اشاروں، مگرے جذبات اور انفرادی احساسات سے بڑی
دیکشی پیدا کر دی ہے۔ وہ کم سمجھتے ہیں مثلاً جو کچھ سمجھتے ہیں اس میں زندگی کے
سائل کی دھڑکن سنائی پڑتی ہے۔ ان کے دو مجموعے ساز لرزائیں اور حدیثہ
شائع ہوئے ہیں۔ مثال کے لیے ایک غزل کے کچھ شعر دیکھیے،

چمن میں کس نے کسی بے نزاکا ساتھ دیا
وہ بُوئے گل تھی کہ جس نے حبا کا ساتھ دیا
تجھے خبر بھی نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن نے

کہاں کہاں تیری آواز پا کا ساتھ دیا
 دل خراب کی یہ سادہ لوحیاں تو بہ
 جفا کے بعد سبھی اپنے جفا کا ساتھ دیا
 جب تجوہ ہو تو سفرِ حستم کہاں ہوتا ہے
 یوں تو ہر موڑ پر منتظر کامکاں ہوتا ہے

اس نسل کے مشور شاعر خنزیر الائیان (ولادت، ۱۹۱۵ء) ہیں۔ ان کا پچھپن
 بڑی مشکلوں میں سر ہوا۔ قیم خانوں میں رہ کر تعییم حاصل کی۔ بی، اے
 پاس کرنے کے بعد کئی نو کریاں تھیں، بعد میں بھی چلے گئے۔ اب بھی وہیں ہیں۔
 فلم کے لیے گیت کم مکالے زیادہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی
 احساسات، انہوں اور شمشکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی
 شعور بھی انہر آیا ہے۔ اپنے دھیمے ہیجے میں بڑی خوبصورتی سے دل کی
 آگ باہر انڈیں دیتے ہیں۔ ان کے مجموعہ "کلام سب زنگ"، "ماریک سیارہ"
 اور یادیں، شائع ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم مثال کے لیے دیکھیے:-

شب ماہ بھی تو، سر بھی تو
 کرفناں بھی تو ہے، اثر بھی تو
 یہ تری بسار کے دن سہی
 یہ ترے نکھار کے دن سہی
 نہ مٹا کسی کو سنبھل سنبھل
 سر راہ یوں نہ بیک کے چل
 کر زمیں پہ رہتے ہیں اور بھی
 جنھیں حسن سے بھی لگاؤ ہے
 جنھیں زندگی بھی عنبر ہے

علی جو ادرازیدی رولادت حذف کیا گیا نے طالب علمی تکی زندگی ہی میں اپنی نظموں
 میں حب الوطنی کی جو تھی کر شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے وکالت پاں
 کر کے کچھ دن وکالت بھی کی۔ پھر کانگریس کے آدرسون کو اپنا کر ملازمت کر لی۔

وہ شروع دنوں میں اپنی خاص جگہ رکھتے ہیں اور شاعری میں نئے نظریات سے فیضان پاتے ہوئے بھی ادب کی روایات سے رشتہ نہیں توڑتے، ان کے مجموعے اُرگ سنگ اور میری غربیں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک غزل کے کچھ شعر دیکھیجئے۔

ساقی کی نظر بھی بدلتی ہے، محفل میں صلائے عام بھی ہے
آؤ ناذر اہم بھی ہو لیں، کچھ آج سنہری شام بھی ہے
پیدا و زدن کیا، کچھ بھی نہیں، اک اور قدم اپنے خلب
جیسے کی تنا بھی ہے مگر، مر نے کا یہی انعام بھی ہے
اس سود و زیاد کی دنیا میں، ہم ذکر رطافت کیا کرتے
پیخوف دلوں کو گھیرے تھا، ہر صبح کے بعد کاشام بھی ہے

۱۹۳۰ء کے بعد ہندوستان میں اور عالمی شعور میں جو تغیر و تبدل ہوئے، انہوں نے یا سی اور اشتراکی خیالات کو اولیت دے دی۔ اس کا اثر ادب کے مختلف میدانوں میں نمایاں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لمبجھی انسی جو ادب کے افکار کی سچائیوں اور سماجی شعور کے خلاف فن اور جمال کے انفرادی انہصار کو ادب کی اساس مانتی تھی۔ اس نظریے کے شرعاً نہیں اور اسلوب کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر نہیں نہیں تجربے شروع کیے۔ شروع میں مخفی تین باتیں نمایاں تھیں، ایک سماجی مسائل کا چھوڑ کے اپنے انفرادی تجربات کا انہصار دوسرے فرائد کے زیر اثر لاشعوری کیفیت پر توزیع تیرے، آزاد اور ان کو شاعری کی افضل ہیئت تسلیم کرنا۔ ان میں سے بیشتر نے شرعاً احساسات کی بجد کے نام پر کچھ مغربی شعرا کی کورانہ تقلید کرتے تھے۔ جیسا کہ ہوتا ہے ان میں کچھ داقتی نتوت تخلیق رکھتے تھے، مگر زیادہ تر اپنی ثقافت، طرزِ زندگی، ادب اور نیان کی تاریخ سے نابلد ہیں یا روایت کی اہمیت ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے شعرا کی تعداد بہت ہے۔ اس ادبی انقلاب کے اس باہم سراسر ایسے دارانہ سماج کے بھر ان اور ہندوستان کی یا سی جد و جد کے اضمحلال میں دیکھے جاسکتے ہیں بہت سے نوجوان شعرا کے یہے اپنی بخی یا سماجی زندگی میں کوئی سکھنا تھا، اس لیے

جو لوگ جدوجہد کی راہ سے نجح کر جانا چاہتے تھے، وہ ادھر، ہی چلے گئے۔

اردو فن شاعری اور عروض میں تغیر شروع ہو چکا تھا اس کی طرف شر آنکھنوی، نظم طباطبائی، اسمیل میر بھی، عظمت اللہ خاں، اندر جیت، شrama حیفظ جالندھری، ساغر نظامی نے مسلسل اشارے کیے تھے، ۱۹۳۸ء کے بعد یورپی شاعری کے اثر اور اتباع میں نظم آزاد کا رواج ہوا۔ اس نئی ہدایت کے ابتدائی مبلغوں کی شکل میں میراجی، نیم راشد، خالد اور مختار صدقی کے نام یہے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے تجھیں و اسلوب دونوں میں تبدیلیاں کیں اور اس نقطہ نظر کو پوری طرح پیش کرنے کے لیے بہت سی پابندیوں کو مسترد کر دیا اور آزاد ادازان کا بھی تجربہ کیا، شروع میں ان تجربوں کی بڑی مخفی ہوئی، مگر دھیرے دھیرے بہت سے نئے شاعروں نے اسے اختیار کر لیا۔ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسی نئے تجربے کے دروازے سے ہو گرفتاری آئیا۔

پسندی اور رجحت پسندی کے خیالات نے شاعری میں راہ پانی۔ بہت سے لوگوں نے اس کو ترقی پسند شاعروں کی تحریک سمجھ کر اس کی بڑی تنقید بھی کی مگر اصل یہ ہے کہ تجربہ پرستوں نے اگر نظم آزاد کا تجربہ کیا بھی تو ترقی پسند خیالوں کے لیے اس کے برخلاف رجحت پسند شرانے اپنے چھپے ہوئے عریاں اور خوش خیالات کی اشاعت کے لیے اس کا استعمال کیا۔ اس میں شکنیں کہ اس وقت کے کئی شاعر فرانش اور امریکا کے فراریت پسند شرام سے متاثر تھے۔ یہ بتا نامحال ہے کہ اردو میں آزاد بھر کا استعمال سبے پہلاں نے کیا لیکن یہ بات اعتماد کے ساتھ کھی جاسکتی ہے کہ راشد (پیدائش ۱۹۱۶ء) اور میراجی ۱۹۲۹ء سے ۱۹۴۰ء اس رنگ کے دوڑتے شاعر ہیں اور انہوں نے اسے پھیلانے کے سبے زیادہ جتن کیے راشد میراجی سے زیادہ ترقی پسند ہیں اور کبھی کبھی سماجی اور سیاسی مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن میراجی تو فرمائڈ کے مقلد محض تھے اور اپنی نظلوں، اور حسین گیتوں اور فلم لائنز مضمونوں میں اسی کے خیالات کا پروپگنڈہ کرتے تھے۔ راشد کے دو مجموعے ”مادر“ اور ”ایران“ میں اجنبی، شائع ہوئے ہیں۔ میراجی کی کمی کتابیں

چھپ چکی ہیں، جن میں گیت ہی گیت اور میرا جی کی نظمیں مشہور ہیں۔ تجربوں کے اعتبار سے سلام پھلی شری اردو کے ایک اچھے شاعر ہیں۔ ہندی الفاظ کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں اور اپنے کلام میں ایک ایسی جدت پیدا کر دیتے ہیں، جو ان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے یمن مجموعے، 'میرے فتحے'، 'وستیں'، اور پائل، ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرے شعر اجنب کے اسلوب اور جدیدیت کا اثر اس وقت کے نئے شاعروں پر ٹرا ان میں ڈاکٹر تاشیستر (۱۹۰۲ء) اور تصدق حسین خالد بھی ہیں، مگر ان کے لظموں کے مجموعے بے جان نظر آتے ہیں۔

اسی نسل اور اسی صفت کے دوسرے شعراء ہیں۔ جن کو اہمیت حاصل ہے مگر اس مختصر تاریخ میں ان کا ذکر ممکن نہیں ہے۔ مطابع کی سولت کے لیے ان کے اور ان کی تخلیقات کے کچھ نام دیے جاتے ہیں، جیسے شاد، عارفی (سفیدہ چاہیے)، اجتبی رضوی رشعت، ندا، پرویز شاہدی (نقش حیات)، قیتل شفافی (دیگر، اور ہریالی)، نیاز حیدر (جمال مصر، اور قصر بیان)، آل احمد سرور (ذوق جنون)، ہری چند اختر (کفر و ایمان)، طہیر کاشمیری (عظمت آدم)، بشیر پرشاد منور (کمار سبھو اور نوائے کفر)، محمور جالندھری (جلوہ گاہ اور تلاطم)، فکر تو سنوی و۔۔۔ نریش کمار شاد (قاشیں، ملکار، دستک اور وجдан)، عدم (خرابات اور ویج و خم)، سعود اختر جمال (نورس)، فارغ بخاری (آیات زندگی)، سیف (خم کاٹل)، اور کئی دوسرے یہ باتیں ظاہر ہے کہ یہ سب فن اور زندگی کے بارے میں اپنے مخصوص خیالات رکھتے ہیں مگر یہ محض تجربہ پسند نہیں ہیں فن اور زندگی کی کوئی نہ کوئی بحث اس کے پاس ضروری ہے۔

جس قاری نے پھلے کچھ اور اق کو فہم و ادراک کے ساتھ پڑھا ہو گا اسے یہ اندازہ لگانا آسان ہو گا کہ اردو شاعری کی رفتار ہند وستان کی دوسری زبانوں کی شاعری سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ وہ سب دھارے آج انسان کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور ذہنی زندگی میں اونچی اونچی نہیں انہار ہے ہیں، ان سب کا بیان ان شعرائے کیا ہے۔ کچھ ہیں جن کا شعور انقلابی ہے، کچھ ہیں جو

محض جدیدیت کو ترقی، پسندی اور عصریت سمجھتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنے طبقے سے کٹ کے اس طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، جسے وہ مستقبل کا معمار سمجھتے ہیں اور کچھ ہیں جو ابھی بیچ میں کھڑے اپنی راہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان میں ایسے شاعری ہیں جنہوں نے عارضی اور عصری واقعات اور خیالات کو شاعری کا موضوع بنایا ہوا اور ایسے بھی ہیں جو شاعری کو ابدی اقدار تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ ماکس کے مرید ہیں، کچھ فرائذ کے اور کچھ دونوں میں اشتراک چاہتے ہیں۔ اس طرح اردو شاعری میں مختلف اسلوب، شعور کے مختلف معیار اور مختلف روپ ملتے ہیں۔ مستقبل کیا معلوم ہوتا ہے، ادھر آخری باب میں اشارہ کیا جائے گا۔

تیرھواں باب

تشرک کے نئے روپ

کہا جاسکتا ہے کہ یہ نشر کا ذرور ہے، کیونکہ اُنسی شعور اور تلاش حق کے لیے ہی کو آکہ بنایا جاسکتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دور حاضر میں نثر کا غیر معمولی ارتقا ہوا اور اس کے متعدد دمید انوں میں اُنہم خلیقات روشنی میں آئیں چھپے باب میں کچھ ناول نگاروں، افسانہ نویسوں، نقادوں، سوانح نگاروں، مقابلہ نگاروں، محققوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ بیسویں صدی کی تیسرا دہائی میں نثر کا میدان نہایت وسیع ہو گیا اور رخصوصیت کے ساتھ کہانی، ناول، تنقید، تحقیقی مقالوں اور طنز یہ ادب کا لا جواب ذخیرہ مجمع ہو گیا۔

اردو کا افنازی ادب ایک اعتبار سے بہت مالا مال رہ چکا تھا۔ اُنیسویں صدی کے وسط میں جب نئے شعور کی توسعہ ہو رہی تھی، اسی وقت تکھنو، دہلی اور راپور میں بڑی بڑی خیالی راستائیں تکھی گئیں، جو تکھی تکھی سہرا را دراقد تک پہنچتی تھیں، پھر حقیقت پسندی پر بنی ناول لکھنے جانے لگے، کہانیوں کا ارتقا کھوڑک کے ہوا، مگر تصور ہے ہی دنوں میں کہانیاں انفرادی اور سماجی زندگی کی پیشی کش کا سب سے زیادہ موثر ذریعہ بن گئیں۔ ان میں کچھ کابیان گریشہ ابواب میں ہو چکا ہے، مگر ہدایت اخلاقی کو ہم زندگی سے بیطھیں لانے کا کام پر یہ خندنے کیا۔ اس لیے پر یہ خپد نئی کہانی کے فن کے موجود کے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی زندگی کی

کیشرا جمادات کمش کو اپنی تخلیقات میں ایسے در غشاں طریقے سے پیش کیا کہ کمانی سماج کا جنتیا بجا گتا آئینہ بن گئی اور ان کے بعد کے لکھنے والوں کے سامنے خیستیں نمایاں ہو گئیں۔

پریم چند سے اردو دان اور ہندی دان یکساں طریقے سے واقع ہیں۔ اس لیے ان کی نسبت یہاں تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریم چند کا گھر کا نام دھپٹ راتے تھا۔ وہ ۱۸۸۶ء میں بنارس کے قریب ایک گاؤں لمبی پانڈے پور میں پد اہونے ان کا گھرانہ کا ستون کامیوی گھر ان تھا۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بھی ٹھیک سے نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنی لگن اور شدید مشقت سے اردو فارسی اور دوسرے مضمایں کا مطالعہ کر کے انڈنس پاس کر لیا اور مکمل تعلیم میں ایک معنوی سی نوکری کر لی۔ دھیرے دھیرے بی بائے تک کی ڈگری حاصل کی اور دُپٹی اسپکٹر مدارس ہو گئے۔ مگر محنت کی خرابی سے پھر اسکول کے ماستر ہو کر گور کمپور میں رہنے لگے۔ ۱۹۱۰ء میں جب تحریک آزادی زیادہ و سیع ہوئی تو عگاندھی جی کے آدرسوں سے تاثر ہو کر انہوں نے سرکاری نوکری سے استعفی دے دیا تاکہ آزاد رہ کے دلیش اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ اپنی تدرستی کے خراب ہونے اور معاش کے لیے مشقت کشی کرتے رہنے کے باوجود ان کی پوری زندگی مصنفوں کی زندگی رہی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پریم چند نے سترہ اٹھاڑہ سال کی عمر ہی سے لکھنا شروع کر دیا تھا، اگر ان کو شہرت ۱۹۰۴ء کے بعد حاصل ہوئی، جب انہوں نے جب الولٹنی سے تاثر ہو کر کہانیاں لکھنا شروع کیں، پہلے نواب راتے کے نام سے لکھا اگر جب انگریزی سرکار پہنچے پڑ گئی اور یہ نام چھپ نہ سکا تو ۱۹۱۰ء سے پریم چند کے فرضی نام سے ادبی میدان میں اتر آتے۔ اسی نام نے انہیں امر بنا یا۔ اس سے پہلے ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز و مکن کے نام سے شائع ہو چکا تھا۔ اس کی اشاعت پر سرکاری طقوں میں بڑا غیض و غصب ظاہر کیا گیا اور انہیں سخت انتباہ دے کر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس مجموعے کو جلا دیا گیا۔ کئی رساں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے ہنس کے نام سے اپنا ایک ترقی پسند رساں نکالا اور اپنا ایک

مطبع بھی قائم کریا معاشری بحران دور کرنے کے لیے کچھ دن فلمی دنیا کی ہوا بھی لکھائی، مگر ان کی زندگی بھی بہت سکھے سے نہیں بسر ہوئی! یہاں تک کہ ۱۹۳۶ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

پریم چند کے بارے میں اردو میں کم اور ہندی میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس محل پر فقط ان کی کہانیوں کی کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جن کے بہت سے بخوبی ہمارا شائع ہو چکے ہیں۔ جس مصنف کی ادبی زندگی کا آغاز اس طرح ہو کہ اس کا پہلا مجموعہ ہی آثار بغاوت کے الزام میں نذرِ آتش کر دیا جاتے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کچھ شکل نہیں رہ جاتا کہ وہ ان حالات کو بدلتا چاہتا تھا۔ جو پچھے طبقے کے مفاد کے خلاف تھے اور جو آزادی کے بغیر بد لے بھی نہیں جاسکتے تھے۔ گاؤں کے ایک مفلس کہنے میں جنم لے کر اور مشقت کی زندگی بسر کر کے پریم چند نے ادب میں ان عام لوگوں کو جگہ دی۔ جنہیں اچھے اپنے ادیب اور کردار نہیں بن سکتے تھے۔ کسانوں، زمینداروں، چھوٹے چھوٹے اہل حرف، اچھوتوں، مذہب کے نگہداں نوں بننے ہوئے نیتاوں، سمجھی سے بخوبی واقع تھے۔ اور ان کے جائزے سے انہوں نے اپنے تجربے کی جھوٹی بھری تھی۔ ان عام لوگوں کو وہ اپنی کہانیوں میں اس طرح لاتے تھے، جسے وہ زندگی کے میدان میں پڑتے پھرتے تھے۔ پریم چند جو کچھ لکھتے تھے، اس کا ایک مقصد ہوتا تھا اور وہ اس کو تخلیق فن کے خلاف بھی نہیں سمجھتے تھے اپنی سمجھی تحریروں میں انہوں نے ملک کی سماجی، معاشری اور سیاسی حالت کا تجزیہ کر کے اصلاح و تبدیلی کی راہ دکھانے کی سعی کی ہے۔ اسی لیے فتنی نقطہ نظر سے وہ حقیقت پسندوں میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے جیسے حسین اور سچے عکس، جذبات کی داخلی کشکش اور اس کے ثمرے میں عوام انہوں کے قلبی اسرار جس طرح ان کے یہاں کھلتے ہیں، دوسرے ایسوں کے یہاں اس کامیابی کے ساتھ نہیں ملتے۔ وہ اپنی تخلیقیوں میں ہمیشہ آزادی، انصاف اور ترقی کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے ترقی پسند ادب انہیں محفوظ ایک عظیم فن کا رہی نہیں بلکہ اپنا رہنا بھی مانتے ہیں۔ اگر ان کی تحریروں کا مطالعہ

تاریخی حیثیت سے کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ وہ اصلاح پسندی سے انقلاب کی طرف اور گاندھی وادی کی شالیت سے حقیقت پسندی کی طرف بڑی تیزی سے بُرحدار ہے تھے اور جو بھی ان کی اخیری تخلیقیں پڑھ گئے ہیں ماننے میں تامل نہ ہو گا کہ وہ ترقی پسند طاقتوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کیا کہ خیالات میں خامیاں بھی تھیں، جو معاصر سور کا جزو بنی ہوئی تھیں۔ اسی یہے کہیں کہیں ایک طرح کی شالیت پسندی ان کی حقیقت پسندی کو دبایتی تھی۔ پریم چند نے جو کچھ شروع میں لکھا اردو ہی میں لکھا۔ مگر بعد میں جب منہدی کی طرف متوجہ ہوئے تو بھی آخر تک اردو میں بھی تخلیق کرتے رہے۔ ان کے متعدد اہم کارنامے سب سے پہلے اردو ہی میں لکھے گئے اور ان کی اشاعت بھی اردو ہی میں ہوئی۔ پریم چند کی زبان اتنی عمدہ آسان اور معنی خیز ہوتی تھی کہ اردو کے سبھی تقاروں نے اس کو سراہا ہے۔ وہ نفظوں کے موزوں استعمال سے اسی فضاحتیار کر لیتے تھے، جو کہانی کی اثر خیزی کو بہت بڑھادیتی تھی۔ بھارت کی آتا، دیسی زندگی کے جیسے عمدہ عکس انہوں نے لکھنے پڑے ہیں، اس کا موازنہ کسی اور ادیب سے نہیں کیا جاسکتا۔ اردو میں جوان کے مجموعے چھپے ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ سوز وطن، پریم چھپی، پریم بیسی، واردات، زادراہ، خواب، دخیال، خاک پروانہ، آخری تحفہ، دیہات کے افانے، اور دودھ کی قیمت۔ ان کی کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک اردو کے کسی مجموعے میں شائع نہیں ہوئی ہیں۔

پریم چند نے اردو ادب میں عام زندگی کی عکاسی کی جو روایت چلانی تھی، وہ تھوڑی ہی مدت میں بہت مقبول ثابت ہوئی اور وہ سبھی ادیب جو دیسی زندگی سے واقف تھے۔ اسی بنیاد پر چلنے لگے سدرشن، اعظم کریمی، علی عباس حسینی، اوپندر ناتھ اشک وغیرہ پر ان کا غیر بہم اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ راہ بنائی، مگر ان کو فیضان پریم چند ہی سے ملا۔

علی عباس حسینی ۱۹۷۹ء۔ (۱۰۹) عازی پور کے رہنے والے تھے اور ۱۹۵۹ء

تک پوپ کے ہمکرہ تعلیم سے والبتر رہے۔ انھوں نے تقریباً ۱۹۱۹ء میں تکھنا شروع کیا اور بہت سکی کتابیں شائع کیں، نامک، نادل اور تنقید میں بھی ان کی اہمیت ہے۔ مگر ان کا خاص میدان عمل افسانے ہی ہیں۔ ان کی زبان سهل، شیریں اور روایات ہے۔ ان کو قلبی اور حذب باتی کرداروں کی صورت میں خاص کمال حاصل ہے۔ ان کی مطبوعہ کتابوں میں زفیق تہنائی، باسی پھول، آئی سی ایس، کچھ سہی نہیں ہے، میلہ گھومنی، اور ہمارا گاؤں، بہت مقبول ہیں۔ ان کے نادلوں میں شايدہ بار آئی، (جو سندی میں کومل نگری، کے نام سے چھپ چکا ہے) بہت دلچسپ سمجھا جاتا ہے انھوں نے اردو نادل کی ایک تنقیدی تاریخ بھی لکھی ہے، جس کا نام اردو نادل کی تاریخ و تنقید ہے۔ علی عباس حسینی کی ترقی پسندی ان کی انسان دوستی اور زندگی کے بارے ان کے فراغد لانہ جدبات سے پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں مشایست پسند اصلاح پر بنی کھانیاں لکھتے تھے، دھیرے دھیرے قومیت اور رعوام کی معاشی بدحالی ان کے افانوں میں جگہ پانے لگی۔ ان کا شعروں پر یہ چند کی طرح سیاسی نہیں ہے۔ بھربھی وہ اپنے نفیس اسلوب اور شیریں عبارت کے باعث بہت بڑے افسانہ بگار سمجھے جاتے ہیں۔

اس نسل کے دوسرے لمحے والوں میں اعظم کریمی، مجنوں گورکھپوری، احمد اکبر آبادی بھی مشہور ہیں، مگر اس وقت ان کا ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوستان کے ترقی پت مصنفوں نے ۱۹۳۲ء میں اپنی انجمن بنائی، مگر اس سے کھودت چلے ہی سیاسی بیداری بڑھنے اور میں الاقوامی خیالات کے پھیلنے سے کئی نوجوان نے ادب میں بھی شعوری طور پر انقلاب پیدا کرنے کے خیالات ظاہر کیے تھے۔ اس لیے تید سجاد طیب، رشید جہاں، احمد علی اور محمود ظفر نے اپنے کچھ افانوں کا مجموعہ، انگارے، کے نام سے ۱۹۳۲ء میں لکھنؤ سے شائع کرایا جو بم کی طرح ہندوستانی سماج پر بھٹا اور لوگ تملماً سخنے، حکومت نے اسے ضبط کر دیا، مگر اس کی اشاعت کا جو مدعای تھا وہ پوا ہو گیا۔ اس میں غیر متوازن اور حذب باتی طریقے سے مذہب، رسوم درداخ، اخلاقی

نصب العین اور جنبیات سے متعلق خیالوں پر کھل کر چوت کی گئی تھی۔ اس کا سلوب بھی نیا تھا جس پر یورپی ادب اور طرز فکر کے اثرات صاف طریقے سے دکھائی پڑتے تھے۔ فنی اعتبار سے ان کہانیوں میں کھی طرح کے نقائص تھے کیوں کہ ان میں مسائل کے سمجھنے کے بدے ان خرابیوں کی تہسی اڑائی گئی تھی جو تاریخی اور سلطنتی اسباب سے پیدا ہوئی تھیں۔ مگر اس کا اثر یہ پڑا کہ نئے ادیبوں نے ان کہانیوں کی بے خوفی اور حقیقت پسندی کو اپنا کر زندگی کے بھید کھونا شروع کر دیے اور مسائل کو بھی اس پس منظر میں دیکھا جنہیں سیاسی غلامی اور رعایتی بدحالی نے جنم دیا تھا۔ ان ادیبوں میں سے احمد علی کو کچھ عرصے پہلے تک ایک بلند مقام حاصل تھا۔ وہ انگریزی زبان کے ایک اچھے جانے والے اور ادیب ہیں۔ ان کا مولد دلتی ہے اور وہاں کی بول چال کی زبان کا استعمال وہ بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ اب وہ پاکستان میں ہیں اور بہت کم بکھتے ہیں۔ ان کے تین مجموعے، شعلے، سہاری گلی اور قید خانہ، شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی تخلیقات کے مواد سماجی اور ذہنی ہوتے ہیں اور بیشتر علامتوں سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کبھی یورپ کے علامت پسند و کاشتیج بھی کیا ہے۔ بہ اقمار فن ایک کامیاب ادیب ہیں مگر نقطہ نظر کے اعتباً سے کبھی کبھی ابہام کی طرف بیک جاتے ہیں۔ رشید جہاں، جن کا انتقال ۱۹۶۸ء میں ماسکو میں ہوا اردو کی ایک بڑی مقبول ادیب تھیں۔ وہ زندگی کی بہم تناول اور جذبوں کا ذکر بڑی کامیابی سے کرتی تھیں۔ سماج کی برا نویں پر ان کی چوت گھری ہوتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ گندگی کو چھپانا نے کے بدے اسے سب کے سامنے رکھ دینا چاہیے جس سے وہ سماج کی گھنڈی ہوئی حالت کو سمجھو لیں اور انقلاب کے لیے کمربستہ ہو جائیں۔ آن کے افسانوں میں تفریح کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا طنز بھی ملتا ہے جو قواری کو بہت تاکرتا ہے۔ انہیں متوسط طبقے کی گھریلو زندگی کی صورتی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ انہوں نے لکھا تو بہت مگر ان کا مجموعہ عورت کے نام سے شائع ہوا۔ کرشن چند اس دور کے افسانوی ادب کے سب سے اہم اور مقبول فن کار

ہیں۔ ان کی پیدائش ۱۹۱۳ء میں پنجاب میں ہوئی تھیں پس انہیں گذر را اور اعلیٰ تعلیم لا ہو رہیں پائی۔ کچھ دنوں تک وکالت کرتے رہے اور راسی کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی میں کچھ نگارشات کیں۔ ابتداء میں کچھ مزاحیہ افسانے اور مضمایں لکھے۔ ۱۹۲۷ء کے آس پاس ان کی رومانی کہانیاں پسند کی جانے لگیں اور وہ اپنا زیادہ وقت افسانہ نگاری میں گزارنے لگے۔ جب ان کی کہانیاں کا پھلا جمود، طلبہ خیال، شائع ہوا تو اس میں لوگوں نے ایک طرح کا حیرت خیز نیا پن اور دلچسپ سادگی پائی۔ سبھی کہانیاں رومانی تھیں، مگر ان سے پتہ چلتا تھا کہ ان کا سکھنے والا حیات و نفیات کے تجزیے کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر لے کے آیا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں انھیں بڑی اہمیت حاصل ہو گئی اور شاید یہ کوئی ایسا سال ہو گا جس میں ان کی کہانیاں نہ چھپتی ہوں کچھ دنوں کے نیئے انہوں نے ریڈ یو میں ملازمت کر لی تھی۔ پھر اس سے اٹک ہو کر اپنا تام وقت ادبی کاموں میں صرف کرنے لگے۔ معاش کے لیے فلمی کتابیں بھی لکھتے ہیں۔

کرشن چندر گذشتہ تیس برسوں میں کم از کم اٹھی سوتا بیس لکھیں۔ انہوں نے کئی ناول لکھے اور اچھی تحریر دوں کی تالیف کی ہے۔ فلم اور ریڈ یو کے لیے بہت سے ڈرائی سبھی لکھنے لگے ہیں۔ اس محل پر عرض ان کی کہانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی کہانیوں کے قابل ذکر جمیع یہ ہیں "نظرارے، زندگی کے موڑ پر، نوئے ہوئے تارے، ان داتا، تین عندرے، سمندر دوڑھے، اجتنا سے آئے، ہم وحشی ہیں، بیس انتظار کروں گا، مل کسی کا دوست نہیں، کتاب لکھن، اور ایک روپیہ ایک پھول، جو بھی کرشن چندر کی کہانیوں کا مطا کرے گا سے جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے فنکار ہیں، جو زندگی کے بلند درجے پر ہے، اس کی ترینگ اور تصویروں اور امیدوں اور خواہوں، دکھوں اور دردوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا ایک سماجی نظریہ ہے، جو انھیں یہ بتاتا ہے کہ آزادی، امن، عیش و آرام ہی ذی روح کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ سماجی صورت حال میں طبقوں کی تفریق، عوام

کی معاشی بدحالی، نظم و سق کے فسے داروں کے مظالم اور سرمایہ داروں کی لوث اور دیکھ کر ان کا قلم زیر میں ڈوب کر چلتا ہے۔ ایسے موقعوں پر ظالموں کے اوپر طنز کا تیر باراں بھلی کرتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ان کی سمجھت، ان کے مستقبل پر اعتماد اور زمان الفضائی کے خلاف اظہار نفرت کی خواہش، ان کی کہانیوں کا موضوع ہیں۔ ان کافن زندگی کے بدلتے ہوئے ذراائع کے ساتھ چلتا ہے۔ عوام کے مفاد کا تحفظ اور غم انگیز، زندگی سے ان کے بیے امرت نکال لینے کی کوشش کرشن چندر کا محبوب موضوع ہے۔ سیاسی اور سماجی زندگی کی ہر موڑ پر وہ چراغ لیے کھڑے ہیں اور وہ راہ دکھانا چاہتے ہیں جو ترقی اور امن کی طرف جاتی ہے۔

کرشن چندر کی زبان بڑی خدباتی، زیگن، شیریں اور جاندار ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اپنی تحریروں میں جادو بھر دیتے ہیں اور تقاری ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان کا مقصد ان کے فن پر چھا جاتا ہے اور ان کے نصب العین کا اثر پوری طرح سے نہیں پڑتا۔ مگر وہ اتنے بڑے فن کا رہیں کہ ایسے وقت میں بھی اپنی بات بنائے جاتے ہیں۔ ان کے فن میں کمی و بھی جا سکتی ہے، مگر ان کے خیالات ہمیشہ عوام کی فلاج کے نسب العین سے معمور ہوتے ہیں، اور یہی ان کی مقبولیت کی اساس بنتے ہیں۔

سعادت حسن منشو (۱۹۵۵ء - ۱۹۱۷ء) بھی موجودہ دور کے بہت بڑے ادیب ائے جاتے ہیں۔ پنجاب کے رہنے والے تھے اور لڑاکپن ہی سے لکھنے لگے تھے۔ ان کی کہانیاں فنی اعتبار سے کبھی کبھی کرشن چندر اور دسرے لکھنے والوں کی کہانیوں سے بھی مکمل ہوتی ہیں۔ منشو نے جب تکھنا شروع کیا اس وقت پنجاب، نقلابیوں کا مرکز ہیں رہا تھا۔ غنو ما رس اور گورنگی سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے روسی کہانیوں کے ترجیح بھی کیے اور کئی برس تک ترقی پسند ادیبوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ مگر ان کے ذاتی جذبات بہت دنوں سب کے ساتھ پل سکے اور انہوں نے اپنی راہ الگ بنانے کی جدوجہد شروع کر دی اور اس میں انھیں کامیابی بھی ملی۔ انہوں نے اپنے خیالات کو محض کچھ مسئللوں میں محدود

کریا تھا اسی لیے کبھی کبھی یہ خیال ٹھاہر کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے بہت سے اہم مسائل سے آنکھیں چراتے ہیں۔ ان کی بشیر کہانیاں فخش ہونے سے بالل پنج جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا جان پڑتا ہے کہ محض لوگوں کو چھپیرنے کے لیے وہ اصرار کے ساتھ اسی مسئلے پر لختے رہتے۔ فخش نگاری کا الزام لگا کر ان پر کئی بار مقدمہ چلا یا گیا ان کے فن کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں بہت سے ڈرامائی موز آتے ہیں جو عام مسائل اور حالات کو زندہ اور اثر انگیز بنادیتے ہیں۔ ایک سی موضوع پر اتنے لذت کھے انداز میں بہت سی کہانیاں تکھڑانا، منشو کا ہی کام ہے۔ عیش و عشرت میں سرست حوان لڑکوں اور رہکیوں، طوائفوں اور سماج کے گروے ہوئے لوگوں کی تصویر کشی منشو سے بتراحت تک اردو کوئی فن کا رہنیں کرسکا۔ انہوں نے بہت لمحہا ہے اور جب تک زندہ رہے کسی وقت بھی ان کے لمحے کا زور دیھا نہیں پڑا۔ ان کے کچھ مجموعوں کے نام یہ ہیں: دھوان، منشو کے افانے، لذت نگ، مزود کی خدائی، خالی دلبے خالی بولیں، تھنڈا گوشت، سیاہ حاشیے، یزید، چند، بادشاہت کا خالمند اور سڑک کے کنارے وغیرہ۔ منشو نے بہت سے ایک ایکٹ کے ڈرامے اور فلمی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔

راجندر سنگھ بیدری (رپید ایش ۱۹۱۰ء) اردو کے ادیبوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا مجموعہ 'دانہ دام' ہر ہن، کوکھ جلی، لمبی رُکن اور اپنے دکھنے دید و شائع ہوئے ہیں۔ وہ کم لمحتے ہیں مگر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، وہ فنی اعتبار سے اہم اور نفیس ہوتا ہے۔ ان کی کہانیوں کا موضوع بھی عمومی زندگی کے دہی مسئلے ہیں جو آرام اور خواب کوشکتہ کر دیتے ہیں اور آدمی کی داخلی زبوبی حالی اور اس کی خارجی زندگی کو ایک مضامکہ خرز مالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی کہانیاں ایسی خوب صورت، جاندار گفتگی ہوئی اور پر اثر ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ نیا تلا مواعظ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ لتے کہ ایک چھوٹی سی کہانی میں قوئی خیال اور کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اردو

کے مانے ہوئے افسانے نگاروں میں محبوب ہیں۔ بیدی نے ناٹک بھی لکھے ہیں جن کا مجموعہ سات کھیل ہے اور ایک ناول، ایک چادر تیللی سی شائع ہو کر اعزاز پا چکا ہے۔ وہ بہبی یہیں رہتے ہیں اور فلموں کے لیئے کہا نیاں لکھتے ہیں۔

عصمت چختائی (سید اُش ۱۹۱۵ء) موجودہ دور کی سب سے معقول خالون ادیب ہیں وہ جودہ پور کی رہنے والی ہیں ہلی گڑھ میں تعلیم حاصل کی اور ان صیئی کی قلمی دنیا میں ایک ایسا قلم کی حیثیتے زندگی بس کر رہی ہیں پنی پلی ہی دو تین کہانیوں میں انہوں نے پڑھنے والوں کو خوکا دیا اور سب نے اسے مان لیا کہ اولی میران ہیں ایک نئے فنکار کا درود ہوا جس کے پاس کہنے کو کچھ نئی باتیں ہیں اور وہ انھیں دلچسپ طریقے سے پیش کر سکتا ہے عصمت متوسط طبقے کے مسلمانوں کی زندگی کی آئی واقفیت کھلتی ہیں کہ ان کے افسانے پڑھ کر اس طبقے کے خاندانوں کی اخلاقی معاشری اور ذہنی زندگی انہوں کے سامنے ہے ان کے قلم میں جادو اور ان کے اسلوب میں عجائب طاقتیں۔ اپنی ابتدائی کہانیوں میں بھی کبھی انہوں نے بھی جنیاتی زندگی کی مصوری کرتے ہوئے فخش نگاری کے سامنے سر جھکا دیا ہے مگر ان کی حقیقت پسندی ان کی فخش نگاری پر پردہ ڈالنے تھی ہے۔ عورتوں کی بول چال ان کا رہن ہے ان کی خواہشوں اور تمناؤں کی عکاسی عصمت کے اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی بے محظی حیرت انگیز ہے مگر وہ اس سے سماج کے نیتاوں اور ٹھیکہ داروں کو چوٹ پہونچانے کا کام لیتی ہیں۔ وہ اول درجہ کی فنکار ہیں اور جو بھی ان کی کہانیاں پڑھے گا وہ ان کی ترقی پسندی اور انسان دوستی کو سراہے بغیر نہیں رہ سکے گما۔ انہوں نے ناٹک اور ناولیں بھی لکھی ہیں جن کا ذکر کہیں اور ہو گا۔ ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں کلیاں چوڑیں، ایک بات، پچھوئی موئی، اور دو ما تھے۔

اوپنیدر ناتھ نہیں کہ اور دو دنوں میں یکاں طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے پریم چند سے فیضان لے کے افسانے لکھنا شروع کیا تھا۔ اور آج بھی اسی بنیاد اور مقصد تک محدود ہیں۔ ان کی کہانیاں بھی خاص طور سے درسیانی طبقے کی سماجی زندگی پر مبنی ہوتی ہیں۔ نوع انسٹرکی معاشری حالت میں سدھا را اور معاشرے کی اخلاقی نظریات میں تبدیلی ان کے پسندیدہ موضوع ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور ڈرامہ نگار بھی انہوں نے ناول تھی لکھنے ہیں

اد راہمیت کے حامل مصنعاً میں بھی کچھ نقادیہ بات انتہے ہیں کہ کہانیوں میں ان کو وہ
ہمارت نہیں ملتی جو درا میں پائی جاتی ہے۔ ان کی کہانیوں کے سختی مجموعے
شائع ہو چکے ہیں جن میں کوئی قفس، داھی، چان، اور ناسور، قابل ذکر
ہیں۔

آخر انضاری بھی اردو کے ایک بڑے ادیب ہیں، مگر کم شخصی سے ان کو
جونا سوری حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں نے انھیں محض
شاعر کی حیثیت میں دیکھا اور کچھ نے نقاد کی حیثیت میں میگر درحقیقت وہ شاعر
اور نقاد سے بڑھ کر ایک افسانہ بھار ہیں۔ اسی کہانیوں میں وہ سچائی، سادگی
اور فتنی حسن سے بڑے تمہرے اور زکر انگلیز مسئلے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی کہانیاں
زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ بھی فن پر بہت عصبانی
دیتے ہیں اور ایک وقت میں محض ایک واقعے سے ایک ہی اثر پیدا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کے چار مجموعے مشور ہیں۔ اندھی دنیا، خونی ایندھی،
اورناری۔

آخر حسین رائے پوری رہیدائش ۱۹۱۲ء، نے ۱۹۳۱ء کے آس پاس
تھوڑے ہی سے افسانے لکھ کر بڑا نام پیدا کر لیا۔ بب وہ علی گڑھ میں پڑھتے
لکھ، اسی وقت انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سنکریت، سندھی، بنگالی
اور فرانسیسی بھی جانتے ہیں اور ان زبانوں سے انہوں نے کئی اہم ترجمے بھی
کیے ہیں۔ انہوں نے گور کی خود نوشت سوانح کا ترجمہ بھی کیا ہے، جو چھپ چکا
ہے۔ افسانہ نگار ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھے نقاد بھی ہیں اور ترقی پسند
تحریک کے شروع میں ان کی تحریروں سے نوجوانوں کو بڑا فیضان ملا، مگر کچھ
مدت گزرنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس تحریک سے دور ہوتے چلے گئے
اب پاکستان میں ایک بڑے سرکاری ملازم ہیں اور لکھنا بہت کم کر دیا ہے۔ بنگالی
اور سندھی سے متاثر ہو کر انہوں نے جو کہانیاں لکھیں وہ اردو کے ادبی میدان
میں بہت نئی اور نہیں سمجھی گئیں۔ ان کی کہانیوں کے دو مجموعے، محبت اور نرفت
اور زندگی کا میلہ، شائع ہو چکے ہیں۔

اردو کے ایک او ر مشہور افسانہ نگار حیات اللہ انصاری ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے مگر ان کی کہاں یوں کے محض و مجموعے بھرے بازار میں آونٹنگ سٹنگرے، اب تک شائع ہوئے ہیں۔

وہ اردو کے مشہور روز نامے "قومی آداز" کے مدیر ہیں اور بہت سے قومی اداروں میں حصہ لیتے ہیں۔ حیات اللہ انصاری گاندھی جی کے ساتھ ان کے آشرم میں بھی کچھ دن رہ چکے ہیں اور گاندھی واد کے بہت بڑے معتقدوں میں شمار کیجئے جاتے ہیں۔ اس کا اثر ان کی نگارشات پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ کم لکھنے پر بھی ان کو اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک خاص جگہ دی جاتی ہے۔ جذب بات کے تجزیے اور ان کو زندگی کے درپیش مسائل سے مرتبط کرنے میں وہ کامل ہیں۔ اسی لیے تقریباً ان کی ہر کہانی ایک اچھا فن پارہ سمجھی جاتی ہے۔ ان کا طرزِ فکر مدل ہوتا ہے اور کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہانی میں مصنوعیت پیدا کر رہے ہیں۔ زندگی کی اصلی اور حیثیں تصویر کر کر تھیں کہ ان کی کہاں یوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ ان کی زبان سهل، صاف اور پُر کیف ہوتی ہے۔

پنجاب کی دہماقی زندگی کی سب سے عمدہ مصوری کرنے والے احمد ندیم قاسمی اور بلونٹ شنگھی ہیں۔ قاسمی نے اپنی نظموں کی طرح شروع میں کہانیاں بھی رومانی طرز کی لکھیں، جن میں محبت کی جیتنی جاگتی تصویریں، گیتوں کی سیئھی زبان میں پیش کی گئی ہیں، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے ترقی پسندانہ سماجی موضوعوں کو اپنا یا اور بہت اہم کہاں یوں کی تخلیق کی۔ ان کہاں یوں میں مختلف طبقات کے لوگوں اور سماج کے در در سیدہ عوام کی غم انگریز روح بیدار ہو جاتی ہے۔ ان کی زبان بہت حسین اور دلچسپ ہے۔ کہانی کہنے کا ڈھنگ ایسا ہے جس میں سویت و جذب باتیت ملی جلی ہے۔ ان کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں چوپاں، بگوئے آبلے، سناٹا، چنچل، درودیوار، اور بازار حیات، مشہور ہیں۔ بلونٹ شنگھی میں بھی ایک اچھے افسانہ نگار کے اوصاف محبتع ہو گئے ہیں۔ بلونٹ شنگھ کا

ساماجی شعور ترقی پسندانہ ہے، مگر ان کی پیش کش میں کمیں کمی رہ جاتی ہے۔ پھر بھی ان کی بہت سی کہانیاں فنی اقتدار سے بڑی بھروسہ اور خوبصورت ہیں۔ ان کے مجموعوں میں سے جگہا، تارو پو، سہرا دشیں اور پلا پھر، شعور ہیں۔

اختر اور نیوی (پیدائش ۱۹۱۰ء) بہار کے مشہور ادیب ہیں۔ انہوں نے شاعری بھی کی ہے اور تنقیدیں بھی لکھی ہیں، ناول اور ناٹک بھی لکھے ہیں، مگر انہیں کہانیاں لکھ کر جو ناموری حاصل ہوئی وہ تنقید کے علاوہ کسی اور ادبی میدان میں نہیں ہو سکا۔ ان کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جیسے رفظ و پس منظر، بھول بھلیاں اور انمار بھلی، بھلیاں اور کانٹے، پچھلیاں اور بال جبریل اور ایک معمولی سی لڑکی، ان کی کہانیوں میں سماجی شعور قلبی احساسات کی راہ سے داخل ہوتا ہے اس لیے وہ ان مصنفوں میں گنتے جاتے ہیں جو زندگی کی مصوّری میں نفیات سے کام لیتے ہیں۔ ان کے برعکس بہاری کے ایک اور افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی ہیں، جو سماجی سائل پر لکھتے ہوئے اس روایت کی پیروی کرتے ہیں جو پریم چندر نے چلانی تھی۔ بہار کی دیسی زندگی کی حیثیں تصویریں ان کی کہانیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

خواجہ احمد عباس جو ایک مشہور صحافی اور مصنف ہیں، افسانوی ادب کی دنیا میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کہانیاں زندگی کے معمولی واقعات سے جنم لیتی ہیں۔ کہیں ان میں سیاسی اور سماجی شعور کا احساس ہوتا ہے اور کہیں بڑے سیدھے سادھے ڈھنگ سے ایک پریم کہانی کہہ دی جاتی ہے۔ ترقی پسند مصنفوں میں انہیں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مجموعوں میں ایک لڑکی، زعفران کے پھول، میں کون ہوں اور کہتے ہیں جس کو عشق، بہت مقبول ہیں۔

متالہ مفتی اور محمد حسن عسکری نے بھی لاشعور سے متاثر احساسات کا تجربہ کرتے ہوئے کہانیاں لکھی ہیں اور زیادہ تر نامعلوم و غافی جذبات و

خواہشات کی تصویر کشی کی ہے۔ کبھی کبھی ان کہانیوں میں سماجی شعور کا حصہ بھی مل جاتا ہے مگر زیادہ تر ان میں انفرادی زندگی کے عام دھار سے الگ محض مریضوں کے احساسات کا پتہ چلتا ہے۔ ممتاز مفتی کے کہی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں ان کمی، چپ، اور گہما گہمی، مشورہ میں حن عسکری کے دو مجموعے جزوی ہے، اور قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہی انکریزی اور فرانسیسی ناولوں کے ترجیبی کیے ہیں۔ وہ ایک اچھے نقاد ہیں اور ان کا نشری اسلوب بہت نفیس اور جاذب ہے۔ طرزِ فکر کے اعتبار سے وہ فرانس کے زوال پنڈ مصنفوں سے بہت متاثر ہیں اور ترقی پنڈ ان خیالات کے نہایت سخت مخالف مانے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے سے پاکستانی اور اسلامی ادب کے مبلغ ہو گئے ہیں اور سمجھیدہ معیار پر مذہب کی روحاںی قدر دوں کے بارے میں خیالات کا انہما کرتے ہیں۔

عزیزاً حمد نے بھی ناولوں کے علاوہ کہہ اہم کہانیاں بھی لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر خواہشات اور جنیاتی زندگی کی تناٹیں فحاشی سے بچتے ہوئے ظاہر کی گئی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں ایک طرح کا ذہنی نقطہ نظر بھی دکھائی پڑتا ہے۔ ان کے دو مجموعے قص ناتام، اور بے کاردن بیکار داتیں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھی کئی ناول لکھے ہیں، اور کئی کتابیں تنقید سے متعلق تھی ہیں۔ وہ پاکستان میں ہیں اور اب بہت کم لکھتے ہیں۔

ہمس راجح رہبر، اردو اور سندھی دونوں میں بحث ہے۔ وہ مارکسیت اور حقیقت پنڈی کے پرستار ہیں اور بڑی سادگی سے عام زندگی کی صورتی کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کے دو مجموعے مشورہ ہیں، نیا افق، اور ہم لوگ، انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور تنقیدی مقامے تھیں۔ پریم چپ پر ان کی ایک تصنیف قابل ذکر ہے۔ ان مصنفوں کے علاوہ بہت سے لیے ہیں جن کا ذکر افساؤں ادب کے سلسلے میں کرنا ضروری ہے۔ ان

میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ سال پہلے بڑا نام پیدا کر چکے ہیں مگر اب نئے لکھنے والوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، ایم ایم ل احمد، جیل قدوی، محنوں گورکھ پوری، حامد اللہ افسر، حباب اسلام علی دعیزہ۔ ان میں سے ہر ایک کے کمیٰ کمیٰ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جگہ کی کمی کے باعث اس وقت کے کچھ اور لکھنے والوں کی نسبت بھی کچھ لکھنا ناممکن ہے جو بہت مقبول ہیں اور جن کی کہانیاں بڑے اشتیاق سے پڑھی جاتی ہیں جیسے غلام عباس (آنتدی)، جاؤں کی چاندنی، منیذہ ناٹھر (چاندی کے تاء) جہاں میں رہتا ہوں، مائی ڈارنگ ٹول، نئی بیاری، ہندوستان سر پاکستان تک، ہاجرہ مسرور (حرکے، ہمارے اللہ) خدیجہ ستور (کھیل، بوجا چندر روز اور) ممتاز شیریں (ایضیٰ مکھریا) (قدرت اللہ شہاب رافانے) انور راگ کی آغوش میں (پریم ناٹھر دیسی ردنیا ہماری) ابراہیم جلیس (زرد چہرے، چراغوں کا سفر، چالیس کروڑ سبکاری، ہنکو نادیں، وغیرہ) اے حمید (خرزان کا گیت)، صدقیقہ ملک (چکیاں، لرزتے آنسو، رقص بیل) شوکت صدقیقی (پیسر آدمی)، انتظار ختن (تلخی کوچے، کنکری)، پرکاش پند (رسراش)، رضیہ سجاد طہیر نے بھی بہت سی کہانیاں لکھی ہیں مگر ان کی کہانیوں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہو سکا ہے۔ میرزا ادیب (صحر انور کے خطوط، خبل) صالحہ عبدالحیین، رزاں میں آس، لوگنگے، پریم ناٹھر (کاغذ کا باسلو، نیلی آنکھیں)، سیع الحسن (چوتھی بین)، اشفاق احمد (گڈریا)، کوثر چاند پوچھ (رشملہ منگ)، وغیرہ۔ افواز ٹھکاروں کی انسفل کے بعد جو نئے مصنفوں کے نام اس طرح لیے گئے ہیں ان میں سے کمیٰ آج کے بہت آجھے افواز ٹھکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ہندوپاک کی زندگی، طبقاتی کشمکش انسان کے داخلی جذبات اور ملک کی زبوبی طلبی سے بخوبی واقف ہیں اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو بڑی خوبی سے ان خوابوں اور تصوروں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ جن کی تکمیل جمد آزمائکوں کو انسان

کے لیے کرنی چاہیے۔

اردو میں نادل کے آغاز کا ذکر ہو چکا ہے مگر موجودہ زندگی کے جھی مسائل کو لے کر عوام کو نادل کا ہیر و بنائے، جس نے پہلے پہل نادل کی تصنیف کی وہ پریم چند ہی تھے۔ پریم چند کے شروع والے نادلوں میں وہ جمارت اور فن کارا نہ جامعیت نہیں ملتی جو ان کی کہیں بیویوں میں پائی جاتی ہے، مگر ان کے آخر زندگی کے لکھے ہوئے نادلوں میں صرف مگرے تجربوں کی ہی مصوری نہیں بلکہ ان میں فتنی حسن بھی پایا جاتا ہے شروع کے نادلوں میں پلات کا جو دھیلا پن پایا جاتا تھا، وہ بعد میں دور ہو گیا۔ خاص طور سے اپنے آخری نادل گنو دان، میں انہوں نے فن اور مصنوع کا امتزاج اس طرح کیا ہے کہ انھیں ہمیشہ عظیم فن کاروں میں شمار کیا جائے گا۔

ویسے تو پریم چند نے تقریباً ایک درجن نادل لکھے اور ۱۷-۱۸ سال کی عمر میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر بازار حسن لکھنے پر ہی ان کو ناموری حاصل ہوئی۔ یہ نادل 'بیووا سدن' کے نام سے ہندی میں چھپا۔ اس کے علاوہ ان کے مشورو اور رہم نادلوں میں 'بیوہ، چوگان ہستی' (رنگ بھوپی) اور میدان عمل دکرم بھوپی) گنو دان ہیں۔ پریم چند کے نادلوں کے بارے میں بھی نقطہ نظر کے اعتبار سے وہی باتیں کہی چاہیں کہ جو ان کی کہانیوں کی نسبت کسی گھٹی ہیں۔ یہاں بھی عوام کے سب سے بڑے نادل نگار نظر آتے ہیں۔

مرزا رسول اور پریم چند کے علاوہ اردو کے کئی مصنفوں نے زنان بازاری کی دردناک زندگی کی مصوری بڑے دل دوز طریقے سے کی ہے۔ فارنی سفر احسین کے کئی نادل اور سجاد حسین کسندروی کا نشر، اس کے نونے ہیں۔ لیکن نئی نفیبات اور سماجی شعور کو سامنے رکھ کے جس نے اس مسئلے کو چھپڑا ہے وہ قاضی مسدد النثار (وفات ۱۹۵۶ء) ہیں، جنہوں نے اپنے لاشماں نادل یتلے کے خطوط، میں ایک طوائف کی عمر انگریز کہانی بڑے

دچھپ طریقے سے کہی ہے۔ ان کی تخلیقات میں مسائل کا نجیز یہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کو فلسفیات تاثیر حاصل ہو گئی ہے۔ اس کتاب میں جذبائیت اور سخنیدگی کا ایسا امتزاج ہے کہ پڑھنے والا مخطوط بھی سوتا ہے اور مسئلہ کی اہمیت سے متذكر بھی ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان عمدہ اور معنی خیز ہے: قاضی عبد الغفار ایک بہت مشہور صحافی بھی تھے اور ادیب بھی۔ ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں سے 'حیات اجمل'، آثار ابوالکلام، آثار جمال الدین افغانی، عجیب مشہور ہیں۔

نئے انداز کا پلاناول، لندن کی ایک رات، سجاد طبیر دیپڈائش نئے ۱۹۳۹ء میں لکھا۔ سجاد طبیر نے کئی سال لندن اور پرس میں تحریرے تھے اور وہاں کے ادبی تحریرات سے تناشر ہوئے تھے۔ اس ناول میں انہوں نے یورپ کے کئی ادبی اسایب کا تجربہ کیا ہے، مگر اس کی اہمیت محض اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تصنیف میں یورپ سے فیضان ملا ہے۔ بلکہ یہ وہ پلاناول تھا، جس میں ہندوستان کے جوانوں کے تصورات و خواہش کوہیاں کے یا اسی پس منظر میں دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے کچھ طالب علم جو لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہیں اور متوسط طبقے کے خوشحال گھر انوں سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی بدلتی ہوئی زندگی سے خوصلہ لے کے ہندوستان کی خواری پر آنسو بھاتے ہیں۔ ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پندرہ معلوم ہوتے ہیں اور حالم شباب کی بدکردائی میں قبلا ہیں۔ مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہیں۔ جب ان کا خواب ٹوٹتا ہے تو انگریزوں کے لیے نظرت کا جذبہ ان میں جاگ آنکھا ہے: ناول کے نئے فن میں یہ ایک کامیاب تجربہ تھا، جس سے کئی نئے لمحے والے متاثر ہوئے۔ سجاد طبیر جون پور کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھر انے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سکھنؤں میں حاصل کی پھر لندن چلے گئے۔ بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے لندن میں ہی طک راج آئند اور دوسرے اہل قلم کے ساتھ مل کر ہندوستانی ترقی پندرہ مصنفوں کی انجمن قائم کی اور ہندوستان لوٹ کر بیہاں

کی قوی اور انقلابی تحریکوں میں شریک ہوئے۔ اردو اور مہندی کے ترقی پسند مصنفوں کی تنظیم میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ افانوی ادب کے علاوہ انھوں نے بہت سے اہم تنقیدی مقالے لکھے ہیں۔ کچھ دنوں سے نظمیں بھی لکھنے لگے ہیں۔ ان کی قابل ذکر کتاب، روشنائی، ہے، جس میں مہدوستان میں ترقی پسند تحریک کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔

کرشن چندر جن کا تذکرہ افسانہ نگاروں کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک اچھے ناول نگار بھی ہیں۔ ان کے بہت سے ناول شائع ہو چکے ہیں، جن میں شکست، عجب کھیت جائے گے، آسمان روشن ہے، باون پتے، ایک عورت سزا دیو آئی میری یادوں کے چوار، ایک دلیل سمندر کنارے، چاندی کے گھاؤ، ایک گردھانیفا میں، اور کاغذ کی ناؤ، قابل ذکر ہیں۔ جب ان کا پہلا ناول شکست چھپا تو نقادوں نے اس کی قدر و قیمت متعین کرنے میں بڑے اختلافات ظاہر کیے، مگر سچ یہ ہے کہ کشییر کی زندگی اور دہل کے کافروں کی بیداری کا اس سے جاندار، باشур اور سہر دانہ ذکر کہیں اور نہیں ملتا۔ فنی اعتبار سے اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں مگر اسے پڑھ کے ایک جتنا جاتا کشییر سہاری بھاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، کرشن چندر کے موضوعوں اور تحریکوں کا میدان بے حد و بیس ہے اور انسان دوستی سے البتا ہوا شعر ہر تحریکے کو ترقی پسندی کے ساتھ میں دھال لیتا ہے۔ کبھی معقولی بیان سے، کبھی طنز سے اور کبھی سخیر نحیلات سے پڑھنے والا فریفہتہ ہو جاتا ہے۔ ان کے شری اسلوب میں غیر معقولی حسن، سحر اور تمازگی ہے۔

مشہور افسانہ نویس عصمت چنتائی نے بھی کہنی ناول لکھے ہیں جن کے نام ہیں، صدی، ٹیڈھی یکر، مخصوصہ اور سوداہی، صدی کا پس منظر، سماجی ہونے پر بھی روانی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تحقیقی پسندی میں مشاہیت کی ایک ایسی نمایاں جھلک ہے کہ اس کا اثر بہت لمکا ہو جاتا ہے۔ ٹیڈھی یکر، ضرور ایک اہم تخلیق ہے۔ لڑکپن کے جذبات اور داخلی المعنیوں کی اتنی عمدہ مصوری کسی اور ناول میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ متوسط طبقے

کے ایک مسلمان کہنے کی زندگی اس میں بڑی خوبصورتی سے پیش کی جائی ہے یہ ضرور ہے کہ اس کا آخری حصہ اس کے ابتدائی حصے سے کچھ اپنی طرح مربوط نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ سیاسی مسائل کو جس طرح اس میں لاایا گیا ہے، وہ حقیقی ہوتے ہوئے بھی اس محل پر ناموزوں معلوم ہوتے ہیں عصمت کو زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے اور وہ کرداروں کے مکالمے ایسے فلسفی انداز میں لکھتی ہیں کہ حقیقت پسندی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔

عینیز احمد موجودہ دور کے مقبول نادل نگاروں میں ہیں۔ اس وقت تک ان کے کمی نادل شائع ہو چکے ہیں، جن میں، گریز، ایسی بلندی اُسی پستی، شبِ نعم، مشور ہیں۔ ان کی کہاںیوں کی طرح ان کے نادل بھی جنس کے دیوتا سے آنکھ پھولی سے بھرے ہیں۔ ان کے قریب قریب تام کردار خواہشات سے مست ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ نادل نگاری کے فن کے لحاظ سے وہ بہت کامل ہیں۔ کئی زبانیں جانتے کی وجہ سے وہ یورپ کے رچے اسالیب سے متاثر ہوئے ہیں مگر ان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ جنسی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے زندگی کے دوسرے بڑے بھروسے کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔

جب ۱۹۲۴ء میں فرقہ دارانہ فادیں خون کی ندیاں بہنة تکلیں تو اردو کے سمجھی اچھے ادیبوں نے اس پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ کمی نادل بھی اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لکھے ہیں۔ ان میں صرف راما نند ساگر کی تصنیف اور انسان مر گیا قدرت اللہ شہاب، کی، یادِ خدا، اور قرۃ العین حیدر کی میرے بھی صنم خانے، اہم ہیں۔ ساگر کا نادل مصنف کی صاف ولی، انسان دوستی اور ظلم و تم سے نفرت کا پتہ دیتا ہے۔ لیکن اس میں جذباتیت کا عنصر اتنا زیادہ ہے کہ بیکرداریوں کے خلاف آدمی ہمارے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ شہاب کی تخلیق قسمی اعتبار سے افضل ترین ہے۔ اگرچہ اس میں کہیں کہیں فرقہ دارانہ جذبے بھی جھلک پڑتے ہیں۔ قرۃ العین نے میرے بھی صنم خانے، لکھ کر بڑا جس کیا۔ اس میں ۱۹۲۴ء کے جھگڑوں کا ذکر کم ہے مگر جتنا بھی ہے وہ بڑے

در دل انگر طریقے سے لکھا گیا ہے۔ ان کے اور ناولوں کا مذکور اگلے باب میں آئے گا۔

ڈاکٹر احسن فاروقی نے، شام اودھ، کے نام سے ایک نادل تصنیف کیا۔ اس میں غدر کے بعد کھنڈ کی حالت اور سماجی خستہ حالی کی عکاسی بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں کی ہے اور مشتی ہوئی نوابی تہذیب کی تصویبی پیچے ہے۔ مگر اس میں کسی طرح کی ایسی محترم پیدائشیں ہوئیں، جس میں حالت کی نزاکت کا اندازہ لگایا جاسکتا۔ پھر بھی زبان کے حسن اور کرداروں کی کسی مصوری کے باعث یہ ناول اپنا ممتاز مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے کئی اور ناول بھی لکھے ہیں، جو ایسی تھوڑی خصوصیت نہیں رکھتے جس کا ذکر ہو سکے۔ حضن، نگم، کچھ اہمیت رکھتا ہے۔

اس باب میں بہتے اچھے ناول نگاروں کا ذکر نہیں ہو سکا ہے۔ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے کئی تصنیفیں کیں اور کچھ لوگ ان تصنیفوں پر فرمیتہ بھی ہیں، لیکن جب ہم ان کا مطالعہ ادبی تنقید کی نظر سے کرتے ہیں۔ تو بہت مقبول ہونے پر بھی اہمیت کے حامل نظر نہیں آتے جیسے ایم اسلام، رشید اختر ندوی، ریسیں احمد حضرتی، قیسی رام پوری وغیرہ۔ ان کے علاوہ فیاض علی کے دو ناول، شیشم اور انور، بار بار چھتے ہیں اور بہت پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پنڈت اکشن پرشاد کوں کے ناول تیاماً، جبور روزا اور سادھو اور بیسا، سماج سدھار کے جذبے سے بھرے ہوئے کے باعث اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ خاول رشید، ہمیند رنا تھ اور اے جمید نے بھی تھوڑے دلوں میں بڑا نام پیدا کیا ہے اور زندگی کے طرح طرح کے مسئللوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

ناول سرمایہ دار اولاد اور شیعی حالتوں میں نئی راہوں پر پیش رفت گرتی ہوئی تہذیب کی مصوری جس ڈھنگ سے کرتا ہے دیسی کسی اور صنف ادب میں نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا کی سبھی زندہ سیالوں میں فن ناول بھاری کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت اردو کے بہت سے نئے ادیب ناول

لکھنے میں نئے اسالیب کا تجربہ کر رہے ہیں۔ کچھ کے تجربے کا میاپ ہیں اور بہت سے نا کا میاپ۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں جلدی ہی کچھ اچھے ناول نگاروں کو جگہ مل جائے گی۔ اردو میں انگریزی، فرانسیسی، روسی اور عربی ناولوں کے اچھے اچھے ترجمے ہوئے ہیں اور اس سے نئے لکھنے والوں کو فیضان مل رہا ہے۔ کچھ نئے لکھنے والوں کا تذکرہ آخری باب میں کیا جائے گا۔

اردو میں ڈرائے کی ترقی اتنی نہیں ہوئی جنہی ہوئی چاہئے تھی۔ اس کے کئی سبب ہیں مگر اصل سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایسے ایشیج کی ترقی نہیں ہو سکی جو ذرا مہنگاروں کو متوجہ کرے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ناٹک کا فلم اور ریڈیو کے لکھرے ہے ہیں پھر بھی پروفیسر مجیب، انتیاز علی، تاج، ایک بیدی، کرشن چند ر، عشرت رحمانی، احمد عباس، منشو، مرزا ادیب، رفیع پیر وغیرہ نے بہت سے نثری ناٹک لکھے اور شائع کرائے، جنہیں بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اچھے اچھے عنبر ملکی ناٹکوں کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، مگر ابھی ترقی کی شاہراہ دوڑتک پھیلی دکھانی پڑتی ہے جس پر ان ناٹک کاروں کو چلنے ہے۔ نئے زمانے کے لکھنے والوں میں بشیر وہ ادیب ہیں جو ایک ایکٹ کے ہی ڈرائے لکھرے ہیں۔ ان میں کچھ ایشیج کو نظر میں رکھ کے لکھنے گئے ہیں، مگر زیادہ تر ریڈیو کے لیے ہی ہیں۔ راجندر شنگھ بیدی کے نسات لکیل، کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ منشو نے سماجی اور نفیاتی مسائل پر کچھ بلےحد اہم ایک ایکٹ کے ناٹک لکھے اور ان کے کئی مجموعے، تین عوزتین، آڑ، منشو کے ڈرائے، کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ کرشن چند نے اپنے سماجی شعور اور انسان دوستی کی پسند کا پتہ اپنے ناٹکوں میں بھی دیا ہے۔ ان کے دو مجموعے دروازے، اور دروازے کھول دو، چسپ چکے ہیں۔ خواجہ احمد عباس، علی سردار حبیبی، عصمت چغتا نی کے ناٹک بھی مقبول ہیں۔ احمد عباس کا ناٹک زبیدہ، میں کون ہوں، اور عصمت کے دو مجموعے شیطان، اور دھانی ہانگیں، قابل ذکر ہیں۔ یہ سب ترقی پسند مصنف رہے

ہیں اور ان کی تخلیقیوں میں زندگی کی وہی تصویریں نظر آتی ہیں جو ان کی کہانیوں اور ناولوں میں ہیں۔ دراما نگاری کے فن کے اخبار سے ان مصنفوں نے کوئی ایسے تجربے نہیں کیے ہیں، جو قابلِ لحاظ ہوں مگر ان کے کام ناموں میں زندگی کی کشمکش کی مصوری بڑی زور دار، ویسیع اور پراشر ہے۔ پر یہم چند کی روایت میں اردو سے ہندی میں جانے والے مصنف اوس پر مضمون اشکست ناول نگار سے زیادہ کامیاب دراما نگار ہیں۔ ان کے کئی مجموعے پاپی، ازلی راستے، چروانے، قید حیات، اردو میں شائع ہوئے ہیں۔ اردو ادب میں مزاح بگاروں کا ایک اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ نظم و نثر دونوں میں مزاح بگاری کی روایت موجود ہے۔ اس میں سماجی شعور اور ملک کی بدلتی ہوئی حالت کے ثمرے میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ نئے ادیبوں میں سے کچھ کا ذکر صحیلے باب میں آچکا ہے۔ کچھ کا ذکر احتصار کے ساتھ اب کیا جائے گا۔ اس دور میں کچھ ایسے اچھے مزاح نگار مجتمع ہو گئے ہیں کہ اسے ان کا عہد زریں کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ فقط نہیں کہوں بر ساتے ہیں اور کچھ اسی کے ساتھ ہنر کے تیر بھی چلاتے ہیں۔ ان میں رشید احمد صدیقی سرفہرست ہیں، ان کا تذکرہ گزشتہ باب میں ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ عظیم بیگ چختانی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، اقبال علی تاج، ناکارہ حیدر آبادی حاجی نقی نقی، سندباد جہازی، کرشن چندر، کنھیا لال کپور، شفیق الرحمن وغیرہ نے بڑے اعلیٰ درجے کی تخلیقیں کی ہیں۔

عظیم بیگ چختانی (۱۸۹۵ء) کا انتقال کچھ قبل از وقت ہو گیا، مگر انہوں نے افسالوں اور ناولوں کی تقریباً بیس سال میں چھوٹی ہیں۔ وہ جو دھم پور کے رہنے والے تھے، علی گردھ میں تعلیم پائی اور معاش کے لیے وکالت کرتے تھے۔ پہلی تحریر "شوہری بی" تکھتے ہی اس کی دھوم مجھ گئی اور تھوڑی ہی مدت میں انہوں نے بولنگار، خانم، چمکی، کم زوری، جنت کا بھوت وغیرہ کئی تصویفیں شائع کر دیں۔ یہ سال میں اب بھی بڑے اشتیاق سے پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے کئی نگارشیں ہندی اور

دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ان کی کہانیاں بیشتر متوسط طبقے کے مسلمان گھر انوں کی زندگی پیش کرتی ہیں۔ ان کے کردار ضرورت سے زیادہ اچھل کو دکھانی پڑتے ہیں۔ وہ مفعولکے خیز واقعات سے دراماً کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہے، اس لیے انہوں نے بستر پر پڑے پڑے اپنی زندگی کے نکھے پن اور سستی کو اپنے کرداروں کو شوخ دشمن بنا کر مٹانے کی سعی کی۔

پٹرس رہ ۱۹۵۸ء - ۱۸۹۸ء نے کچھ ہی چیزیں لکھی ہیں، انھیں کو جمع کر کے ایک مجموعہ پٹرس کے مضامین کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ اسی ایک مجموعے سے ان کو اردو کے مزاج بگاروں کی پہلی صفت میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے یہاں زیادہ تر ہنسی باتوں سے پیدا ہوتی ہے، مگر ان کی بائیں ایک طرح کی بخشیدگی بھی رکھتی ہیں۔ ان کی تحریریں کہانی اور مضمون کے امتزاج سے ایک نئی چیز بن جاتی ہیں۔ نفیات کے علم اور حسین اسلوب دونوں سے مل کر ان کی مخلوقیں ایسی جدت اختیار کر لیتی ہیں جو اردو کے کسی اور اہل قلم میں نہیں پائی جاتی۔

شوکت تھانوی، جن کا نام محمد عمر تھا، مزاجیہ ادب کے مقبول عام مصنف تھے۔ ان کا انتقال ۱۹۶۲ء میں ہو گیا۔ اس وقت تک ان کی چھوٹی ٹری چالیس کتابیں شائع ہو چکی تھیں، کچھ کتابیں ان کے انتقال کے بعد بھی شائع ہوئیں۔ ان کے لئے بھی یہی ہوا کہ ۱۹۳۷ء کے آس پاس انہوں نے ایک کہانی سوداگری رمل، تھجی اور اسی دن سے ایک بڑے اہل قلم شمار کیے جانے لگے۔ شوکت تھانوی الفاظ کے استعمال اور جلوں سے بھی سنبھل پیدا کرتے تھے اور ایسی مفعولکے خیز صورت حال کی تصویر کشی بھی کرتے تھے جو سنبھلنے پر محبو بر کرے۔ ان کی جودت ذہن، معمولی باتوں کو بھی دلچسپ بنادیتی۔ ان کی کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں۔ مونج قبسم، طوفان تباہم جوڑ تر، سوتیا چاہ، ہنگار ٹون، ما بد دلت، سدرال دعیرہ۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے اور ریڈ یو کے لیے بڑے مقبول ناٹک بھی، جن کے کئی مجموعے

شائع ہو چکے ہیں۔

اس نسل کے لکھنے والوں میں کنھیا الال پور (پیدائش ستمبر ۱۹۱۲ء) نے کئی بہت اچھی مزاحیہ اور طنزیہ تحریریں لکھی ہیں۔ وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور محکم تعلیم سے وابستہ ہیں۔ ان کی تحریروں میں انگریزی کے مشور مزاح بگاروں کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کے مضمون میں کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کے نام ہیں، نگ و خشت، شیشه و نیشہ، چنگ ربا، نوک نشر، بال و پر، نرم گرم، اور لٹکاریہ شنچلی۔ ان کی تحریروں میں سماجی و سیاسی شعور کے عناصر و سیع پیمانے پر ملتے ہیں۔ پڑھنے میں ان کی تحریریں بڑی سیدھی سادی دکھانی پڑتی ہیں، مگر انھیں افاظ کے نیچے مزاح اور طنز کے تیر چھپے ہوتے ہیں۔ روز بروز ان کا نقطہ نظر ترقی پذیر اور انداز دلچسپ ہوتا جاتا ہے۔

شفیق الرحمن بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں اور بڑے مقبول مصنفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں کوئی سماجی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی بھاگاریں عام زندگی سے دلچسپ کہانیاں بنالیتی ہیں۔ ان کی مقبولیت کا بھیہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی معمولی سی بھول چوک اور غلطیوں کے بیان میں ہے۔ ان کے موضوع سمجھدہ نہیں ہوتے، مگر ایک گھسن سی بھری فضای میں ان کی کہانیاں نشاط انگریز خوابوں کی صورت میں آتی ہیں اور زندگی کے دکھوں کا بوجھ کم کرتی ہیں۔ ان کے کچھ مجموعوں کے نام ہیں، پرواز، شکونی، حقیقت، لہریں، کرنیں، وغیرہ۔

اردو میں مزاحیہ بگاری کی روایت انیسویں صدی کے آخری برسوں میں اودھ پنجاب نے شروع کی تھی اور جیسے جیسے ہندوستان میں نئے اور پرانے کی کشکش ہر چھتی گھنی، اخلاقی زندگی م Fletcher ہوتی گئی اور سیاسی و سماجی کیفیت پیچیدہ ہوتی گئی، اتنا ہی طنز و مزاح کے لیے موضوع ملتے گئے۔ جب واقعی زندگی اور خیالات میں بڑہ اتفاقات رہنے لگا، اس وقت اردو کے اہل قلم نے غور و خوض کر کے اس کی طرف دھیان ریا، و رکھا جاسکتا ہے۔

کہ ہندوستان کی دوسری جدید زبانوں کو دیکھتے ہوئے اردو میں بھی مزاحیہ لوب کا خزینہ و سیع و نفیس ہے۔

موجودہ دور میں جن صنف ادب نے سب سے زیادہ پیش رفت کی ہے وہ تنقید ہے۔ پچھلے باب میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نئے اہل قلم جو کسی طرح سے قومی اور عالمی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہیں، تنقید کی نسبت بھی نیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ادب سماجی زندگی سے متاثر ہوتا ہے اور زندگی کو متاثر بھی کرتا ہے۔ ادب کے سوتلوں کو جانتا، ادیب کے شعور کے معیار کو سمجھنا اور زندگہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے آدھر سوتلوں سے واقف ہونا ایک نقاد کے لیے ضروری ہے۔ سماج کے اندر جاری طبقاتی کش کمکش کی مضام صورتوں کو ادیب کے جذبات اور احساسات کے داخلی سوتلوں کو ڈھونڈھنکانا، ساتھ ہی ادب کے روایتوں اور جانیات کے بدلتے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نقاد کا فرض ہے۔ تخلیقی ادب کی تصنیف کرنے والے بھی انہی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کچھ نقاد مدداری کا احساس رکھتے ہوئے زندگی اور فن کے رشتے پر زور دیتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس تخلیق کو دوسری تخلیقوں سے الگ کریا جائے جو زندگی کے دھارے کا تجزیہ کر کے اسے اور زور دار بنانے کا فیضان دیتی ہے۔

دیسے تومولانا حالی کے وقت سے ہی ادب کو تھوڑا بہت سماج کے پس منظر میں دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر ۱۹۳۷ء کے بعد سے جس طرح ہندوستان کی پوری زندگی میں ترقی پسندی کے نقوش دکھائی دینے لگے اور ادب نئی راہ پر بڑھنے لگا اسی طرح تنقید میں بھی چھان بین کے نئے اصولوں سے کام لیا جانے لگا۔ اس میں سب سے زیادہ مددان کو ماکس واد کے مطابع سے ملی۔ اس خصوصی میں سب سے پہلا اہم مضمون، اختراء پوری نے ۱۹۴۵ء میں "ادب اور زندگی، کے عنوان سے لکھا، آج اس میں بہت سی خامیاں اور بہت کچاپن دکھائی پڑتا ہے۔ اس۔"

دلیلیں نادرست اور اس کے نتائج غلط ہیں۔ مگر اس مضمون نے ایک نئی راہ ضرور دکھائی۔ انحراف ائے پوری نے بہت سے مضمون لکھے، اگر دیھرے دیھرے وہ مارکسیت سے دور ہوتے گئے۔ ان کی تنقید وہ کے دو مجموعے ادب اور انقلاب، اور سنگ میل شائع ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ان میں سماجی اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پہلے سے موجود تھا، مگر شئی اور خاص طور سے مارکسی تنقید کا آغاز مہدوستان کی نئی سماجی اور معاشی بیداری کے ساتھ اس وقت ہوا جب ترقی پسند مصنفین نے اپنی امتحان کی تاسیس کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عوام کے یادی شعور نے جمہوری اشتراکیت پر مبنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ سجاد ذہیر، ڈاکٹر عبد العلیم، فیض، سبط حسن، سردار جعفری، ممتاز حسین وغیرہ نے مارکسی فلسفے کی بنیاد پر ادب اور زندگی کے رشتے کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ تنقید کا یہ سائنسی نقطہ نظر اتنا وسیع بن گیا کہ کچھ ایسے مصنف جو پہلے محض فلسفہ، جالیات کی بنیاد پر تخلیق ادب کی باتیں کہتے تھے، تنقید کے نام پر اپنے داخلی احساسات کو پیش کرتے تھے، اس نئی طرزِ تنقید کی طرف چلے آئے۔ ان میں فراق گور کھپوری اور ڈاکٹر اعجاز حسین قابل ذکر ہیں۔

فرق جس طرح شاعری میں رومانیت میں ڈوبی ہوئی غربلوں کا گھیر، تو ڈکھنے کے زندگی کے نئے شعور کی طرف پڑھے، اسی طرح اپنی تنقید میں انھوں نے سماجی پس منظر کو اہمیت دینا شروع کیا۔ مگر یہ بات صاف طور سے دکھائی پڑتی ہے کہ دو تنقید میں مارکسی نقطہ نظر کو مکمل طریقے سے اپنا نہ سکے۔ ان کا انداز فلکر نیا ہوتے ہوئے بھی فلسفہ، جالیات کے نئے دبار ہا۔ ان کے مضمایں کے دو مجموعے "اندازے" اور "حاتیے"، شائع ہو چکے ہیں اور دو تین کتابیں اردو کی عشقیہ شاعری، اور اردو غزل گوئی بھی چھپ چکی ہیں۔ ان کے مطالعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور ادب میں ایک طرح کا بند باتی اور تعمیری رشتہ چاہتے ہیں لیکن مارکس دادیوں کی طرح اسے انسان کے معاشی، سماجی اور ثقافتی زندگی کا عکس ثابت کرنے کی

کو شمش نہیں کرتے۔ دراصل ان کا بچانہ تاثر تدارک جماليات کی طرف ہے جس کے لیے وہ سماجی پس منظر کو سزاواری نہیں سمجھتے۔

مجھنوں اردو ادب کے بڑے ذی شعور تدارک میں ہیں۔ ان کا ادب کا مطالعہ بہت گہرا ہے اور وسیع فلسفیانہ نقطہ نظر رکھنے کے باعث ادب کے بدلے میں ان کی باتیں کبھی معمولی اور فکر سے خالی نہیں ہوتیں۔ شروع میں انھوں نے جو مفہامیں لکھے دہ زیادہ تر محض حسن اور بعد بات کی سمتی ملاں تک محدود تھے اور شاعر یا ادیب کی انفرادیت پر بہت نہ وردیا تھا۔ ان کے مضمون بہت عمدہ ہوتے تھے، مگر بعد میں انھوں نے بھی انسار اسٹہ بدل لایا اور ادب کو آدمی کی معاشری زندگی میں صدر دن جہ درد حکا عکس سمجھنے لگے۔ ان کے لکھنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ وہ بھی اتنے ہی دلچسپ اور تخلیقی ہوتے ہیں۔ ایک کمی البتہ کبھی کبھی دکھائی پڑتی ہے کہ جب وہ صرف اصولوں کی دضاحت کرتے ہیں تو مارکس داد کو اور یہ طرح انسانوں ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر جب کسی شاعر یا ادیب کی تخلیقات کی تنقید کرتے ہیں تو ان کا پرانا نقطہ نظر ان کے مفہامیں میں راہ پا جاتا ہے تیقید کے موضوع پر ان کی کچھ تصنیفات کے نام یہ ہیں۔ تنقیدی حاشیہ، ادب اور زندگی، انسان، شروع غربل، دوش دفردا، نقوش داؤنار، پر دیسی کے خطوط۔

ڈاکٹر اعجاز حسین دپڈائش (۱۸۹۵ء) الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ تھے اور کئی سکتا ہیں ملکہ تھے ہیں۔ شروع میں انھوں نے بھی تنقیدی مضمون لکھتے وقت اسی روایت کا تشیع کر اجوج حالی، آزاد اور شجاعی کے وقت سے چلی آرہی تھی۔ ان محیزی ادب کے علم کی بد دامت اس کی مدد سے کبھی کبھی ایک طرح کی جدت بھی پیدا کر لیتے تھے۔ مگر ان مفہامیں میں کسی طرح کے سماجی شعور کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ترقی پسندانہ افکار سے تاثر اپنے مفہامیں میں معاشرتی اور معاشری پر منظر کی طرف بھی اشارہ کرنے لگے۔ اب ادب ان کے لیے بھی کخش حیات کا عکس ہے یہ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۴۷ء تک۔

یونیورسٹی سے دامتہ رہتے ہوئے، انھوں نے بڑی لگن سے ادب کی خدمت کی اور اب بھی جب کہ سکدوشی حاصل کر چکے ہیں تلخی پڑھنے ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نجی کتابیں۔ آئینہ معرفت، مختصر تاریخ ادب اور داستان ادبی رجحانات، اردو ادب آزادی کے بعد، مذہب اور شاعری، اور ادب اور ادیب، شائع ہو چکی ہیں۔ اس وقت ان کی سب سے اہم کتاب اردو شاعری کا سماجی پس منظر، پریس میں ہے۔

عبد حاضر کی صفات اول کے نقادوں میں آل احمد سردار دیدائش شاعری بھی ہیں۔ وہ اس وقت علی گردھ یونیورسٹی میں اردو کے صدر رشیعہ ہیں۔ انھوں نے انگریزی اور اردو ادب کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ علم الاتقاد کے اصولوں کو تحقیقی نظر سے دیکھا ہے اور ایک سائنسی نقطہ نظر اپالیا ہے۔ شروع سے ہی ان کے مضمون متوازن اور گہرے ہوتے ہیں۔ دوسرے نقادوں کی طرح وہ بھی دھیرے دھیرے ترقی پسند نقطہ نظر کے قریب کئے ان کا بڑا انتیاز یہ ہے کہ سائنسی نقطہ نظر رکھتے ہوئے بھی ان کی تنقیدی خلائق اور ادبی ہوتی ہے۔ ان کے خیالات مدل ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ان کے اسلوب میں جذباتیت جلاک اٹھتی ہے۔ انگریزی ادب کا بہت اچھا مطالعہ ہونے کے باعث اپنے مضمون میں وہ اس سے بہت کام لیتے ہیں اور مغرب و مشرق کے ادب کو سائنسی اصول تنقید سے پرکھنے کی کوشش رتے ہیں۔ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتے کہ ہر ادب اپنی ایک روایت رکھتا ہے اگر کوئی اپنے قلم اس روایت کو اس طرح توڑتا ہے تو اس کے بنیادی عناصر صاف ہو جائیں تو وہ اپنے ادب کو ادنپا نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر کچھ زمانے سے سرور کے مضمون میں لوگوں کی ہمت افزائی کرنے، شاعر کی اندازی احласات کو ہی موضوع شاعری سمجھنے اور ادب کو محض ادب سمجھنے پر زور ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زادیہ نظر میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ان کی تنقیدیوں کے سائیں جمیع شائع ہو چکے ہیں۔ جیسے۔ تنقیدی اشارے، نئے پرانے حراج تنقید کیا ہے؟ اور ادب و نظریہ، از، کے علاوہ کہی تباہیں اشاعت کے لیے

تیار ہیں۔

خنے کھنے والوں میں متاز حسین (پیدائش ۱۹۱۶ء) نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ ان کا نظر پر خالص اکسی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جتنا انہوں نے اس سے ادب کے سمجھنے کی سعی کی ہے، اردو کے کمی دوسرے نقاد نہ نہیں کیا۔ ماکس وادیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فن کی نسبت ان کا نقطہ نظر تنگ ہوتا ہے۔ مگر متاز حسین کے مضمون میں پڑھ کر ان کی سہبہ گیری اور دیسیع علم کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے مضمون میں کچھ حصے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص سائنس، فلسفہ، سماجیات اور دوسرے علوم سے بخوبی واقف نہ ہو، اس کی تنقید میں عظمت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ان کے باہر میں ایک بات ضرور کمی جاسکتی ہے کہ سمجھی کمی ان کی زبان رقیق اور الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تک ان کی کمی تباہی میں 'نقد حیات' نے گوئے ہے، ادب اور شعور، تنقیدی مسائل، اوزی قدریں، شائع ہوئے ہیں اور کئی تخلیقیں پرکشیں میں ہیں۔

پروفیسر کلیم الدین احمد (پیدائش ۱۹۰۷ء) بہار کے نامور اور بااثر نقاد ہیں انہوں نے یورپی ادب سے فیضان لے کے اپنی پہلی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر، اس طرح تکھی کہ روایت، ماحول، سماجی شعور کا کہیں نام ہی نہ آیا، صرف اپنے بنائے ہوئے پیمانے سے انہوں نے قدیم وجد یہ سمجھی دیجو اور شاعروں کو پرکھا اور سب کی کردی تلقید کی۔ ان کا خالص غصب ترقی پسند ادیبوں پر تھا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اردو تنقید پر ایک نظر، بھی سمجھی اور کتاب اس فقرے سے شروع کی۔ اردو میں تنقید کا وجود بعض فرضی ہے؛ جب اپنے موجودہ اصولوں سے ارددار پر کہ میں انھیں کامیابی نہیں ملتی، تو وہ جنبہ لا کر بار بار یہی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ گھائٹے میں ہیں اور جو جانتے ہیں وہ فقط نقل کرتے ہیں۔ کلیم الدین اس عملی تنقید پر زور دیتے ہیں جو شاعر کے نقطہ نظر کی اہمیت کو مشترک کرتی ہے۔ بعض الفاظ اور ان کے مناسب رشتہوں سے پیدا ہونے والے مفہوم

کو دیکھتی ہے۔ ان کی دوسری کتابیں، فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، اور عملی تنقید، بھی اسی طرح کی ہیں۔

کلیم الدین کے ایک مقلد، ڈاکٹر احسن فاروقی ہیں، جواب پاکستان میں ہیں۔ ان کے نادلوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ مگر انہوں نے نقاد کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ وہ بھی ادب کے مطالعے میں نقطہ نظر یا سماجی نقطہ نظر کو اہمیت نہیں دیتے۔ صرف فن کے کچھ بنے بنائے قاعدوں سے ادبی کارناموں کو جانپنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اردو میں تنقید، فریب نظر، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، اور ناول کافن، قابل ذکر ہیں۔ پوروپی خاص کر فرانسیسی زوال پرستوں سے تاثرا ہل قلم میں حن عسکری کی بُری اہمیت ہے۔ وہ بھی پاکستان میں ہیں اور اب بہت کم لکھتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں، انسان اور آدمی، ستارہ اور بادبان، فکر ایک جگہ مفہمیں کے مجموعے سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر مضمون ترقی پسندی، سماجی شعور اور انسان دوستی کا مضمون ہے اڑانے میں لکھے گئے ہیں۔

اس عہد کے دوسرے نقادوں میں پروفیسر وقار عنیم، ڈاکٹر ختر اور بیوی، ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی، اخترا الفصاری، ڈاکٹر نور الحسن ماشی، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر خورشید الاسلام اور ڈاکٹر عبادت بریلوی عمر کے معمولی تقاضات کے ساتھ تقریباً ایک ہی نسل کے شمار ہوتے ہیں۔ ان سب کو مسلمہ حیثیت ۱۹۳۶ء۔ کے درمیان میں، اگرچہ یہ سب حضرات آج بھی نکھر رہے ہیں۔

پروفیسر وقار عنیم (پیدائش ۱۹۰۵ء) نے افالوی ادب پر قابل لحاظ کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے ترجمے کیے ہیں۔ وہ بہت سیدھے سادے اندالزیں ادب کا تجزیہ کرتے ہیں اور کسی خاص نقطہ نظر کی تائیں نہیں کرتے، اس وقت پاکستان میں ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں یہ ہیں: افیاذ گلزار ہمارے افایے، ہماری دو گتابیں، داستان سے افسانے تک، بینا افای، فن اور فکار، ڈاکٹر اخترا اور بیوی کا ذکرہ افسانہ نگاروں کے ساتھ ہو چکا

ہے۔ انھوں نے تنقیدی ادب میں بھی آیا۔ خاص مقام پر اگر لیا ہے ان کا انداز فکر عموماً جالیات اور تاثیریت سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے سماجی شعور کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی قابل ذکر کتب میں 'بہار میں اردو، زبان و ادب' تنقید جدید، تحقیق و تنقید، قدر ذات، اور منہاج و سرائج' ہیں ڈاکٹر اورینوی اس وقت پہنچ یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ ہیں۔

ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی (پیدائش ۱۹۱۶ء) دلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر ہیں، تحقیقی کام اور تنقیدی ادب میں بڑا اوقار حاصل کر رکھے ہیں وہ بھی کسی ناص نقطہ نظر سے متاثر نہیں ہیں، مگر ادبی روایات کی طرف سے آنکھیں نہیں بند کرتے۔ ان کے بہت سے مضمایں میں تاریخی پس منظر کو نمایاں طور پر اہمیت ملتی ہے۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں مرزاشوق لکھنؤ میر تقی تیسری، حیات اور شاعری، کلابیکی ادب، اور 'ذوق و سمجھو، قابل ذکر ہیں۔

ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی (پیدائش ۱۹۱۳ء) لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ ہیں۔ ان کا انتفاعات زیادہ تر تحقیقی کاموں کی طرف رہتا ہے، مگر کچھ تنقیدی مضمایں بھی لکھے ہیں جن میں سے ادبی انداز میں تخلیقات کی پرکھ ملتی ہے۔ ان کی قابل ذکر کتابوں میں 'ولپی کا دلستان شاعری، ادب کیا ہے، اور ادب کا مقصد' ہیں۔ اختلافصاری کا ذکر افسانہ نویس کے بیان میں کیا بجا چکا ہے وہ علی گڑھ کے یحیس ٹرنیگ کانج میں ریڈر ہیں۔ ادبی مسائل پر ان کی نظر میں گھرائی نظر آتی ہے۔ ان کے خیالات ترقی پسندانہ ہیں۔ تصنیفات میں 'افادی ادب، غزل اور درس غول مطالعہ و تنقید اور ادبی ڈائری'، ان کے سنبھیدہ خیالات کی نشان دہی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں (پیدائش ۱۹۱۹ء) فی الحال چدڑا بادک غمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ ہیں۔ ان کو شاعری، سانیات، علمی تحقیق اور تنقید بھی سے دلچسپی ہے اور اسی لیے ان کی تصنیفوں میں بڑی وسعت وہی گیری نظر آتی ہے۔ ان کی کتابوں میں 'اردو زبان کی تاریخ' سب سے زیادہ مشور ہے۔ لیکن تنقیدوں کے دو مجموعے، اور دو زبان ادبی

اور شعر دزبان، بھی پر فکر اور سمجھیدہ مطالب سے لبریز ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ریاست (پاکستان) کے داکٹر عبادت، بریلوی نے تنقیدی اڈے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ وہ ما رکسی نظریات سے فیضان لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بنیادی رجحانات کو سائنسی نظر سے نہیں اپنا سکے ہیں۔ ان کے خیال میں ادب کا سماجی زندگی پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ مگر اسے طبقائی کش کمکش کا نتیجہ لانے میں تامل کرتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ کمی نظریات کے امترزاج سے اپنے یہے بخ کاظمیہ وضع کر رہے ہیں۔ داکٹر عبادت نے تحقیقی کام بھی بہت کیے ہیں، مگر ان کی ادبی شہرت تنقیدی کارناموں کی، ہی بدولت ہے۔ ان کی کتابوں میں اردو تنقید کا ارتقا، تنقیدی زائقہ رداشت اور تجربے، غزل اور مطاععہ غزل، جدید شاعری، اور شاعری کی تنقید، اہم ہیں۔ داکٹر خورشید الاسلام، علی گڑا ہر یونیورسٹی میں اردو کے روئیڈر ہیں اور بہت اچھے صاحب فنکر مصنف اور نقاد مانے جاتے ہیں۔ وہ ترقی پسند نقطہ نظر سے متاثر ہیں، مگر اپنی تخلیقوں میں متاثریت کا اشارہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کم لکھا ہے، مگر جو بھی لکھا ہے، وہ ان کے دقیق مطالب اور ادبی خوش ذوقی کا پتہ دیتا ہے۔ ان کی تصنیفوں میں تنقیدیں اور غالب، اہم ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ اردو کے بیشتر نے نقادی کسی شکل میں ترقی پسند خیالوں سے فیضان لیتے رہے ہیں یا کوئی ایسا سماجی نظریہ اپناتے رہے جس سے ادب کا ارتقا ارتاریخی پیش رفت کے ربط میں سمجھا جاسکے۔ مگر کچھ نقاد ایسے ضروری ہیں، جو محض تفیاتی نقطہ نظر پر زور دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ادب کو مصنف کی شخصیت کا بس عکس ہی ماتنا چاہیے اور اُس کی تخلیقوں کو صرف ادب کے بنے بنائے اصولوں پر پرکھنا چاہیے۔ ایسے نقادوں کا ذکر آخری باب میں کیا جائے گا۔

کچھ اہل قلم ایسے بھی ہیں جنہیں بعض نقاد نہیں کہا جاسکتا ہیکہ وہ ادب، فن، تعلیم، ثقافت، سیاست اور دوسرے موضوعوں پر مقتدرانہ

طور سے مضافاً میں لکھتے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عاصم، پروفیسر محیب اور خواجہ غلام اسیدین۔ ان با اثر صاحب اجان قلم کی ہر تخلیق ان کے غیر معمولی علم، انسان دوستی اور فراخ دلانہ خیالات کا پتہ دیتی ہے۔ محض ادب کے میدان میں نہیں بلکہ ہندوستان کی ثقافتی اور معاشرتی زندگی میں ان کا ایک بلند مقام ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اردو منشہ کو اپنے تزحیوں اور تصنیفوں سے اپر اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر جاہد حسین کی 'ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب'، اور مضافاً میں عابد، فکر لیخڑی اور فلسفیات اہمیت کی ماں ہیں۔ پروفیسر محیب نے 'روسی ادب، دنیا کی کہانی'، اور تاریخ فلسفہ سیاست، کے نام سے بڑی نفیس تصنیفیں کی ہیں۔ غلام اسیدین نے 'روح تہذیب، اصول تعلیم، اور آندھی میں چراغ' لکھ کر اردو کے خزانے میں اضافہ کیا ہے۔

آخر میں مصنف مختصر طریقے سے اپنا تعارف بھی کر دینا چاہتا ہے کیونکہ برے بھلے اُس نے بھی اردو ادب اور خاص کر تنقید کی کچھ خدمت کی ہے۔ میری پیدائش ۱۹۱۲ء میں اعظم محمد یوپی کے ایک گاؤں مائل میں ہوئی اور میں نے تعلیم اعظم گڑھ اور ال آباد میں حاصل کی ۱۹۳۶ء کے آس پاس لکھنا شروع کیا اور کہانی، ناگم، نظیں اور دوسرے موضوع پر مضافاً میں لکھتا رہا۔ لیکن اصل میں تنقیدی ادب کے میدان میں ہی میں نے کچھ کرنے کی سعی کی۔ ادب کے بارے میں میرے خیالات اس کتاب میں بھی نمایاں ہیں۔ بس اتنا اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں مارکسیت کو سب سے افضل فلسفہ سمجھتا ہوں اور اسی کی مدد سے زندگی اور ادب کو سمجھنے کی سعی کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تنقید اور خود تنقیدی کی راہ پر چلنے کے ہم اس سچائی کی تلاش میں کامیاب ہو سکے۔ ہیں، جس سے زندگی کے بھیت سمجھیں آسکیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ادب کے سمجھنے میں ترقی پیدا نہ سما جی نظریہ سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اسے مانتا ہوں کہ فن اور ادب کا ابداع فرد کے احساسات ہی کے ویلے سے ہی ہوتا ہے۔

مگر اس ذر کا شعور اپنے عہد کے ماحول، سماجی حالات اور طبقاتی تکشیکش سے بندھا ہوتا ہے۔ اس لیے نقاد کو ان میں کے کسی پہلو سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ادبی روایات، سماجی تجربات ہی کی حدود اور متفروض سیاسی، سماجی اور فلسفیائی اثرات کا انکار کر کے ہی ادب اور ادبیہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ادب کی ہر تبدیلی، تجربہ اور تقدیر و تعین اس انتبار سے با معنی بن سکتی ہے۔ اس وقت تک میری بحثتا بیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، عکس اور آئینے، اعتباً از نظر، ساصل اور سمندر (سفرنامہ) اور اپنے (افکار) ہندوستانی سانیات کا خالکہ؛

آخری باب میں اردو ادب کی قریب ترین اور حالیہ ترقی کا بیان ہو گا۔

چودھوال باب

موجودہ ادبی صورت حال

تاریخ سیاست کی ہویا فلسفے کی، سماجی اداروں کی ہویا ثقافت کی، فن کی ہویا ادب کی، بطور ایام سے پیدا ہونے والی ہل چل کا بیان ہی ہوتی ہے۔ ادب کے میدان میں یہ ہل چل فرد کے جذبے اور شور کے دیلے سے تاریخ کا جزو بنتی ہے اور رادیب انفرادی طور پر اپنے نج کو جتنا آزاد بنانے کی خیالی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی باہر سے اندر کی طرف سمتا جاتا ہے۔ بیان تک کہبھی کبھی اس کا رشتہ زندگی کے اصل دھاروں سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ادبی سرایہ محدود ہو اٹھتا ہے۔ جب تک آزادی کی جدوجہد چلتی رہی، تمام ذہنی اور جذباتی قوتیں اسی مسئلے پر تحریر ہیں، آزادی ملی، تو اس زندگی کی تلاش شروع ہو گئی جو پر امن ہو سکے۔ اس میں بہت سے خواب ٹوٹے اور بہت سے مصتفوں کی جمیوریت سے ہی عقیدت ختم ہو گئی۔ فرقہ والوں بلوے، ترقی پسندانہ خیالات کی مخالفت، غیر ملکی سرمائی پر ڈھننا ہوا الخصار اور اسی طرح کے بہت سے رجعت پسندانہ رجحانات بڑے جوش و خروش سے ابھر کر سامنے آئے۔ ہندوستان کی تقیم آزادی کے لیے رہائی لڑنے والی جماعتوں کی کمزوری اور سیاسی طاقت پانے کے لیے آپسی کشمکش، خود غرض نیتاوں کا اخلاقی زوال وغیرہ اس طرح جمع ہو گئے کہ نئی پیری نے اپنی روایات پر اعتاد ہی کھو دیا۔ دوسری بڑی رہائی کے بعد یورپ اور امریکہ بیم و اسید کی جن ہڑوں میں ڈوبتے ابھرتے رہے، انہوں نے

سوچ بچارے کے پرانے رہنمائیوں پر دیا۔ ایک طرف سائنس نے حقیقت پسندی کی طرف کھینچا تو دوسرا طرف نفیات کے مختلف خیالات نے ان جانی والی کشمکشوں اور سائنسی حاصلات سے ملنے والے سکھے سے دور کر دیا۔ پیغام دل نشیں ہو گیا کہ آدمی کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی اسے سائنس، بیاست، روایت اشتہار، صنعتی زندگی نے ایک تاریخیں باندھ رکھا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں وہ اپنی طاقت اور شخصیت کے بچانے کی کوشش میں نوشتا ہے۔ اسے کسی نسب سیاسی نظریے، کسی بناءٰ زندگی کے نصب العین پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نئی نسل کے مصنفوں اور شاعر اسی میں کھو گئے ہیں۔ زندگی کو اجتماعی ہیئت میں دیکھنے ایک مقبول انسانی زندگی کے سیاسی تسلسل کو دھونڈنے کی فکر کم ہو گئی۔ پھر بھی جہاں تک ہندستان کے تاریخی حالات کا تعلق ہے ابھی ہر زبان میں اہل قلم بڑی تعداد میں موجود ہیں جو زندگی کے بیانی و جو در بھروسہ رکھتے ہیں اور انی آقوتوں کو نوع انسان کی خدمت میں مذکور دینا چاہتے ہیں۔ آج اس کشکاش نے فن اور ادب میں پھر ایک مرتبہ فن برائے فن یا فن برائے زندگی کی کثیر انجامات نزاع کی شکل اختیار کر لی ہے جسے نئی فلسفیات عبارت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اردو ادب میں ترقی پسندی اور انسان دوستی کی روایتیں کتنی مستحکم رہ چکی ہیں۔ اس کا اندازہ اس محفل تاریخ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چاہے وہ نثر ہو یا نظم، اس وقت بھی وہی نام پہلے لیے جاتے ہیں جن کا ذکر گزشتہ باب میں کیا گیا اور جو آج بھی جانے مانے جاتے ہیں، جیسے کرشن چندر، بیدی، خواجہ احمد عباس، عصمت، سجاد ظہیر، احمد ندیم، قاسمی، اشک، مرزا ادیب، ہاجرہ مسرور، چاتا اشٹ، سردار حبیفری، فیض، جذبی، آزاد، سعیفی، جمیل ظہیر، وجہ، تاباں، اختر انصاری دغیرہ۔ یہاں ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ اردو ادب کی روایتوں کو شعوری طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے موجودہ مسائل اور آج کے بدلتے ہوئے سماج کی کردوں کو بھی فکاراں نے قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نئی زندگی کے رمز آشنا اور تقاضیں

اور فن میں نئے تجربے اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ ان کے خیالات ابہام پرستی میں کھو جائیں نہ ان کے کارناموں کو عصری شعور کے خلاف کھا جاسکے۔ اس طرح ادب کے دھارے روایات دواں ہیں، جوزندگی کے گھرے ثقافتی شعور سے نکلے ہیں۔

معاصر اردو ادب میں شاعری تجربہ پرستی، ابہام پرستی، علامت پرستی اور لا مقصدیت سے بہت زیادہ تاثر ہوئی ہے، میانہ کہ کوئی شاعری لکھنے والے اپنے کو سب سے الگ کرنے کے لیے شاعری کی سبھی روایات سے اپنا ناتھ توڑ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کا نقطہ نظر پورپ اور امیریکہ کے کچھ فلسفیوں، مصنفوں اور شاعروں سے مل جاتا ہے اور جو کچھ وہاں ہو چکا ہے اسی کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلتی ہوئی صورت حال میں جدید شاعری، کا جنم قدرتی ہے۔ مگر محض روی شاعری کوئی کرنے کا اصرار کبھی میں آنے والی بات نہیں ہے، جوزندگی کی قدروں کا مقاطعہ کرتی ہوا اور سماجی شعور کو شاعری کی راہ میں روڑا سمجھتی ہو۔ ان شعر ایں جو، جدید شاعری، اسی تحریک میں شامل ہیں، کچھ وہ ہیں جو پسلے یا تو ترقی پنڈ کے جاتے تھے یا عصر حاضر کے عمومی تغیرات سے تاثر تھے۔ کچھ ایسے ہیں جو سماجی شعور کی مخالفت نہیں کرتے ہیں مگر شاعری کے لیے نئے تجربوں اور نئے دسائیں انہمار پر زور دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جوزبان، خیال، فن کے سبھی ضابطوں کو توڑنا اپنے شخص کے ثبوت کے لیے حضوری سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی شاعر اپنے احساسات کو اُس زبان میں کس طرح ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے ابلاغ ہمیشہ ہامکمل ہی رہے گا

زبان اور علامات کے یہ سبھی تجربے کمی سلطبوں پر موربے ہیں، اس لیے اب یہ کہنا دشوار ہے کہ ادب کی تاریخ میں اس نئی شاعری، کو کون سامقاوم دیا جائے گا اور مستقبل میں اسے کون سی شکل ملے گی۔ اس کے پر دھمکی اسے ابھی صرف تجربہ ہی سمجھتے ہیں، جو خوب ہدھافر کی بچینی اور سریع ایسیرٹنسی تغیرات کے باعث ناگوری رہے۔ اگرچہ ان جدید شعر اکی تقدیم کافی بڑی ہے

مگر ان میں سے دو ایک ہی کو مسلمہ حیثیت حاصل ہو سکی ہے۔ مختصرًا انھیں کاتندز کیا جائے گا۔

یہ تو یاد ہے ہو گا کہ ترقی پند شاعری کی خلافت میں ایک لہر ترقی یاً اسی کے متوازی چل رہی تھی، جس کی خصوصیت اوزان و بجور کے استعمال کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ یہ بھی تھی کہ اس میں سماجیت کے برعکس فرد کی داخلی اور خوبی زندگی کی تشریع و توضیح ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے خلیق کار علامتوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہ علامتیں کبھی دیومالاؤں میں اور کبھی لاشعور کا سہارا اے کر معنی خیر، انفاظ میں ملاش کی جاتی تھیں۔ اس جماعت کے قاعدہ میراجی، راش اور منتار صدیقی تھے۔ جہاں تک آزاد بھر کے استعمال کا تعلق ہے، بہت سے ترقی پند شاعر بھی اسے اپنے طریقے سے کام میں لانے لگے تھے۔ علامتوں کا استعمال کسی کسی شکل میں سب کرتے تھے، مگر دونوں میں جو وسیع فرق تھا، وہ ان کے سماجی شعور سے ظاہر ہوتا تھا۔ نئی شاعری نے میراجی کی ہی روایت کی دوسری شکل میں مہت افزائی کی وہ صرف پو، دیلری، بادیلر رابنو اور فرانڈ سے فیضان لیتے تھے۔ نئی شاعری نے جو اُس، لارنس، یونگ ساتر، کالو، آرویں، ڈائلن نام کے علاوہ بیس جنیزیشن، اینیگری ٹینگ میں، اینیٹی پوئٹری، تھیڈر آن ایسبرڈ، آئینڈنیٹی سکر اُس، ابلی نیشن کے خیالات سے بھی فیض اٹھایا۔ ان سے پیدا ہونے والے بھی نظریات اور انسان درستی اور سماج و اور کے خلاف جلتے ہیں، اس لیے زیادہ تر نئے شاعر شعوری طور پر اور لاشعوری طور سماجی ترقی کے خلاف خیالات ہی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے آزادی خیال، کلام دیتے ہیں۔

نئے شعر ابھی خلیل الرحمن، باقر محمدی، وحدا خنز، بلبراح کومل، راہی سعصوم رضا، عمیق حنفی، نیب الرحمن، شاذ تمکنت، منظہر امام، شہریار کمار پاشی، شہاب جفری ہندوستان میں اور وزیر آغا، احمد فراز، ظہور نظر عرش صدیقی، ساقی فاروقی، ناصر شہزاد، میر نیازی، ماصر کاظمی، مصلحہ زیدی وغیرہ پاکستان میں اپنی بہت سی خصوصیتیوں کے باعث جانے پہچانے جاتے ہیں۔

خیلیں الرحمن اعظمی (پیدائش ۱۹۲۴ء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاد ہیں بیویہ کے قبل ہی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ تین مجموعہ کلام، آئینہ خانے میں کافذی پر ہیں اور نیا عہد نامہ، شائع ہو چکے ہیں۔ تیرا مجموعہ کسی حد تک نئی شاعری سے متاثر ہے۔ ان کا انداز فکر نئے شاعروں جیا ہے مگر ان کا فن پر انے شواہ کا رچا رکھتا ہے۔ خیلیں الرحمن ایک سلسلے ہوئے نقاد بھی ہیں۔ فکر و فن، زادیہ بحث۔ مقدمہ کلام، آتش، اور نوابے ظفر، ان کی تنقیدی تصنیفیں ہیں۔ باقر ہمدی (پیدائش ۱۹۲۸ء) بھی اسی نسل کے شاعر اور نقاہ میں۔ مصنف کے ذاتی نقطہ نظر پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس وقت سبھی از ۱۹۶۰ نظریات سے غیر مطلبوں ہیں۔ ان کی زبان اکھڑی اکھڑی اور علامتیں مبہم ہوتی ہیں۔ نظموں کے دو مجموعے، شہر آرزو، اور کامے کاغذ، کی نظمیں اور تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ، آجھی دبے باکی، شائع ہوئے ہیں۔ وجہ آخر بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں فلسفے کے استاد ہیں۔ وہ زندگی کے اسرار کو محبری نظر سے دیکھتے ہیں اور زبان میں بہت سے تجربے کیے بغیر ہی اپنی بات خوبصورتی سے کہہ جاتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ، پھردوں کا معنی، ۱۹۶۵ء میں شائع ہوا ہے۔ برائج کو مل بھی ۱۹۶۷ء سے قبل ہی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ مگر گزشتہ دس برسوں سے انہوں نے نئی شاعری ہی کو اپنا نصب ایک مان لیا ہے۔ ان کے دو مجموعے، میری نظمیں، اور دل کارشنہ، شائع ہو چکے ہیں، کچھ بھی دنوں پہلے ایک مجموعہ ناگزیر سہم اخذا میں بھی، ماریل کے پڑھ شائع ہوا ہے۔ برائج کو مل کھانیاں بھی تھکتے ہیں، جن میں علامات نکے و میلے سے جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی مخصوص رضاۓ دنیا نئے شاعری میں قدم رکھتے ہی شہرت حاصل کر لی۔ اور ان نسل کے ترقی پند شعر میں شمار کیے جانے لگے۔ ان کے تین مجموعہ، رقص، ۱۹۶۷ء اور اجنبی شہر اجنبی راستے، شائع ہو چکے ہیں، ۱۹۶۸ء ایک طویل نظم ہے جو... کی مدواہ میں ملکی محنتی ہے۔ جیق خنثی پر انانے سے نئے کی طرف آتے ہیں اور اپنے کو بڑی تمنی کے ساتھ نئی نسل سے جوڑتے ہیں پہلے ایک مجموعہ

"سنگ پر اہن" چھپا تھا۔ اب ایک طویل نظم، سندباد، شائع ہوئی ہو جو کھوئے ہوئے نئے انسان کو علامتی شکل میں آواز عطا کرتی ہے۔ حلی گزہ یونیورسٹی کے فارسی کے استاد نیب الرحمن اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پر ترقی پسند ہیں۔ کم سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ فنا کار راز ہے۔ کلام کا صرف ایک مجموعہ باز دید، شائع ہوا ہے۔ حیدر آباد کے شاذ تملکت نے کچھ بی دنوں میں اپنے یہے ایک جگہ بنالی ہے۔ ایک مجموعہ، دو اشیاء، چھپا ہے۔ منظر امام بہار کے مقبول نئے شاعر ہیں۔ ان کے فن کا نیا پن سماجی شعور کا باعیکاث نہیں کرتی۔ ایک مجموعہ کلام، زخم تمنا، شائع ہو چکا ہے۔ شہاب جعفری دلی میں اردو کے استاد ہیں، مشہور اردو شعرا میں محسوب ہوتے ہیں۔ فکر ایجمن نظیں سمجھتے ہیں۔ ایک مجموعہ کلام، سورج کا شہر، بھی کچھ دن قبل شائع ہوا۔ شہر پار علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے ہیں۔ شاعری کی عمر دوسرے نئے شعر اکو دیجھتے ہوئے کم ہے، مگر خیالات کی جدت اور اظہار کی خوبصورتی نے انھیں ہر دل عزیز بنادیا ہے۔ ان کا مجموعہ کلام، اسم خطر، شائع ہو چکا ہے۔ انھیں نئے شعرا میں کارپائی اپنے اسلوب کی جدت اور علامات ندی سے پچانے جاتے ہیں۔ ان کا پلا مجود، موسوں کی آواز ہوستیاپ ہے۔ پاکستان میں بھی نئی شاعری کی تحریک ڈری تیز رفتاری سے چل رہی ہے۔ وہاں کے نامور شعرا میں وزیر آغا کا نام سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ وہ نئی شاعری کی خصوصیات اور بنیادی رحمات کی تشریح کا فریضہ بھی پورا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا نقطہ نظر، یونگ، کے تفیاقی انداز سے حد درجہ متاثر ہے، جس کا ثبوت ان کی شعری تخلیقات کے علاوہ نثری کارناموں میں بھی ملتا ہے۔ ان کے کلام کا صرف ایک مجموعہ، شام اور سارے ہے مگر نظر میں بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، مسرت کی تلاش، خیال پاچ اور چوری سے یاری سکن، ان کے ادبی مصنایف کے مجموعے ہیں اور اردو شاعری میں طنز و مزاج، نظم جدید کی کردیں، اردو شاعری کا مزانج اور تفہید و احتساب، تنقیدی تصنیفیں ہیں۔ احمد فراز اچھے نئے شاعر ہیں۔

ان کا مجموعہ، دورانِ ثوب، شاعر ہو پکا ہے مصطفیٰ ازیکی نے دنیا۔ نے شاعری میں تین الہ آبادی کے نام سے قدم رکھا۔ وہ پاکستان اس وقت گئے جب ان کو شاعر کی حیثیت سے شہرت ملنے لگی تھی مگر پھر کچھ لے کر ہر سوں میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ ان کے مجموعہ کلام، روشنی، گریبان، قبائے ساز، شاعر ہو چکے ہیں۔ طور نظر بھی پاکستان کے رچھے شاعر ہیں جو تو ترقی پندری کے ساتھی اسلوب کی بعدت پر بھی زور دیتے ہیں۔ ان کی نسلیں ارمنیہ، ریزیہ، اکے نام سے چھپ چکی ہیں۔ عرشِ صدیقی (اویدہ یعقوب) ناصر شہزاد رچاند کی پیاسا، ساقی فاروقی (پیاس کا محرار)، ظفر اقبال (آب روائی)، شہزاد احمد رصف، فہیدہ ریاض (تھر کی زبان)، احمد اعظمی رب و زخسار، ابن انشا (رچاند نگر)، میر نیازی (جنگل میں دھنک)، بھی نئی شاعری کے نمائندہ شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان میں منتظر سیلیم، محمود ایاز، عزیزیہ تمنائی، راجح نزاں راز، محمد علوی اور پاکستان میں اد اعفری، محبوب خراں، جمیل ملک، باقی صدیقی، عبد العزیز خاونت، جمیل الدین عالی، مشق خواجہ بھی نئے شاعروں میں جانے پہچانے نام ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ شور اور نظریے کے معیار پر ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں میں پکھو برسوں کے درمیان غزل کو بڑی مقبولیت ملی ہے، کیونکہ غزل کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس میں نئے تبدیل ہونے والے خیالات بھی نئے سائچے بھی آسان طریقے سے دھل جاتے ہیں۔

شاعری کے برابر تو نہیں مگر کہاں اور ناول میں بھی عصریت نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ اس طرح اختیار کیا گیا نیا بن حفص اندازِ فلک اور خلیق کی بیعت کا نہیں ہے، زندگی کو نوٹی پھوٹی اور سمجھری ہوئی مان لئے اور اسی کو بڑھا دادیئے کے سبب حکمن ہوا ہے۔ ایسا ہونا قدر تھی ہے مگر یہاں بھی جس فکار نے زندگی کو دیکھا اور سمجھا ہے، جس نے تسمی نیادی نظریے کا سرا پالیا ہے اور جسے کہاں کو دلچسپ بنائے رکھنے کا جادو آتا ہے دبی دنیا کے اذ

میں معزز ہو۔ طے ہے۔ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ بہت سے افسانہ بھگار و نادل گھار کا ذکر کچھلے باب میں ہوا، آج بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے نام گنانے کی صورت نہیں۔ نئے تکھنے والوں میں قرة العین حیدر زادم لال انور عظیم، جو گیند رپاں، جیلانی بانو، آمنہ ابوالحسن، واحدہ تم، غیاث احمد گذی، قاضی عبد التبار، اقبال میں، عطیہ پروین ہندوستانی میں اور ہاجره مسرور، خدیجہ ستور، اے حیدر، جیلہ ہاشمی، رضیہ فتح علام رفیع صادق ہیں ہقام محمود، حمید کاشمیری، جیلانی اصر پاکستان میں تسلیم کیے جانے کے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔

قرۃ العین حیدر ۱۹۷۴ء تک خیالی روایتی قصہ تکھنی رہیں مگر آزادی کے بعد کی صورت حال سے متاثر ہو کر جب انہوں نے اپنا پلا نادل میر تم خاتمہ، لکھا تو ان کا نقطہ نظر اور حناہی دونوں بدے ہوتے نظر آئے۔ اسی وقت سے انہوں نے نادل اور افسانے میں بے شال ترقی کی ہے۔ انہوں نے مغربی ادب، ہندوستانی فن و ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور زبان کے استعمال پر انہیں غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ ان کی مقبولیت کاراز بھی ہندوستان کے زندگی کے دھاروں کی ملاشی ہی ہے۔ ان کی کہانیوں کے مجموعے، تلہدوں سے آگے، شیشے کے گھر، اور پت جھڑ کی آواز، ہیں اور نادلوں میں میرے بھی صنم خانے، سفینہ، عنزہ دل، آگ کا دریا، حائے کا باع، سیتا ہرن اور آحری شب کے ہم سفر، ہیں جن میں تخلیقی استعداد کی ایک خوبی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کئی اچھے ترجمے بھی کیے ہیں۔ رام لال نے تھی ۱۹۷۶ء کے پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر ان کی شہرت ۱۹۷۵ء کے بعد ہوئی۔ اب وہ بہت بیدار مصنف ہیں اور زندگی کی مختلف سطحوں کا اپنے تجربوں کی خیاد پر اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی متعدد کہانیوں کے مجموعوں میں ہلکی ہلکی، آواز پچان تو، چراغوں کا سفر، اور کل کی باتیں، اقبال ذکر ہیں۔ انور عظیم مقبول افسانہ نویس ہیں معمولی واقعات سے ہیں تصوریں بنانے میں انہیں خاص تجربہ ہے جس میں ان کا اصل اندمازِ فکر نمایاں ہوتا رہتا

ہے۔ ان کا ایک ناول 'دھواں دھواں سویرا' شائع ہو چکا ہے۔ جو گینیدہ پر
نے افریقہ میں رہ کر کہانی لکھنا شروع کیا اور اس وقت کی کہانیوں میں
وہیں کے پس منظر کو اساس بنایا پھر پاکستان اور سندھستان میں یہاں کی
دھرتی کی تلاش کی۔ نئے افسانہ نگاروں میں ان کی ایک خاص جگہ ہے
افسانوں کا مجموعہ 'دھرتی کا کال'، اور ناول 'ایک بوند ہوکی اور رکھوا'،
قابل ذکر ہیں۔ جیلانی بانو نے ترقی پسند نظریات سے مستفیض ہو کر تھوڑی
ہی مدت میں ناموری حاصل کر لی ہے۔ افسانوں کا مجموعہ 'روشنی کا میمار'،
اور مختلف ناویں کا مجموعہ 'جگنو اور ستارے'، چھپ چکے ہیں۔ آمنہ اولٹن
بھی جیلانی بانو کی طرح حیدر آباد سے تعلق رکھتی ہیں اور وہیں کی زندگی
سے اپنی کہانیوں میں زگ بھرتی ہیں۔ ایک مجموعہ کہانی شائع ہوا ہے۔
واجدہ تبسم بھی حیدر آباد کی افسانہ بگار ہیں ان کی دل جپی ثابت کی تصویری
میں ہے۔ ایک مجموعہ 'شہر منزع'، چھپ چکا ہے۔ غیاث احمد گدی بھار کے
اچھے افسانہ نویس ہیں۔ عوامی زندگی سے اپنی کہانیوں کا تاما با بانا تیار
کرتے ہیں۔ کہانیوں کا مجموعہ 'بابا لوگ'، چھپ رہا ہے۔ قاضی عبد استار
علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو کے انتاد ہیں، دیباتی زندگی کے عکس بڑے
دل چپ اور جذب بانی طریقے سے پیش کرتے ہیں اور ان کی زبان میں
ادبیت بھی ہوتی ہے اور بے ساختہ روانی بھی۔ متعدد ناول جیسے شب گزیہ
تجویہا، دار اشکوہ، دستیاب میں، ابھی کہانیوں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں
ہوا۔ اقبال میتین حیدر آباد کے اچھے افسانہ نویس ہیں۔ کہانیوں کا مجموعہ
'اجملی پر چھائیاں'، چھپ چکا ہے۔ عطیہ پروین اور دھر سے تعلق رکھتی ہیں
اور زیادہ تر ہیں کی زندگی کو مرکر، بنائے ناول، مزاحیہ اور بخیدہ افسانے
لکھتی ہیں۔ ایک ناول 'شہلا'، کے نام سے پاکستان میں چھپ چکا ہے۔
کہانیوں کا پہلا مجموعہ زیر اشاعت ہے۔

پاکستان میں نئے افسانہ نویسوں کی بڑی تعداد ہے۔ ان میں بہت
سے ایسے ہیں جن کے مجموعے بھی ابھی شائع نہیں ہوئے ہیں، مگر چونکہ دہل

اخبار اور رسائل بڑی تعداد میں موجود ہیں اس لیے انھیں جلد سی مقبوسی حاصل ہو گئی ہے۔ ہاجرہ مسرور اور خدیجہ متور دونوں ہمینس اب کم تکمیل ہیں، مگر ان کے نادل نامہک اور کہانیاں ہر دل عزیز ہو چکی ہیں۔ ان کی جگہ رضیہ فصیح احمد اور حمیلہ ہاشمی حاصل کر رہی ہیں۔ رضیہ کا ایک نادل "ابلہ پا" اور حمیلہ کے دوناول "تلائش بیاراں" اور "آتش رفتہ" شائع ہو کر بڑا مرتبہ پا چکے ہیں۔ اے حمید کے بہت سے نادل اور کہانیوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ حمید کا شیری کا مجموعہ "دیواریں"، قاسم محمود کا، قاسم کی حندی، صادق جیں کا "پھولوں کا محل"، عبداللہ جیں کا، اوس نسلیں، شوکت صدیقی کا نادل "خدائی بستی"، پھپٹے کچھ برسوں میں ناموری حاصل کر چکے ہیں۔ اس مختصر تاریخ میں ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے دوسرے نکھنے والوں کا ذکر ملکن نہیں ہے۔ بھربھی صاحبہ عاد جیں کے نادل ذطرے سے گھر ہونے تک اور راہ محل، یادوں کے چراغ، اختر اور نیوی کے نادل حضرت، تعمیر، ہنس راج رہبر کے، وہ لوگ، اور کوثر چاند پوری کے شعلہ نگ کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ نکھنے والے اپنی عمر کے اعتبار سے نئے نہیں کہے جاسکتے مگر ان کے کارنامے عصری زندگی کے فنکارانہ مکمل پیش کرتے ہیں۔

موجودہ اور دینقیدی ادب ملک کی دوسری زبانوں کی طرح مغرب کے ادبی نظریات سے تاثر بھی ہے اور اسی نئی کی روایتوں کی بتیجوں میں بھی لگا ہے۔ علم الانتقاد پر سمجھ دیگی کے ساتھ زیادہ نہیں لکھا جا رہا ہے، مگر نقیدی ادب کی طرف خاص دھیان دیا جانے لگا ہے۔ ادھیر تحقیقی کاموں کی طرف بھی دلچسپی بڑھی ہے، کیونکہ مختلف یونیورسٹیوں میں تحقیقی کام کی حوصلہ افرادی کی جا رہی ہے۔ جن تقاضوں کا ذکر گزشتہ بابوں میں ہو چکا ہے۔ موجودہ دور میں بھی ان کی مسلمہ حیثیت ہے، لیکن ان کے علاوہ کچھ نئے نام بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ داکٹر خلیل الرحمن اعنی اور باقر محمدی کے تنقیدی کاموں کا وکران کی منتکومات ہی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب کچھ

ایسے نقادوں کی قدر تقيید کی تعین کی جا رہی ہے، چند جوں نے اس موضوع پر سخنی دی ہے تو جو کہ ہے علی گڑھ رہی کے اسلوب احمد انصاری نے جو انگریزی شعبے کے صدر ہیں۔ اردو میں کچھ فکر آمیز تقدیمی مضاہیں لکھے ہیں جن کا مجموعہ تنقید و تخلیق چھپ چکا ہے۔ ڈاکٹر خدھسن جو بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں، تنقید میں بلند مرتبہ حاصل کر چکے ہیں ان کا مطالعہ وسیع اور قوت استثنائی پر اثر ہے۔ ان کا انداز فکر تکمیلی خاص نظر یہ تک محدود نہیں ہوتا مگر ترقی پسندی سے کسی وقت بھی منحر نہیں ہوتے۔ ان کی کتابوں میں ادبی تنقید، اردو میں رومانی تحریک، مطالعہ سودا، شعر تو جلال لکھنؤی، اور دلی بیں اردو شاعری کا فکری اور تہذیبی لپس منظر، قابل ذکر ہیں۔ ان کے دراموں کے مجموعے، پیسہ اور پرچھائیں، اوز میرے اشیعہ درا سے، بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جوں کشیر یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ بیس اپنی تحقیقی مساعی سے شہرت حاصل کر لی ہے۔ اچھے خوش ذوق نقاد ہیں اور ان کے مضاہیں منصفانہ اور ادبی رموز سے معور ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اردو کی نشری داستانیں، تحریکریں اور اردو مشنوی شعائی سند میں، ہیں دوسرے نقادوں میں ڈاکٹر سکیل ایضاً ہیں جو جوں کشیر یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں۔ تنقید کے نسیاہی طرز سے خاص طور سے متاثر ہیں۔ کتابوں میں زبان اور کلمہ، ادبی قدریں اور لفیات، قابل ذکر ہیں۔ اللہ آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر سعیح الرزمان کو ادبی ذقار حاصل ہے۔ ان کی مطبوعہ کتابوں میں اردو تنقید کی تاریخ، حرف اول مراہی میر اور اردو مرثی کا ارتقا، اہم ہیں۔ ڈاکٹر محمد عقیل کی، شی فکریں، اور اردو مشنوی کا ارتقا، شعائی سند میں قابل ذکر ہیں۔ دلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر قمر زمیں، ڈاکٹر خلیق الجنم، ڈاکٹر گوپی چند نازنگ نے کچھ بھی عرصے میں اسی تنقید کی تحقیق کے کارناموں سے ناموری حاصل کر لی ہے۔ قمر زمیں کی پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، اور تلاش و توازن، ڈاکٹر خلیق الجنم کی، مرزا رفیع سودا، غالباً کی نادر تحریریں، مثبتی تنقید، اور ڈاکٹر نازنگ کی

ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مشنوار دستیاب ہیں۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے سید شبیہ الحسن نے کم تکھیا ہے مگر ان کے ذوق سیلیم اور قوتِ فکر کا ثبوت ان کے مجموعہ مضمایں تنقید و تحلیل سے مل جاتا ہے، وہی کے دیوبیند رائسر کی تنقیدیں ان کی وسعت مطالعہ کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ادب، اور تفہیمات، فکر اور ادب، ادب اور جدید ذہن، خاص ہیں، داکٹر محمد مشنی رضوی مارکسی روایت کے تقادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لکھنا اب ایک طرح سے چھپوڑ دیا ہے، لیکن جو مضمایں شافع ہوئے ہیں انھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ پاکستان کے تقادوں میں داکٹر دزیر آغا کا تذکرہ ان کی نظلوں کے سیاق میں ہو چکا ہے: حمیل جابی، منظر علی سید فتح محمد ملک، ریاض احمد، سلیمان احمد، شئے پاکستانی تقادوں میں مقبول ہیں۔

شئے درامہ نویسوں میں فن کی مختلف سطحوں پر بہت سے تجربے کیے ہیں۔ ان میں محمد حسن، اصغر بٹ، جاوید اقبال، انور عنایت اللہ، ریونی سرن شrama کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ سب یا تو ریڈ یوکے لیے لکھتے ہیں یا جب ایسیخ کے لیے لکھتے ہیں، تو زیادہ تر ایک ایک کے ہی ذرا می ہوتے ہیں۔

طنز و مزاح کی روایتیں ہمہ شہر سے ہی اردو میں موثر رہی ہیں۔ موجودہ زماں میں نظم و نثر میں بہت سے نئے لکھنے والوں نے اسے اپنا میدان عمل بنایا۔ ہے۔ فشری ادب میں فرقہ کا کورڈی، مشتاق یوسفی، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، محبتو حسین، بھارت چند کھنہ اور شعری ادب میں ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، رضا نقوی و اہمی، دلاور فگار بہت پندرہ کیے جاتے ہیں۔

ادب کی ایک مبسوط تاریخ میں محض ان مصنفوں اور شاعروں کا ذکر کافی نہیں جنہوں نے تخلیقی ادب کی تصنیف کی بلکہ ادب کے لیے فضاتیار کرنے میں انجارات و رسائل، ادبی انجمبوں اور افراد کی جدوجہد کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے، جو فن کار کی تخلیقی قوت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ فلسفہ، سیاست اور سائنس کے موضوعوں پر بھی سمجھی کتابیں بھی تخلیقی ادب کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہر بیدار ادب کی طرح اردو

میں بھی ترجیح ہوئے ہیں، جن کے مضر اثرات اور اعانت کو سمجھا یا نہیں جاسکتا۔ مگر اس محفل تاریخ میں ان سب کے لئے جگہ نکالنا ممکن نہیں ہو سکتا یہ ہے اردو زبان اور ادب کی مختصر روداد اجو شخص بھی اس کیانی کو مددی سے غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، اسے محسوس ہو سکا کہ اردو کی ترقی ہندوستان کی سماجی، سیاسی، معاشرتی ترقی سے وابستہ رہی اور رسمی طرح کے تغیرات سے تاثر ہوتی رہی ہے۔ ان میں کئی طرح کی بھولیں جو کہ بھی ہوں یہیں — مختلف ترقی پسندانہ اور رجعت پسندانہ افکار و خیال کا باہمی تصادم ہی رہا ہے، مصنفوں شاعروں کے دل انتراقات سے میلے بھی ہے ہیں مگر یا انعوم اس نے ہر تاریخی مؤثر پر کوائٹ زندگی کی مصوری اور انسان کی امیدوں، خواہشوں، خوابوں کا بیان کیا ہے۔ بہت سی ذاتوں اور مرد ہبوں کے تخلیق کاروں نے اس کے ادبی خرز بینے کو بڑھانے کی سعی کی ہے اور غیر ملکوں کی ادبی سرگرمیوں سے بھی مستثن ہونے کی کوشش کی ہے اس نے ہمیشہ خلامی کے خلاف آزادی کا، ناصافی کے خلاف انصاف کا، فرقہ داریت کے خلاف رواداری کا، تنگ نظری کے خلاف بچائے باہم کا تنگ دل کے خلاف ولداری کا اور ادبی پیغام کے خلاف مساوات کا ساتھ دیا ہے اور اس کی اصل سرگرمی ہر دور میں ترقی پسندانہ رہی ہے — جاگیردارانہ انحطاط کے دور میں اس نے انسان دستی کے، فرد کی آزادی کے گھنٹت گائے۔ بیداری کے دور میں حب الوطنی، انسان دستی، آزادی، جمیعت اور سماجی انصاف پر زور دیا اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اردو کا وقار محفوظ رہے گا۔ جب کبھی ملک کی تمدنی سب کی طلبی تاریخ سمجھی جائے گی تو اس میں اردو ادب سے بڑی مدد ملے گی، یہ کونکہ یہ ہر دور میں قومی انحطاط اور راشٹر اک کا نشان ہی رہی ہے، بلکہ انسان دستی کی طرف کیسی پیغام کا پر زور و سیلہ بھی ثابت ہوئی ہے۔

